

بائبل

قُرْآن

سائینس

مترجم
ثناء الحق صدیقی

مصنّف
مورس بوکائیے

ناشر

إدارة القرآن
والعلوم الاسلامیہ

۴۳۷/ڈی۔ گارڈن ایسٹ۔ نزد لسبیلہ چوک کراچی ۷

۷۶۴۸۸

فون





تعارف

توحید پر عقیدہ رکھنے والے تینوں مذہبوں میں سے ہر ایک کا اپنے اپنے صحیفوں کا مجموعہ موجود ہے۔ اہل ایمان کے لئے خواہ وہ یہودی ہوں، خواہ نصرانی اور خواہ مسلمان یہ صحیفے ان کے عقیدے کی بنیاد ہیں۔ وہ ان کے لئے الہام و تنزیل کی تحریری شکلیں ہیں، خواہ یہ الہام براہ راست ہوا ہو جیسا کہ حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ علیہما السلام کا معاملہ ہے کہ انھیں خود باری تعالیٰ سے احکامات ملے خواہ بالواسطہ طور پر ہوا ہو جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ میں ہوا جن میں سے اول الذکر نے بیان کیا کہ وہ اپنے آسمانی باپ کی جانب سے ہم کلام ہو رہے ہیں اور موخر الذکر نے انسانوں کو وہ پیغام پہنچایا جو حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعہ سے آپ کو ملا تھا۔

اگر ہم مذہبی تاریخ کے حقائق پر معروضی طور سے غور کریں تو ہمیں عہد نامہ عتیق اناجیل اور قرآن کو وحی کے تحریری مجموعوں کی حیثیت سے ایک ہی سطح پر رکھنا پڑیگا اگرچہ اس طرز عمل کو اصولی طور پر مسلمان اختیار کئے ہوئے ہیں لیکن مغرب کے مذہبی حلقے یہودی و نصرانی اثرات کے تحت قرآن کو ایک الہامی کتاب کا درجہ دینے کے لئے تیار نہیں ہیں۔

اس طرح کے طرز عمل کی وضاحت اس نقطہ نظر کی روشنی میں کی جا سکتی ہے جو ہر مذہبی فرقہ صحیفوں کے اعتبار سے باقی دو مذاہب کے متعلق رکھتا ہے۔ یہودیت کی اپنی مقدس کتاب عبرانی بائبل کی شکل میں ہے۔ یہ عیسائیوں کے

عہد نامہ قدیم سے اس اعتبار سے مختلف ہے کہ مؤخر الذکر میں کسی ایسی کتابیں شامل ہیں جو عبرانی میں موجود نہیں تھیں۔ اس اختلاف سے عملاً کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن یہودیت اپنے سوا بعد کی کسی بھی تنزیل و وحی کو تسلیم کرنے کے لئے آمادہ نہیں ہے۔

عیسائیت نے عبرانی بائبل کو اپنا لیا ہے اور اس میں چند ضمیمہ جات کا اضافہ کر دیا ہے لیکن اُس نے ان تمام شائع شدہ تحریروں کو تسلیم نہیں کیا جن کا مقصد ہی انسانوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مشن سے آگاہ کرنا تھا۔ کلیسا نے ان کتابوں کی اشاعت میں قطع و برید سے کام لیا ہے جن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات اور تعلیمات کا ذکر ہے۔ اُس نے عہد نامہ جدید میں صرف ایک محدود تعداد میں تحریروں کو محفوظ رکھا ہے جن میں اہم ترین وہ چار اناجیل ہیں جن کو شرعی حیثیت حاصل ہے عیسائیت کسی ایسی وحی کو تسلیم نہیں کرتی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کے حواریوں کے بعد نازل ہوئی۔ لہذا وہ قرآن کو مسترد کرتی ہے۔

نزدول قرآن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے چھ سو سال بعد ہوا۔ وہ بہت سی اُن معلومات کو قائم و برقرار رکھتا ہے جو عبرانی بائبل اور اناجیل میں پائی جاتی ہیں۔ اس لئے اس میں اکثر تورات اور انجیلوں کے حوالے ملتے ہیں۔ قرآن میں مسلمانوں کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ اُن تمام صحیفوں پر ایمان لائیں جو اُس سے پہلے نازل ہوئے (سورہ ۴ آیت ۱۳۶) یہ اُس اہم مقام پر زور دیتا ہے جو وحی و تنزیل کے معاملہ میں خدا کے پیغمبروں کو حاصل ہے جیسے نوح، حضرت ابراہیم، موسیٰ، دیگر انبیاء اور عیسیٰ علیہم السلام جن کو ایک خصوصی حیثیت حاصل ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کو اناجیل کی طرح قرآن بھی ایک فوق الفطرت واقعہ قرار دیتا ہے۔ اسی طرح حضرت مریم علیہا السلام کو بھی ایک خصوصی مقام دیا گیا ہے، جیسا کہ اس خفیقت سے ظاہر ہے کہ انیسویں سورۃ ہی اُن کے نام پر ہے۔

اسلام کے بارے میں مذکورہ اصدرو واقعات کا مغرب کو عام طور پر علم نہیں ہے۔ اس صورت میں یہ کوئی حیرت خیز بات نہیں رہتی جب ہم اُس طریقہ پر غور کرتے ہیں جس طریقہ سے مغرب میں اتنی بہت سی نسلوں کو اُن مذہبی مسائل کی جن سے بنی نوع انسان کو سابقہ تھا تلقین کی گئی اور اسلام سے متعلق ہر بات سے اُن کو تاریکی میں رکھا گیا۔ ایسی اصطلاحوں کا استعمال جیسے دین محمدی (محمد بن علی بن) اور محمدیت (محمد بن ازم) زمانہ حال تک اس غلط خیال کو برقرار رکھنے میں معین و مددگار ثابت ہوا کہ اسلامی عقائد ایک شخص کی جدوجہد سے پھیلے جس میں (عیسائیت کے نقطہ نظر سے) خدا کو کوئی مقام حاصل نہیں ہے۔ اس وقت بھی بہت سے مہذب لوگ ایسے ہیں جو اسلام کے فلسفیانہ، معاشرتی اور سیاسی پہلوؤں سے تو دلچسپی رکھتے ہیں لیکن جیسا کہ فی الواقع اُنہیں چاہیے وہ اسلامی وحی و تنزیل کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے سلسلہ میں ذرا بھی غور و فکر سے کام نہیں لیتے۔

بعض نصرانی حلقوں میں مسلمانوں کو کس قدر حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے ! مجھے اس بات کا تجربہ اُس وقت ہوا جب میں نے ایک ہی موضوع پر بائبل اور قرآن کے بیانات کے تقابلی تجزیہ سے پیدا ہونے والے مسائل پر تبادلہ خیالات شروع کرنے کی کوشش کی میں نے معمولی غور و فکر کی غرض سے کہ قرآن موضوع زیر بحث کے بارے میں کیا کہتا ہے سامنے لانا چاہا تا تو مجھے باقاعدہ طور پر انکار سے دوچار ہونا پڑا، گو یا قرآن سے کسی بات کو نقل کرنا ایسا ہی ہے جیسا شیطان کا حوالہ دینا۔

ہم ان دنوں عیسائی دنیا میں بلند سطح پر ایک قابل ذکر تبدیلی دکھائی دے رہی ہے لیکن کے غیر مسیحی امور کے شعبہ سے فرانسیسی زبان میں ”اورنٹا سیول پوراں دایا لوگ انتر کرسیاں اے مسلمانس“ (عیسائیوں اور مسلمانوں کے مابین بات چیت کے لئے نئی راہیں) کے عنوان سے ایک دستاویز شائع ہوئی ہے جس کی تیسری

فرانسیسی اشاعت مورخہ ۱۹۷۰ء سرکاری رویہ میں ایک گہری تبدیلی کی نشان دہی کرتی ہے۔ ایک جانب تو اس دستاویز نے قادی کو اُس فرسودہ تصور کو ذہن سے محو کر دینے کی دعوت دی ہے جو اسلام کے بارے میں عیسائیوں کے یہاں بطور ورثہ چلا آ رہا ہے یا تعصب اور الزام تراشی کے سبب جس کو مسخ کر دیا گیا ہے۔ دوسری طرف وٹیکن کی اس دستاویز میں اُس تانصافی کا اعتراف کیا گیا ہے جو مسلمانوں کے ساتھ روا رکھی گئی ہے اور جس کے لئے مغرب اپنی عیسائیت کی تعلیم کی بناء پر موروثی الزام قرار پاتا ہے۔ اس میں اُن غلط تصورات پر بھی تنقید کی گئی ہے جو مسلمانوں کے عقیدہ قضا قدر، اسلامی شریعت پرستی، جبر و تشدد وغیرہ کے بارے میں عیسائی قائم کئے ہوئے ہیں۔ یہ دستاویز اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر زور دیتی ہے۔ اور اس چیز کی یاد دہانی کراتی ہے کہ اللہ ہر کی جامعہ اسلامیہ قاہرہ میں سامعین اُس وقت کس قدر حیران و ششدر رہ گئے جب کارونیا کو ننگ نے مسجد جامع میں مارچ ۱۹۶۹ء کی ایک سرکاری کانفرنس کے دوران اس توحید کا اعلان کیا۔ اس میں ہمیں اس بات کی بھی یاد دہانی کرائی گئی ہے کہ ۱۹۶۴ء میں وٹیکن کے دفتر میں عیسائیوں کو اس غرض سے مدعو کیا گیا تھا کہ وہ ماہ رمضان المبارک کے اختتام پر مسلمانوں کے لئے بصمیم قلب نیک تمناؤں کا اظہار کریں۔

رومن کیتھولک کی مجلس اور اسلام کے مابین قریبی تعلقات قائم کرنے کے لئے ان ابتدائی اقدامات کے بعد مختلف مظاہر سامنے آئے۔ اور دونوں کے درمیان ملاقاتوں سے ایک گونہ استقامت پیدا ہوئی۔ لیکن مغربی دنیا میں جہاں یہ سب کچھ ہوتا رہا اور جہاں پریس، ریڈیو اور ٹیلی ویژن کی شکل میں ابلاغ عامہ کے کافی ذرائع موجود ہیں۔ اس قدر بڑی اہمیت کے واقعات کی بہت کم اشاعت ہوئی۔

اخبارات نے غیر مسیحی امور کے وٹیکن کے دفتر کے صدر کارونیا پگنیدولی

کی ۲۴ اپریل ۱۹۶۲ء کو ہونے والی سعودی عرب کے شاہ فیصل کے ساتھ سرکاری ملاقات کو اپنے صفحات میں بہت کم جگہ دی۔ فرانسیسی اخبار لے موند (دنیا) نے ۲۵ اپریل ۱۹۶۲ء کی اشاعت میں اس واقعہ کو چند سطروں میں نمٹا دیا۔ لیکن ان سطور میں کس قدر مہتمم بالشان خبر تھی۔ یہ ہمیں اُس وقت معلوم ہوا جب ہم نے پڑھا کہ کس طرح کارو دنیا نے شاہ موصوف کو پوپ پال ششم کی جانب سے ایک ایسا پیغام پہنچایا جس میں ہرزہ بولی نس کی طرف سے جلالتہ الملک شاہ فیصل کی خدمت میں اسلامی دنیا کے سربراہ کی حیثیت سے اس گہرے یقین کے ساتھ بہترین تمنائیں پیش کی گئی تھیں کہ خدائے واحد کی عبادت کے معاملہ میں اسلامی اور عیسائی دنیا میں متحد ہو جائیں۔

چھ ماہ بعد اکتوبر ۱۹۶۲ء میں پوپ نے سعودی عرب کے علماء کو ایک سرکاری دورہ پر ویٹیکن میں بارہ باب کیا۔ اس موقع پر ”اسلام میں انسان کے تمدنی حقوق“ پر عیسائیوں اور مسلمانوں کے درمیان بات چیت ہوئی۔ ۲۶ اکتوبر ۱۹۶۲ء کو ویٹیکن کے اخبار ”آئیر ریویو رومانو“ نے اس تاریخی واقعہ کو صفحہ اول کے بیان میں پیش کیا۔ اور اس خبر کو روم میں منعقدہ ارکان کلیسا کی میٹنگ کے آخری دن کی اطلاع کے مقابلہ میں زیادہ جگہ دی گئی۔

بعد میں سعودی عرب کے علمائے اکرام کو کلیسا نے جنیوا کی عالمگیر کونسل اور اسٹراسبرگ کے لاٹ پادری ہنزگر لیس الکنگر نے خوش آمد کہا۔ پادری صاحب نے انکو اپنے گرجا میں دوپہر کی دُعا میں شرکت کے لئے مدعو کیا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جس واقعہ کی وجہ سے اس کی اس قدر تشہیر ہوئی وہ اس کی غیر معمولی نوعیت تھی نہ کہ ایک بے انتہا مذہبی اہمیت کا واقعہ ان تمام موقعوں پر میں نے جن لوگوں سے بھی اس کے بارے میں سوال کیا ان میں سے بہت ہی کم ایسے تھے جنہوں نے یہ جواب دیا کہ ہمیں اس کے متعلق کچھ واقفیت ہے۔

پوپ پال ششم کا اسلام کی جانب یہ فراخ دلانہ طرز عمل دونوں مذاہب کے درمیان
تعلقات میں سنگِ میل ثابت ہوگا۔ انھوں نے خود بھی کہا کہ:

”مجھے یقین ہے کہ خدائے واحد کی عبادت کی بنیاد پر اسلامی اور عیسائی
دنیاؤں میں اتحاد ممکن ہے۔“

مسلمانوں کے بارے میں کئی تھوڑے گمراہ کے سربراہ کے جذبات و تاثرات کا تذکرہ
یقیناً ضروری ہے۔ عیسائیوں کی ایک کثیر تعداد جس کی تربیت کھلی دشمنی کی فضا میں ہوئی
ہے وہ اصولی طور پر اسلام کے بارے میں غور کرنے کے بھی خلاف ہے وٹیکن کی دستاویز
میں اس امر پر اظہارِ افسوس کیا گیا ہے۔ ان کے اس طرزِ عمل کا سبب یہ ہے کہ انھیں
اسلام کی حقیقت سے قطعاً ناواقف رکھا گیا ہے اور یہ کہ انھوں نے اسلامی وحی و
الہام کے بارے میں جو خیالات قائم کئے ہیں وہ سر بسر غلط ہیں۔

اس کے باوجود جب ایک توحید پرست مذہب کی وحی و تنزیل کے کسی ایک پہلو
کا مطالعہ کیا جائے تو یہ بات مناسب معلوم ہوتی ہے کہ ساتھ ہی یہ بھی دیکھا جائے کہ
اس موضوع کے سلسلہ میں باقی دو مذاہب کا کیا موقف ہے۔ کسی ایک مسئلہ کا وسیع
مطالعہ ایک محدود جائزہ سے زیادہ دلچسپ ہوتا ہے۔ لہذا بعض ان مضامین کے جن
پر صحیفوں میں بحث کی گئی ہے اور ۲۰ ویں صدی کے سائنسی حقائق کے مابین مقابلہ
میں تینوں ہی مذاہب آجاتے ہیں۔ علاوہ انہیں جب مادیت کی غارتگری کا خطرہ لاحق
ہو، اس وقت تینوں مذاہب کا اپنے قریبی روابط کے لحاظ سے مضبوط اتحاد کا رآمد
رہے گا۔

یہ تصور کہ سائنس اور مذہب ایک دوسرے کے مخالفت ہیں یہودی۔ عیسائیت
کے زیر اثر ممالک میں بھی اسی طرح پھیلا ہوا ہے جیسا کہ اسلامی دنیا میں ہے خصوصیت
سے سائنسی حلقوں میں اگر اس مسئلہ پر تفصیل سے بحث کی جائے تو طویل مباحث کا

ایک سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ لہذا اس کتاب میں میرا ارادہ صرف ایک پر گفتگو کرنے کا ہے۔ وہ ہے خود صحیفوں کا جدید سائنسی معلومات کی روشنی میں جائزہ۔ اپنے کام کا آغاز کرنے سے پہلے ہمیں ایک بنیادی سوال کرنا پڑتا ہے وہ یہ کہ موجودہ متون کس حد تک مستند ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کے جواب کے لئے اُن حالات کا جائزہ لینا ضروری ہے جن حالات میں اُن کو مرتب کیا گیا اور جس طرح سے چل کر وہ ہم تک پہنچے۔

مغرب میں صحیفوں کے تنقیدی جائزے کا کام حالیہ زمانہ کا ہے۔ سینکڑوں سال تک لوگ بائبل کو جس میں عہد نامہ عتیق اور عہد نامہ جدید دونوں شامل ہیں بالکل اسی صورت میں ماننے پر قانع تھے جس صورت میں وہ موجود ہیں اس کے مطالعہ کا مقصد اس کے سوا کچھ نہ ہوتا تھا کہ اُس کے معتبر ہونے کی توثیق و تصدیق کر دی جائے اس پر ذرا سی بھی تنقید کرنا نہ ہوتا تھا کہ اُس کے معتبر ہونے کی توثیق و تصدیق کر دی جائے۔ اس پر ذرا سی بھی تنقید کرنا گناہ سمجھا جاتا تھا۔ صرف پادریوں کو یہ حق پہنچتا تھا کہ وہ بائبل کا تفصیلی علم حاصل کریں جب کہ عوام میں سے اکثریت کا کام صرف اتنا تھا کہ وہ کسی وعظ یا دُعا کے دوران اُس کے منتخب حصوں کو سُن لیں۔

خصوصی مطالعہ کی سطح پر اُبھر کر متن پر تبصرہ ایسے مسائل کو بے نقاب کرنے اور اُن کی اشاعت کرنے میں مدد و معاون ثابت ہوتا ہے جو بسا اوقات بڑی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں لہذا اس طرح کی تنقیدی نوعیت کی تحریروں کا مطالعہ اُس صورت میں کس درجہ یا یوں کن ہوتا ہے جب اُن میں توضیح و تشریح کے مسائل سے سابقہ ہو لیکن وہاں معذرت خواہانہ انداز کی ایسی عبارتیں پیش کر دی جائیں جن کے ذریعہ مصنف اپنی گوگلو کی کیفیت کو چھپانے کی ترکیبیں نکالتا ہو۔ ایسے موقعوں پر جو کوئی اپنے معروضی فیصلہ اور غور و فکر کی قوت کو برقرار رکھتے ہوئے کام کرتا ہو اُس کو ناممکنات اور تضادات میں

ذرا سی بھی کمی ہوتی ہوئی محسوس نہ ہوگی۔ اس رویہ پر سولے اظہارِ افسوس کے اور کیا کیا جاسکتا ہے کہ تمام منطقی دلائل کی موجودگی میں بائبل کے صحیفوں کی بعض عبارتوں کی اس صورت میں بھی حمایت کی جائے جب کہ وہ غلطیوں سے بھری پڑی ہوں۔ اس اصرار سے عقیدہ الوہیت کے سلسلہ میں سنجیدہ طبائع پر بہت بُرا اثر پڑتا ہے لیکن تجربہ سے پتہ چلتا ہے کہ اگر اس قسم کے مغالطوں میں امتیاز کرنے والے چند لوگ ہیں تو عیسائیوں کی اکثریت ایسی ہے جس نے اس قسم کے تناقضات پر اپنی دنیوی معلومات کی روشنی میں کبھی کوئی غور نہیں کیا خواہ وہ تناقضات معمولی درجہ کے ہوں۔

اسلام کی اگر کسی چیز کا مقابلہ اناجیل سے کیا جاسکتا ہے تو وہ کچھ حدیثیں ہیں وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جمع شدہ اقوال اور آپ کے افعال کے تذکرے ہیں۔ اناجیل کی بہت بڑی تعداد کا مسئلہ مختتم طور پر طے کر دیا گیا تھا۔ اُن میں سے صرف چار کی تشریحی حیثیت مان لی گئی ہے۔ باوجودیکہ بہت سے نکات ایسے ہیں جن پر اُن میں بھی اتفاق نہیں ہے۔ باقی کے لئے یہ حکم دے دیا گیا ہے کہ اُن کو مسترد قرار دیا جائے چنانچہ اسفارِ محرفہ کی اصطلاح کام میں لائی گئی۔

عیسائیت اور اسلام کے صحیفوں میں ایک بنیادی چیز جو ماہِ الاقیمانہ ہے، یہ حقیقت ہے کہ عیسائیت میں کوئی متن ایسا نہیں ہے جو منزل من اللہ ہو اور جس کو ضبط تحریر میں لے آیا گیا ہو لیکن اسلام میں قرآن ایک ایسی چیز ہے جو اس شرط کو پورا کرتا ہے۔

قرآن وحی کا وہ اظہار ہے جو حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی جس کو فوراً قلمبند کر لیا گیا اور اہل ایمان نے حفظ کر لیا۔ وہ اپنی ناز و خصوصاً ماہِ رمضان المبارک میں اُس کی قرأت و ترتیل کرتے رہے۔ خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سورتوں میں ترتیب قائم کی اور یہ سب سورتیں بنی کریم ۴

کی رحلت کے فوراً بعد حضرت عثمان کے دورِ خلافت میں (رحلتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ۱۲ تا ۲۴ سال) متن کو موجودہ شکل دینے کے لئے جمع کر لیا گیا۔ اس کے برخلاف مسیحی الہام متعدد انسانی بیانات پر مبنی ہے حقیقت میں بہت سے عیسائیوں کے خیال کے برعکس ہمارے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے واقعات کا کوئی عینی شاہد نہیں ہے۔ عیسائی اور اسلامی متون کے معتبر اور غیر معتبر وہ صورت ہے جو اب قائم ہوئی ہے۔

صحیفوں کے متون اور سائنسی معلومات کے مابین تناقض نے ہمیشہ انسان کے غور و فکر کے لئے غذا فراہم کی ہے۔

شروع میں یہ خیال کیا جاتا تھا کہ مقدس متن کے قابل اسناد ہونے کے لئے صحیفوں اور سائنس کے مابین توافق ایک ضروری عنصر ہے۔ سینٹ اگسٹائن نے مکتوب ۸۴ میں جس کو ہم بعد میں نقل کریں گے باقاعدہ طور پر یہ اصول پیش کیا تھا لیکن جیسے جیسے سائنس میں ترقی ہوتی گئی یہ بات صاف ہوتی چلی گئی کہ بائبل اور سائنس کے مابین اختلافات ہیں لہذا یہ بات طے کر دی گئی کہ آئندہ اس قسم کا موازنہ نہیں کیا جائے گا۔ اس طرح ایک ایسی صورت حال پیدا ہو گئی ہے جس کو آج ہم تسلیم کرنے پر مجبور ہیں وہ یہ کہ بائبل کے مفسرین اور سائنس دانوں کے درمیان مفاد وقت و معاشرت پیدا ہو گئی ہے۔ بہر حال ہم کسی ایسی وحی کو تسلیم نہیں کر سکتے جس میں ایسی باتیں ہوں جو کلیہً غیر صحیح ہوں، ان میں مصالحت کرانے کا صرف ایک ہی منطقی طریقہ ہو سکتا ہے وہ یہ کہ کسی ایسی عبارت کو جس میں ناقابل قبول سائنسی معلومات دی ہوئی ہوں حقیقتی نہ سمجھا جائے۔ لیکن یہ طرز عمل اختیار نہیں کیا گیا۔ اسکی

اے یہاں مصنف موصوف کو تسمیح ہوا۔ مصحف کی صورت میں قرآن حضرت عثمان غنی کے دورِ خلافت سے پہلے ہی جمع ہو چکا تھا۔ حضرت عثمان غنی نے تو امت کو اختلاف سے بچانے کے لئے تمام مسلمانوں کو ایک قرأت پر جمع کیا تھا اور وہ قرأت قریش کی تھی۔ (مترجم)

بجائے متن کو درست تسلیم کرنے پر اصرار کیا گیا اور ماہرین کو مجبور کیا گیا کہ وہ بائبل کے صحیفوں کی صحت کے سلسلہ میں ایسا رویہ اختیار کریں جو سائنسدانوں کے لئے مشکل سے قابل قبول ہو۔

جس طرح بائبل کے معاملہ میں سینٹ آگسٹائن نے کہا تھا اسی طرح اسلام نے بھی ہمیشہ سے یہ طرز عمل اختیار کر رکھا ہے کہ صحت مقدس میں جو معلومات شامل ہیں سائنسی حقائق سے مطابقت رکھتی ہوں۔ اسلامی وحی کے حالیہ جائزے نے اس صورت حال میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں کی ہے۔ جیسا کہ ہم آگے چل کر دیکھیں گے قرآن کریم میں مقدس بائبل سے کہیں نہ زیادہ سائنسی دلچسپی کے مضامین زیر بحث آئے ہیں۔ بائبل میں یہ بیانات محدود تعداد میں ہیں لیکن سائنس سے متباہن ہیں اس کے برخلاف قرآن میں بکثرت مضامین سائنسی نوعیت کے ہیں۔ اس لئے دونوں میں کوئی مقابلہ نہیں۔ مؤخر الذکر میں کوئی بیان بھی ایسا نہیں جو سائنسی نقطہ نظر سے متصادم ہوتا ہو۔ یہ وہ بنیادی حقیقت ہے جو ہمارے جائزہ لینے سے ابھر کر سامنے آئی ہے۔ ہم اسی کتاب کے آخر میں دیکھیں گے کہ حدیثوں کا معاملہ یہ نہیں ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اقوال کا مجموعہ ہیں جو قرآنی تزییل و الہام سے ہٹ کر ہیں، جن میں سے بعض سائنسی اعتبار سے ناقابل قبول ہیں۔ زیر غور احادیث کا قرآن کریم کے ان سخت اصولوں کے مطابق جائزہ لیا گیا ہے جن میں اس بات پر زور دیا جاتا ہے کہ اگر ان کو ناقابل اعتماد ثابت کرنا ضروری ہو تو ہمیشہ سائنس اور دلیل و برہان کو کام میں لایا جائے۔

کسی صحیفہ کے سائنسی اعتبار سے قابل اعتماد اور ناقابل اعتماد ہونے کے مسئلہ پر غور و فکر کرنے کے لئے کچھ وضاحت درکار ہے۔ یہاں اس بات پر زور دینا چاہتا ہے کہ جب سائنسی معلومات سے متعلق گفتگو کی جاتی ہے تو اس سے وہ حقائق مراد ہوتے ہیں جو قطعی طور پر تسلیم کر لئے گئے ہیں۔ اس اصول سے ایسے توضیحی نظریات

خارج از بحث ہیں جو کسی ایک وقت میں کسی خاص حادثہ پر روشنی ڈالنے کے لئے مفید معلوم ہوتے ہیں لیکن جن کو کسی ایسی توضیح کے لئے ترک کر دیا جاتا ہے جو سائنسی ترقی کے ساتھ زیادہ ہم آہنگ معلوم ہوتی ہے۔ یہاں میرا ارادہ جس چیز پر غور کرنے کا ہے وہ مسلمہ حقائق ہیں یا پھر وہ مسائل ہیں جن پر اگرچہ سائنس ابھی نامکمل معلومات فراہم کر سکی ہے تاہم آگے چل کر وہ کسی غلطی کے اندیشہ کے بغیر کام میں لانے کے لئے پوری طرح استوار ہو جائیں گے۔ مثال کے طور پر سائنس دانوں کے پاس کرۂ ارض پر انسان کے ظہور کی تقریبی تاریخ بھی موجود نہیں ہے۔ تاہم انھوں نے انسانی صنعت کی ایسی باقیات دریافت کر لی ہیں جن کا تعین بغیر کسی شک و شبہ کے دس ہزار سال قبل مسیح سے پہلے کیا جاسکتا ہے۔ لہذا ہم تسلیم نہیں کر سکتے کہ اس موضوع پر بائبل کی بیان کردہ حقیقت سائنس کے ساتھ مطابقت رکھتی ہے۔ کتاب پیدائش کے بائبل کے متن میں جو تاریخیں اور نسب نامے دیئے گئے ہیں، وہ نسل انسانی کی پیدائش (یعنی تخلیق آدم) کو تقریباً ۳۷۰۰ سال قبل مسیح قرار دیتے ہیں۔ ممکن ہے مستقبل میں سائنس ہمارے لئے ایسی معلومات فراہم کر دے جو ہمارے موجودہ حسابات سے زیادہ صحیح ہو لیکن اس بات کا کامل یقین ہے کہ وہ ہمیں کبھی یہ نہیں بتائے گی کہ انسان کا سطح ارض پر ظہور ۳۶۰۰ سال پہلے ہوا تھا جیسا کہ ۱۹۷۵ء کے اعتبار سے عبرانی تقویم میں بتایا گیا ہے۔ لہذا انسان کی قدامت سے متعلق بائبل کی معلومات غیر صحیح ہیں۔

سائنس کے ساتھ اس مقابلہ میں مذہبی نوعیت کے مسائل کو شامل نہیں کیا گیا ہے مثال کے طور پر سائنس کے پاس اس بات کی کوئی تشریح و تاویل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا جلوہ کیسے دکھایا۔ یہی بات فطرت کے اس راز کے بارے میں کہی جاسکتی ہے کہ ۱۶۵۰ء میں اٹرلینڈ کے آرٹ بشپ جمسی آشر نے انکشاف کیا تھا کہ تخلیق کا واقعہ ۲۳ اکتوبر ۱۶۵۰ء

ق م کو ۹ بجے دن کے وقت ہوا تھا (مترجم)

ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک جسمانی باپ کے بغیر کیسے تولد ہوئے۔ علاوہ ازیں صحیفے بھی اس نوع کی معلومات کے لئے کوئی مادی توضیح و تشریح نہیں کرتے۔ لہذا ہمارا موجودہ جائزہ ان باتوں سے متعلق ہے جو صحیفہ سماوی ہمیں مختلف النوع مظاہر کے بارے میں بتاتے ہیں اور جن کی کسی نہ کسی حد تک وضاحت کی جاسکتی ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھ کر ہمیں اس اختلاف کو دیکھنا چاہیے جو ایک ہی موضوع سے متعلق قرآن میں کثیر تعداد میں اور باقی دو صحیفوں میں محدود تعداد میں معلومات کے بارے میں ہے۔

جب میں نے پہلے پہل قرآنی وحی و تنزیل کا جائزہ لیا تو میرا نقطہ نظر کلیتہً معروضی تھا۔ پہلے سے کوئی سوچا سمجھا منصوبہ نہ تھا۔ میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ قرآنی متن اور جدید سائنس کی معلومات کے مابین کس درجہ مطابقت ہے۔ تراجم سے مجھے پتہ چلا کہ قرآن ہر طرح کے قدرتی حوادث کا اکثر اشارہ کرتا ہے لیکن اس مطالعہ سے مجھے مختصر سی معلومات حاصل ہوئیں۔ جب میں نے گہری نظر سے عربی زبان میں اس کے متن کا مطالعہ کیا اور ایک فہرست تیار کی تو مجھے اس کام کو مکمل کرنے کے بعد اس شہادت کا اقرار کرنا پڑا جو میرے سامنے تھی۔ قرآن میں ایک بھی بیان ایسا نہیں ملا جس پر جدید سائنس کے نقطہ نظر سے حوف گیری کی جاسکے۔

اسی معیار کو میں نے عہد نامہ قدیم اور اناجیل کے لئے آزمایا اور ہمیشہ وہی معروضی نقطہ نظر قائم رکھا۔ اول الذکر میں مجھے پہلی ہی کتاب آفرینش سے آگے نہیں جانا پڑا اور ایسے بیانات مل گئے جو جدید سائنس کے مسلمہ حقائق سے کلی طور پر عدم مطابقت رکھتے تھے۔ اناجیل کو شروع کرتے ہی فوری طور پر ایک سنجیدہ مسئلہ سے سابقہ پڑتا ہے پہلے ہی صفحہ پر ہمیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نسب نامہ ملتا ہے لیکن اس موضوع سے متعلق متی کا متن واضح طور پر لوقا کے متن سے مختلف ہے۔ ایک اور مسئلہ اس لحاظ سے بھی سامنے آیا کہ مؤخر الذکر میں کمرہ ارض پر انسان کی قدامت سے متعلق معلومات جدید سے متباہن نہیں۔ یہ تضادات ناممکنات اور تناقضات ایسے ہیں جن کی وجہ سے میرا الوہیت کے بارے

میں عقیدہ مترزل نہیں ہوتا۔ اس لئے کہ ان کوتاہیوں میں انسان کی ذمہ داری کو دخل ہے۔ کوئی شخص بھی یہ نہیں بتا سکتا کہ ابتدائی متون کیا رہے ہوں گے۔ نہ ہی خیالی عبارات آرائیوں۔ دانستہ طور پر انسانوں کی جانب سے الحاقات اور غیر شعوری طور پر جو رد و بدل ہوا ہے ان کی کوئی شخص پوری طرح نشان دہی کر سکتا ہے۔ جب ہم بائبل کے تضادات اور تناقضات کو سائنس کی ٹھوس معلومات کے مقابلہ میں دیکھتے ہیں تو جو بات آج بھی کھٹکتی ہے وہ یہ ہے کہ جو ماہرین ان متون کا مطالعہ کرتے ہیں وہ یا تو ان تضادات و تناقضات سے ناواقفیت کا بہانہ کر دیتے ہیں یا لفظی بازیگری سے ان نقائص کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب ہم متنی اور لوقا کی اناجیل کا جائزہ لیں گے اس وقت میں تفاسیر کے ماہرین کے معذرتی طرز بیان کی بعض مثالیں پیش کروں گا۔ ہوتا یہ ہے کہ اگر کسی ناممکن بات یا تضاد بیانی کو چھپانے کے لئے بڑی کامیابی سے ”مشکل“ کی اصطلاح استعمال کر دی جاتی ہے۔ ان کے اس طرز عمل سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اتنے بہت سے عیسائی ان بڑی بڑی کوتاہیوں سے کیوں بے خبر ہیں جو عہد نامہ قدیم اور اناجیل میں موجود ہیں۔ قاری ان چیزوں کی واضح مثالیں اس کتاب کے پہلے اور دوسرے حصہ میں پائیں گے۔

اس کتاب کے تیسرے حصہ میں ایک مقدس صحیفہ میں سائنس کے غیر معمولی طور پر استعمال کی مثال پیش کی گئی ہے جس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جدید دنیوی علوم نے قرآن کریم کی ان بعض آیات کو اچھی طرح سمجھنے میں مدد دی ہے۔ جو اس سے پہلے اگر ناقابل فہم نہیں تھیں تو معصوم ضرور بنی ہوئی تھیں۔ یہ بات ہمارے لئے اس وجہ سے تعجب خیز نہیں رہتی کہ ہمارے علم کے مطابق اسلام کے نقطہ نظر سے مذہب اور سائنس کی حیثیت ہمیشہ دو جڑواں بہنوں کی سی رہی ہے۔ شروع ہی

سے اسلام نے لوگوں کو حصولِ علم کی ترغیب دی ہے اور اس کا نتیجہ یہ رہا ہے کہ اسلامی تمدن کے دورِ عروج میں سائنس نے حیرت انگیز ترقی کی ہے۔ جس سے نشاۃ الثانیہ سے قبل خود مغرب نے بھی استفادہ کیا ہے۔ موجودہ سائنسی معلومات نے قرآن کی آیات پر حیرتوں و شکی ڈالی ہے اس سے صحیفوں اور سائنس کے درمیان مقابلہ کے لئے فہم و ادراک کی ایک نئی راہ نکل آئی ہے۔ پہلے یہ آیتیں اس معلومات کے عدم حصول کی بنا پر مبہم تھیں جو ان کی توضیح و تشریح میں مدد و معاون ہو سکتی ہے۔



ذخیرہ حکیم محمد موسیٰ ہر تہری

جو ۱۹۸۹ء میں حکیم صاحب نے
پنجاب یونیورسٹی لائبریری کو عطا فرمایا

عرض مترجم

ابتداءً یہ کتاب "لابائبل" نے کوران اے لاسیانس " (La Bible , le
(Caran et La Science) کے نام سے فرنیسیسی زبان میں لکھی گئی تھی۔ پھر مصنف
کتاب "مورس بوکائیے" اور "الاسٹیرومی پائبل" نے مل کر اس کا انگریزی میں ترجمہ کیا جس
کی وجہ سے اس کی اشاعت خوب ہوئی۔ بہ کثرت لوگوں نے اس کو پڑھا اور پسند کیا۔ اس
مقبولیت کو دیکھ کر ضرورت محسوس ہوئی کہ اس کا اردو میں بھی ترجمہ کر دیا جائے، تاکہ خاص
اردو دان طبقہ بھی مستفید ہو سکے۔ یہ کوشش اسی ضرورت کو پورا کرنے کے لئے ہی کی
گئی ہے۔

مترجم نے مصنف کے مافی الضمیر کو ادا کرنے کا پورا اہتمام کیا ہے۔ لیکن ترجمہ پھر
بھی ترجمہ ہے۔ وہ بھی ایک مغربی زبان سے ایک مشرقی زبان میں، ظاہر ہے کہ دونوں زبانوں
کی ساخت میں بعد المشرقین ہے۔ اس لئے ہر جگہ ترجمہ میں وہ زور نہ پیدا ہو سکا اور نہ بیان
کی لطافت آسکی جو اصل کتاب کا وصف خاص ہے۔ تاہم پھجوائے "گندم اگر ہم نہ رسد
جو غنیمت است" اس کا مطالعہ بھی افادیت سے خالی نہ ہوگا۔

ترجمہ کو بعض اور لحاظ سے زیادہ جامع بنانے کی کوشش کی گئی ہے۔ تفصیلی
حواشی کے ذریعہ بہت سی ایسی معلومات کا اضافہ کیا گیا ہے جو اصل کتاب میں نہیں تھی۔
بعض مقامات کی توضیح و تشریح کر دی گئی ہے اور بعض جگہ اختلافی نوٹ دے دیئے
گئے ہیں بائبل کی عبارتوں کے ترجمے مترجم نے خود کرنے کی کوشش نہیں کی بلکہ بائبل
کے اردو ترجمہ شائع کردہ پاکستان بائبل سوسائٹی سے ہو بہو نقل کر دیا ہے تاکہ
قارئین کے سامنے معیاری چیز آئے۔ جہاں مصنف علام نے بائبل سے کسی واقعہ
کا صرف حوالہ دینے پر اکتفا کیا تھا۔ وہاں مترجم نے حاشیہ میں بائبل سے پوری پوری

عیاریں نقل کر دی ہیں۔ قرآن مجید کا مصنف نے صرف ترجمہ دیا تھا۔ مترجم نے آیات کو نقل کر کے اُن کے سامنے اُردو ترجمہ دیا ہے تاکہ قارئین کو ساتھ ہی ساتھ اصل متعلقہ آیات سے بھی واقفیت ہو جائے۔ آیات کا ترجمہ کرنے کی مترجم نے خود جرات نہیں کی بلکہ مروجہ تراجم میں صحیح ترین ترجمہ قرآن سے استفادہ کیا ہے۔ غرض بائبل اور قرآن کے ترجمہ میں صحت کا پورا پورا خیال رکھا گیا ہے۔ ترجمہ میں یہ اختلاف نمایاں طور پر نظر آئے گا کہ مترجم نے قرآن کے ساتھ اکثر جگہ تعظیمی لفظ مجید یا کریم لگا دیا ہے۔ اس کے علاوہ اُس کی طبیعت نے اس بات کو گورا نہیں کیا کہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی آئے وہاں وہ آپ پر درود و سلام بھیجے بغیر گزر جائے لہذا اُس نے بالالتزام آپ کے نام مبارک کے ساتھ ”صلی اللہ علیہ وسلم“ کا اضافہ کر دیا ہے۔

غرض مترجم نے جرات سے کام لے کر اس طرح کی بعض چیزیں اپنی طرف سے بڑھا دی ہیں اور ان کے حسن و قبح کی ذمہ داری سراسر عائد ہوتی ہے۔ ترجمہ میں جہاں تک ممکن ہوا اصل کے قریب رہنے کی کوشش کی گئی ہے اور اس میں کسی قسم کا تجاوز نہیں برتا گیا۔ سہو و نسیان سے نہ کوئی بشر خالی ہے۔ نہ مترجم اپنے سے خطا نہ ہونے کا دعویٰ کر سکتا ہے۔ یقیناً اس کام بہت سی لغزشیں ہوئی ہوں گی۔ لہذا قارئین سے درخواست ہے کہ جہاں کہیں وہ کسی قسم کی کوتاہی محسوس کریں۔ اُس کا تقاضا بے بشریت سمجھ کر نظر انداز فرمائیں۔

مترجم حضرت مولانا نور احمد صاحب مدیر الدعوة والارشاد مؤثر العالم الاسلامی پاکستان داین عام دعوة الحق وادارة القرآن والعلوم الاسلامیہ کا بصمیم قلب ممنون و متشکر ہے کہ انھوں نے اس بلند پایہ تصنیف کے ترجمہ کی ذمہ داری اُس کو سونپی۔ خدا کرے مترجم اپنی سعی میں کامیاب ہوا ہو اور حضرت مولانا کا اعتماد مجروح نہ ہو۔

وَ اٰخِرُ دَعْوَانَا اِنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلٰوةُ
وَالسَّلَامُ عَلٰی رَسُوْلِنَا الْكَرِيْمِ

مترجم

عہد نامہ قدیم عمومی خاکہ

عہد نامہ قدیم کا مصنف کون ہے؟
جب مذکورہ بالا سوال کیا جاتا ہے تو ہر شخص یہ معلوم کر کے حیران رہ جاتا ہے کہ عہد نامہ قدیم کے کتنے ہی
قارئین جواب میں وہ بات دہرا دیتے ہیں جو انھوں نے کتاب مقدس (بائبل) کے افتتاحیہ میں پڑھی ہوتی ہے۔ اُن
کی جانب سے ایک جواب یہ بھی ہوتا ہے کہ اگرچہ اس کو بطور امام روح القدس (حضرت جبریل علیہ السلام)
کے ذریعہ حاصل کر کے انسان تحریری شکل میں لائے ہیں تاہم اس کا مصنف خود خداوند کریم ہے۔
بعض اوقات تو کتاب مقدس کے وجود میں آنے کے متعلق اطلاع دینے والا شخص قارئین کو معلومات
فراہم کرتے ہوئے خود کو اسی مختصر بیان تک محدود رکھتا ہے جس سے مزید سوالات کی گنجائش ہی نہیں رہتی
اور بعض اوقات وہ جواب دیتے وقت یہ توضیح کر دیتا ہے کہ ابتدائی متن میں آگے چل کر تفصیلات تو انسان
ہی فراہم کرتے رہے لیکن اس کے باوجود کسی عبارت کی تنازع فیہ خصوصیت سے اس کی عمومی صداقت میں
جو اس سے برآمد ہوتی ہے کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ پھر اس صداقت پر پڑے بھونڈے پن سے زور دیا جاتا
ہے۔ ارباب کلیسا جو اس قسم کے نکات کے بارے میں معتقدین کو معلومات فراہم کرنے والی واحد جماعت ہے۔
روح القدس کی مدد سے اس کا جواب دیتے ہیں۔ پونہتی صدی سے جب کونسل کے اجلاس منعقد ہوئے یہ
کلیسا ہی کا کام تھا کہ وہ مقدس کتابوں کی فہرستیں نکالتی رہی اور اُن کی توثیق فلورنس (۱۴۳۱ء) ٹرینٹ (۱۵۶۴ء)

۱۔ بائبل یا کتاب مقدس کو تین حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے (۱) عہد نامہ قدیم یا میثاق بنی اسرائیل (۲) اسفار محرفہ (۳) عہد نامہ
جدید۔ چونکہ اسفار محرفہ ابتدائے عبرانی زبان میں نہیں لکھی گئی تھیں بلکہ اُس یونانی ترجمہ میں شامل تھیں جو ۳۰۰ ق م میں ستر علماء کی
نگرانی میں کیا گیا تھا (مقتاوی ترجمہ) اس لئے یہودی انھیں معتبر نہیں مانتے۔ چنانچہ وہ عہد اصلاح میں کتاب مقدس سے نکال دی
گئیں۔ اور اب بائبل صرف عہد نامہ قدیم اور عہد نامہ جدید کو کہا جاتا ہے۔

عہد نامہ قدیم دراصل ان کتابوں کا مجموعہ ہے جن کو یہودی مستند سمجھتے ہیں ان کتابوں یا صحیفوں کو انھوں نے اس طرح تقسیم کیا
ہے (i) اسفار خمسہ (ii) انبیاء (شروع، قصص، سموئیل، سلاطین، یسعیاہ، یرمیاہ، حزقی ایل اور ۱۲ انبیاء خوردین میں ہوسیع سے ملاکی
تک کے انبیاء شامل ہیں) (iii) باقی کتابیں جو ۹۰۰ سے ۳۰۰ تک تسلیم کی گئیں۔ عہد نامہ قدیم کا جزو اعظم دو کتابیں ہیں۔ توریث اور زبور۔
عہد نامہ جدید ان کتابوں کا مجموعہ ہے جن کو کلیسا نے پونہتی صدی عیسوی میں تسلیم کیا۔ عہد نامہ جدید میں حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلے
چھ حصے ہیں، مرقس، لوتا اور یوحنا کی انجیلیں ہیں۔ دوسرے حصے میں یواریوں کے خطوط ہیں۔ اور تیسرے حصے میں یوحنا عارف کا عکاشہ ہے۔

کی کونسلوں اور پہلی وٹیکن کونسل نے کر دی، جس سے وہ شے منصفہ شہود پر آئی جس کو آج ہم فہرست اناجیل کہتے ہیں۔ حال ہی میں اتنے بہت سے پاپائی فتاویٰ کے بعد دوسری وٹیکن کونسل نے ایک متن شائع کیا، جو الہام سے متعلق تھا اور جو نہایت اہم اور ضروری ہے۔ اس کو تخلیق کرنے کی جان توڑ کوشش میں تین سال (۱۹۶۲ء) کی مدت صرف ہوئی۔ کتاب مقدس کے قارئین کی اکثریت جو اس نہایت تسلی بخش تحریر کو بائبل میں دیکھتی ہے وہ اس کے اصل ہونے کی اس تصدیق و توثیق سے کلی طور پر مطمئن ہو جاتی ہے اور گزشتہ صدیوں میں جو کچھ ہوتا رہا اس پر بحث کرنے کی قطعاً ضرورت نہیں سمجھتی۔

لیکن جب کوئی شخص ان کتابوں کی جانب رجوع کرتا ہے جو پادریوں نے تحریر کی ہیں اور جو عام مطالعہ کے لئے نہیں ہوتیں اس وقت اس کو محسوس ہوتا ہے کہ کتاب مقدس (بائبل) میں جو کتابیں (صحیفے) شامل ہیں ان کے مصدقہ ہونے کے متعلق سوال اس سے کہیں پیچیدہ ہے جتنا پہلی نظر میں معلوم ہوتا ہے مثال کے طور پر جب کوئی شخص اس فرانسیسی بائبل کی جداگانہ اقساط میں جدید اشاعت کی جانب متوجہ ہوتا ہے جو بروٹلم کے دبستان کی زیر نگرانی ترجمہ کی گئی ہے تو اسے اس کا انداز بالکل مختلف دکھائی دیتا ہے اور وہ محسوس کرنے لگتا ہے کہ عہد نامہ قدیم، عہد نامہ جدید کی طرح ایسے متنازعہ امور سے متعلق مسائل اٹھاتا ہے جو بیشتر تفاسیر کے مصنفین نے نہیں چھپائے ہیں۔

ہمیں نہایت معروفی نوعیت کے نسبتاً زیادہ مختصر سے مطالعہ میں انتہائی واضح مفروضات بھی ملتے ہیں۔ جیسے پروفیسر ایڈمنڈ جیکب کا پیش کردہ خاکہ "عہد نامہ عتیق"، اس کتاب میں ایک شاندار عمومی نوعیت کا تبصرہ دکھائی دیتا ہے۔

بہت سے لوگ اس بات سے ناواقف ہیں اور ایڈمنڈ جیکب اس بات کا انکشاف کرتے ہیں کہ عہد نامہ قدیم کے ابتداءً ایک نہیں بلکہ کئی متن تھے۔ چنانچہ تیسری صدی قبل مسیح کے لگ بھگ عبرانی زبان میں ہی تین متن موجود تھے۔ ایک وہ متن ہو میسوری متن بنا اور کم از کم جزوی طور پر یونانی ترجمہ میں استعمال کیا گیا۔ نیز اسفار خمسہ (توریت کی پہلی پانچ کتابوں کا سامری متن)۔ پہلی صدی قبل مسیح میں یہ رجحان پیدا ہوا کہ سب کے لئے ایک متن مقرر کر دیا جائے۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ایک صدی بعد تک بھی یہ امر ممکن نہ ہو سکا کہ کسی ایک متن پر سب کا اتفاق ہو جائے۔

اگر ہمارے سامنے متن کے وہ تینوں نمونے ہوتے تو ان میں مقابلہ کرنا آسان ہوتا۔ اور ہم یہ رائے قائم کر لیتے کہ شروع میں اس کی کیا شکل رہی ہوگی لیکن بد قسمتی سے ہمارے پاس اس کا تصور اسابھی نمونہ نہیں ہے۔ بحیرہ میت کے قریب دستیاب ہونے والے مخطوطہ (غار قرآن) جس کا زمانہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام

لے قدیم مخطوطوں اور طوماروں کا وہ مجموعہ جو ۱۹۴۷ء میں دریائے اردن کے مغربی جانب پیریکوڈیر (جو) لقیہ صفحہ ۱ پر

کے عہد سے ملحق قبل مسیح کا کوئی سنہ ہے یہ دوسری صدی عیسوی کے احکام عشرہ کا ایک مخطوطہ پیپرس ہے اور اس میں قدیم متن سے اختلافات ظاہر کئے گئے ہیں اگر پانچویں صدی عیسوی کے چند نامکمل نسخوں کو نظر انداز کر دیا جائے تو پمپھربائل کے عبرانی زبان میں قدیم ترین متن کا زمانہ نویں صدی عیسوی کا ماننا پڑتا ہے۔ غالباً سیپٹواجنٹ (ہفتادویں ترجمہ) یونانی زبان کا سب سے پہلا ترجمہ ہے۔ اس کا زمانہ تیسری صدی قبل مسیح کا ہے۔ اور اس کو اسکندریہ کے مقام پر یہودیوں نے تحریر کیا تھا۔ یہی وہ متن تھا جس پر عہد نامہ جدید کی بنیاد رکھی گئی۔ یہ ترجمہ ساتویں صدی عیسوی تک مستند سمجھا جاتا رہا۔ بنیادی یونانی متن جو عیسائی دنیا میں بالعموم رائج رہے ان مخطوطات سے تیار کئے گئے تھے جو کوڈیکس وٹیکن (کتاب وٹیکن) کے نام سے وٹیکن میں اور کوڈیکس سینٹوکس (کتاب سینٹک) کے نام سے برطانوی عجائب گھر لندن میں درج رہیں۔ ان کا زمانہ پچھتی صدی عیسوی کا ہے۔

پانچویں صدی عیسوی کے شروع میں سینٹ جیروم نے عبرانی تحریروں کو کام میں لا کر لاطینی میں ایک متن پیش کیا جو بعد میں چل کر ساتویں صدی عیسوی کے بعد عالمگیر اشاعت کے سبب ولگیٹ (عوامی) کے نام سے موسوم کیا گیا۔

ضمناً ہم آرامی اور شامی ترجموں کا حوالہ دیں گے لیکن واضح رہے کہ یہ نامکمل ہیں۔

ان تمام ترجموں نے ماہرین کو نام نہاد صراط الوسطی متنوں کو باہم مجتمع کرنے میں مدد دی ہے۔ یہ ترجمے مختلف ترجموں کے درمیان ایک نوع کی مفاہمت ہے اس کے علاوہ ہفت لسانی مجموعے شائع کئے گئے ہیں جن میں عبرانی، یونانی، لاطینی، شامی، آرامی یہاں تک کہ عربی ترجمے کو پہلو بہ پہلو ترتیب دیا گیا۔

بقیہ حاشیہ صفحہ سابقہ:۔ سے یارہ کلومیٹر کے فاصلہ پر بحیرہ میت کے شمالی سرے سے دو کلومیٹر دور ایک غار سے دستیاب ہوا جن مرتبانوں میں یہ مخطوطے اور طوارطے ان کا زمانہ ۲۲ ق م سے ۱۰۰ عیسوی تک کا سمجھا جاتا ہے۔ ان تحریروں کو بڑے محنت سے جوڑ کر پڑھا گیا۔ ان میں سے پانچ اس وقت عبرانی یونیورسٹی برشلیم میں محفوظ ہیں۔ اور پانچ شام میں ہیں۔ مترجم

۱۵ ق م، بحیرہ میت یا بحیرہ لوط کے شمال مغربی کنارے بردامن کوہ میں ایک قدیم شہر کے کھنڈرات کی شکل میں ۱۹۵۱ء سے برآمد کیا گیا اس میں چھٹی صدی قبل مسیح تک کے آثار ملتے ہیں۔ دوسری صدی ق م میں یہاں خانقاہ نشین راہبوں کا قیام تھا۔ لیکن ۶۸ء میں یہ خانقاہیں جلا دی گئیں۔ اسی زمانہ میں مخطوطے مرتبانوں میں بند کر کے حفاظت کے لئے یہاں رکھ دیئے گئے وہ رواں صدی کے وسط

میں غار قرمان سے دستیاب ہوئے ہیں اور بعض ان میں پوری طرح محفوظ ہیں۔ مترجم

حاشیہ صفحہ ہذا:۔ ۱۵ یہ ترجمہ یونانی زبان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وقت سے ۲۶۰ سال پہلے کیا گیا تھا۔ اور اس کے لئے ۷۰ علماء منتخب کئے گئے تھے۔ ۱۵ سینٹ جیروم (۳۳۰ تا ۴۲۰ء) اسٹراٹو کے مقام پر پیدا ہوئے۔ پوپ ولیمس کے مشیر ہے

ان کے انتقال کے بعد بیت اللحم میں مقیم ہو کر بڑے عہد نامہ کالاطینی میں ترجمہ کیا۔ مترجم

دیا گیا ہے یہ چیز مشہور و شہین ترجمہ میں اختیار کی گئی ہے۔ (لندن - ۱۶۵۷ء) اس ذکر کو مکمل کرنے کی خاطر ہم یہ بھی بتائے دیتے ہیں کہ بائبل کے مختلف تصورات کا یہ نتیجہ نکلا کہ مختلف عیسائی کلیسا تمام کے تمام ایک ہی کتابوں کو نہیں مانتے۔ اور ایک ہی زبان میں ترجمہ پر ابھی تک اُن کے خیالات میں یکسانیت نہیں ہے۔ قدیم عہد نامہ کا عالم عیسوی کا (عالمگیر) ترجمہ جس کو متعدد کیتھولک اور پروٹسٹنٹ ماہرین نے مل کر تحریر کیا ہے۔ ایک ایسا کام ہے جو وحدت پیدا کرے گا۔ یہ کام تکمیل کی منزل میں ہے اور اس کو امتزاج کے ایک کام کی شکل میں فتح ہونا چاہیے۔

اس طرح عہد نامہ قدیم میں انسانی ہاتھ زیادہ دکھائی دیتا ہے۔ اس سے یہ سمجھنا مشکل نہیں ہے کہ ایک اشاعت سے دوسری اشاعت اور ایک ترجمہ سے دوسرے ترجمہ میں اُن تمام تصحیحات کے ساتھ جن کا وجود ناگزیر تھا یہ بات ممکن ہوئی کہ ابتدائی متن پچھلے دو ہزار سال سے زیادہ کی مدت میں بالکل بدل گیا ہے۔

بائبل کے ماخذ

کتابوں کا ایک مجموعہ بننے سے پیشتر یہ (بائبل) ایک متداول روایت کی شکل میں تھی جس کا انحصار تمام تر انسانی حافظہ پر تھا جو حالات کو منتقل کرنے کا واحد ذریعہ تھا۔ یہ روایت گیتوں کے ذریعہ سے قائم رکھی جاتی تھی۔

ای۔ جیکب رقم طراز ہیں کہ "ابتدائی مرحلہ میں ہر قوم نغمہ سنجی کرتی ہے۔ ہر جگہ کی طرح اسرائیل میں بھی نظم کا آغاز نثر سے پہلے ہوا۔ اسرائیل نے طویل عرصہ تک نہایت خوش اسلوبی سے نغمہ سنجی کی کبھی اپنی تاریخ کے واقعات سے متاثر ہو کر فرحت و انبساط کی رفعتوں پر پہنچے، کبھی مایوسیوں کی گہرائیوں میں ڈوبے، اُن کی نگاہ میں ہر شے کا ایک مفہوم تھا۔ اسرائیلیوں نے اپنے نغموں کا متعدد طریقوں پر اظہار کیا۔ انھوں نے متعدد وجوہ سے نغمہ سنجی کی۔ اور ای۔ جیکب اُن نغموں میں سے بہت سوں کا ذکر کرتے ہیں جو ہمیں بائبل میں نظر آتے ہیں۔ مثلاً اکل و شرب کے گیت (غله) کی فصل کے گیت۔ عمل سے متعلق گیت جیسے کنویں کا مشہور گیت (گنتی ۲۱، ۱۷)۔ شادی کا گیت جیسے غزل الغزلات میں اور ماتمی گیت بائبل میں جنگ و پیکار سے

۱۷ تب اسرائیل نے یہ گیت گایا :-

اے کوئین! تو ابل، تم اس کوئین کی تعریف گاؤ۔

یہ وہی کنواں ہے جسے رئیسوں نے بتایا۔

اور قوم کے امیروں نے۔

اپنے عصا اور لاطھیوں سے کھودا۔

بقیہ اگلے صفحہ پر پڑھا خطہ ہو

155756

منعلق بھی بہت سے گیت ہیں۔ چنانچہ ان گیتوں میں ہمیں دہرہ کا گیت (قضاہ ۱۰۵-۳۲) ملتا ہے۔ اور اسرائیل کی وہ فتح جو خود یہود (خداوند) کو مطلوب تھی اور جو اس نے انجام کو پہنچائی۔ (گنتی ۳۵:۱۰) اور صندوق کے کوچ کے وقت موسیٰ کہا کرتا "اٹھ لے خداوند، تیرے دشمن پر اگندہ ہو جائیں اور جو تجھ سے کینہ رکھتے ہیں وہ تیرے آگے سے بھاگیں۔"

اس میں دشمنوں کے مقولے اور ضرب الامثال بھی ہیں (ضرب الامثال کی کتاب - تاریخی کتابوں کی ضرب الامثال اور ان کے مقولے) برکتوں اور بد دعاؤں کے الفاظ اور وہ احکام بھی ہیں جو بیبیروں سے انسان کو الہام کے ذریعہ حاصل ہوئے۔

ای۔ جیکب لکھتے ہیں کہ یہ الفاظ یا تو ایک خاندان سے دوسرے خاندان میں منتقل کر دیئے جاتے تھے یا خدا کے برگزیدہ بندوں کے تاریخی واقعات کی شکل میں معبدوں کے ذریعہ پہنچائے جاتے تھے۔ تاریخ نے جلد ہی کہا نبیوں کی شکل اختیار کر لی جیسے کہ یوتام کی داستان میں (قضاہ ۹، ۷، ۲۱) جہاں درخت ایک بادشاہ مقرر کرنے کے لئے خود چل کر گئے اور ان میں سے ہر ایک نے باری باری زیتون کے درخت سے، انجیر کے درخت سے، انگور کی بیل سے اور اونٹن کے سے پوچھا تھا "جس سے امی جیکب کو یہ لکھنے کا موقع فراہم ہوتا ہے" ایک کہانی کہنے کی ضرورت سمجھ کر داستان میں مضامین کے اعتبار سے یا ایسے زمانوں کے لحاظ سے خلط مبحث نہیں ہو سکا جن کی تاریخ پوری طرح معلوم نہیں تھی "اس سے وہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں۔

"اغلب ہے کہ عہد نامہ قدیم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بزرگوں کے بارے میں جو داستان بیان کی جاتی ہے وہ صرف تاریخی واقعات کے تواتر کے ساتھ تخمیناً مطابقت رکھتی ہو۔ لیکن داستان بیان کرنے والوں نے زبانی منتقل کرنے کے موقع پر بھی ان میں ایسا انداز تخیل اختیار کیا ہے جس کی وجہ سے بیچ بیچ میں انتہائی مختلف النوع واقعات کو باہم مربوط کیا جاسکا اور جب سب کچھ کہا اور کیا جا چکا تو انھیں یہ موقع مل گیا کہ وہ اس مواد کو ایک ایسی تاریخ کے طور پر پیش کریں جو تنقیدی نظر رکھنے والے مفکرین کے لئے یہ بتانے کو خاصاً قابل تحسین ہو کہ نوع انسانی اور دنیا کے آغاز کے وقت

بقیہ حاشیہ سابقہ صفحہ ۵۳ بائبل کی ایک مختصر کتاب جو تمام تر نعمات کا مجموعہ ہے اور حضرت سلیمان سے منسوب ہے اسکا آغاز اس طرح ہوتا ہے سلیمان کی غزل الغزلات "وہ اپنے منہ کے چوموں سے مجھے چومے کیونکہ تیرا عشق مے سے بہتر ہے..." صفحہ ہزارہ۔ ۱۵ اسی دن دہرہ اور ابی نوعم کے بیٹے برق نے یہ گیت گایا کہ "پیشواؤں نے جو اسرائیل کی پیشواؤں کی، اور لوگ خوشی خوشی مہرتی ہوئے..." ۱۵ یوتام پڑھنے کا چھوٹا بیٹا تھا وہ اپنے بھائی ابی بلک کے ہاتھ سے قتل ہونے سے بچ گیا تھا۔ اس نے سکم کے لوگوں سے مدد چاہی تو درختوں کا یہ عمل شروع ہوا۔

کیا واقعات رونما ہوئے تھے؟

یہ یقین کرنے کے لئے ہمارے پاس ایک معقول دلیل موجود ہے کہ جب یہودی کنعان میں آباد ہو گئے جو تیرھویں صدی قبل مسیح کے آخر کی بات ہے۔ اُس وقت روایت کو محفوظ رکھنے اور آئندہ نسلوں تک پہنچانے کے لئے تحریر کا فن وجود میں آچکا تھا۔ لیکن جو شے انسانوں کے لئے سب سے زیادہ استحکام کی طالب ہو سکتی ہے یعنی قانون اُس میں پوری طرح صحت نہیں تھی۔ اُن میں وہ قوانین جن کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ خدا نے خود اپنے ہاتھ سے تحریر کئے ہیں۔ یعنی احکام عشرہ دور روایتوں کے ذریعہ منتقل ہوئے۔ خروج (۱، ۲۰-۲۱) اور استثنا (۱، ۵-۳۰)۔ روح سب کی وہی ہے لیکن اختلافات نمایاں ہیں۔ ایک ایسا ادارہ بھی ہے جس میں معاہدات، مراسلات، شخصیات کی فہرستوں (قفاہ، شہر کے اعلیٰ افسران۔ نسب نامے)، پڑھانے اور غنیمت کی فہرستوں کا ایک طویل رکارڈ موجود ہے۔ اس طرح محافظ خانوں (آرکائیوز) کا وجود عمل میں آیا جنہوں نے آئندہ اُن کتابوں کی ترتیب کے لئے دستاویزی مواد فراہم کیا جو آجکل ہمارے پاس موجود ہے۔ اس طرح ہر کتاب میں مختلف طرزوں کا امتزاج دکھائی دیتا ہے۔ اب یہ امر ماہرین پر منحصر ہے کہ وہ اس عجیب و غریب شہادتوں کی آمیزش کے اسباب کا پتہ چلائیں۔

عہد نامہ قدیم ابتدائی زبانی روایت پر مبنی مختلف عناصر پر مشتمل ایک مجموعہ ہے۔ لہذا جو طریقہ کار ان واقعات کو جو دوسرے زمانہ اور دوسرے مقام پر رونما ہوئے ابتدائی دور کے پیدا شدہ ادب کے ساتھ ملانے میں اختیار کیا گیا، اُس کا جائزہ لینا ایک دلچسپ مشغلہ ہے۔

مثال کے طور پر ہم فرینکس کے دور فرمانروائی کے فرانسیسی ادب کی تخلیق کے مسئلہ کو لیتے ہیں اُس وقت کی زبانی روایتوں نے بھی اہم واقعات کو محفوظ رکھا۔ چنانچہ عیسائیت کے دفاع میں جنگیں، مختلف سنسی خیز واقعات جن میں مشاہیر نے خود کو نمایاں کر کے پیش کیا اور جن سے صدیوں بعد درباری شاعروں، واقع نگاروں اور مختلف سلسلہ منظومات کے مرتب کرنے والوں میں جوش پیدا ہوتا تھا۔ اس طریقہ سے کیا رہویں صدی عیسوی کے بعد یہ بیانیہ نظریں جن میں حقیقت افسانہ کے ساتھ ملی جلی ہوئی ہے ذریعہ شاعری کے پہلے نمونوں کی تشکیل اور اُن کی پیشکش کا ذریعہ بنیں۔

۱۵ بنی اسرائیل مہر سے نکل کر میدان تیبہ میں جا پڑے تھے۔ وہیں اُن پر من و سلوٹی اترتا تھا۔ ایک مدت تک صحرا نوردی کرنے کے بعد اُن کا قیام فلسطین میں ہوا۔ جس کا عبرانی نام کنعان ہے۔ مصر سے چودھویں صدی ق م کے آخر میں نکلے اور کنعان میں تیرھویں صدی ق م کے شروع میں بس گئے۔ مترجم

ان میں سب سے زیادہ مشہور رولینڈ کا گیت ہے جو ایک جنگی کارنامہ سے متعلق ایک سوانحی گیت ہے جس میں رولینڈ اسپین کی ایک مہم سے واپسی کے وقت شہنشاہ شارلیمان کی فوج ساقہ کا کماندار تھا رولینڈ کی جانثاری کا واقعہ کوئی ایسا سانحہ نہیں ہے جو کسی قصہ کی ضرورت کو پورا کرنے کے لئے وضع کیا گیا ہو۔ یہ واقعہ ۵ اگست ۷۷۸ء کو رونما ہوا تھا۔ حقیقت میں یہ پہاڑوں میں بسنے والی ایک قوم باسک کا حملہ تھا۔ اور اس لئے یہ ادنیٰ تحریریں قطعی طور پر ایک فرضی داستان نہیں کہی جا سکتی۔ اس کی ایک تاریخی بنیاد ہے۔ پھر بھی کوئی مورخ اس کو لفظاً لفظاً صحیح نہیں سمجھے گا۔

بائبل اور دنیوی ادب کی تخلیق کے درمیان یہ یکسانیت حقیقت سے پوری طرح مطابقت رکھتی محسوس ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ بائبل کے تمام متن کو جس سے آج ہم روشناس ہیں کلیتاً علم الاضنام اور اساطیری مجموعہ کے انبار میں ڈال دیا جائے جیسا کہ بہت سے وہ لوگ کرتے ہیں جو باقاعدہ طور پر خدا کے تصور کے منکر ہیں۔ یہ بات پوری طرح ممکن ہے کہ تخلیق کے حق ہوتے پر یقین رکھا جائے۔ خدا کی جانب سے حضرت موسیٰ کو احکام عشرہ کے دیئے جانے کو صحیح سمجھا جائے۔ انسانی معاملات میں نائیدغیبی پر عقیدہ رکھا جائے جیسے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانہ میں ہوا۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ یہ بات ہمیں اس بات پر غور کرنے سے نہیں روکتی کہ جو کچھ ہم تک پہنچا ہے وہ ان حقائق کی تلخیص ہے اور یہ کہ بیان میں جو تفصیلات ہیں ان پر سختی سے نقد و تبصرہ کیا جانا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابتداء میں جو زبانی روایات منتقل ہوئیں ان میں انسانی تخلیق کا عنصر بہت زیادہ ہے۔

۱۰ شارلیمان یا چارلس اعظم فرانس کا مشہور فرمانروا اور ہولی رومن ایمپائر کا شہنشاہ تھا۔ اُس نے یورپ میں کارہائے نمایاں انجام دیئے تھے۔ جب وہ محض بارہ سال کا تھا اُس وقت اندلس میں امارت قرطبہ کا قیام عمل میں آیا تھا۔ اور اندلس میں امیر عبدالرحمن الداخل سریر آرائے سلطنت تھے۔ اثنور اس کے عیسائی سردار الفانسو نے اپنی مسلمان دشمنی کی بنا پر شارلیمان کو اندلس پر فوج کشی کرنے کی دعوت دی۔ وہ حملہ آور ہوا لیکن کوئی کامیابی نہ حاصل کر سکا بلکہ واپسی کے وقت اُس کی فوج کا بڑا حصہ تباہ ہو گیا۔ جب وہ رانی والی کے درہ سے گزر رہا تھا تو اُس کی فوج کے عقبی حصہ پر جس کی کمان رولینڈ کے ہاتھ میں تھی۔ باسک قوم نے حملہ کر دیا اور اس قدر کشت و خون کیا کہ شاید ایک آدھ فرانسیسی بچا ہو۔ چونکہ شارلیمان جائے حادثہ سے آٹھ میل آگے نکل چکا تھا اس لئے اُس کو اس واقعہ کی اطلاع نہ ہوئی۔ البتہ جب رولینڈ نے زخمی ہو کر اپنا زسنگھا بجا یا تو اُس کو پتہ چلا اور وہ لوٹ کر اُس جگہ پہنچا۔ لیکن زسنگھا بجانے سے رولینڈ کے گلے کی رگیں پھٹ گئی تھیں۔ اور وہ مردہ حالت میں پڑا ہوا تھا۔ شارلیمان کو بے حد افسوس ہوا مگر اب کیا ہو سکتا تھا۔ شعراء نے اس واقعہ کی یاد میں نظموں اور گیت لکھے اور ان میں بڑے مبالغہ سے کام لیا۔ مترجم

عہد نامہ قدیم کی کتابیں

عہد نامہ قدیم ایسی کتابوں کا مجموعہ ہے۔ جن کی ضخامت بھی ایک دوسرے سے مختلف ہے اور جن کا انداز بیان بھی بڑی حد تک مختلف۔ وہ نو سو سال سے زیادہ کی مدت میں کئی زبانوں میں لکھی گئیں۔ مگر ان کی بنیاد زبانی روایتوں پر رہی ان میں سے کئی کتابوں کی، واقعات اور مخصوص ضروریات کے تحت اصلاح کی گئی۔ اور اس طرح ان کو مکمل کیا گیا۔ اکثر یہ کام ایسے ادوار میں ہوا جن کے درمیان کافی فصل ہے۔ یہ وسیع ادب، غالباً اسرائیلیوں کے دور شہنشاہی کے شروع میں یا اور ہوا۔ جو گیارہویں صدی قبل مسیح کا زمانہ ہے۔ یہ اسی زمانے کی بات ہے کہ فن تحریر کے ماہرین کی ایک جماعت شاہی گھرانے کے افراد میں سے پیدا ہوئی۔ یہ پڑھے لکھے لوگ تھے جن کا کام تحریر ہی تک محدود نہیں تھا۔ ہو سکتا ہے کہ پہلی نامکمل تحریریں جن کا ذکر سابقہ ابواب میں کیا گیا ہے اسی زمانہ سے تعلق رکھتی ہوں۔ ان کتابوں کو لکھنے کی ایک خاص وجہ تھی۔ اُس وقت گیتوں اور نغموں کی خاصی تعداد جمع ہو گئی تھی جن کا ذکر پہلے کیا جا چکا ہے۔ حضرت یعقوب اور حضرت موسیٰ کے پیغمبرانہ مکاشفات والہامات تھے۔ احکام عشرہ تھے اور ایک عمومی سطح پر قانونی دستاویزات تھیں۔ جنہوں نے قوانین شرعیہ بننے سے پہلے مذہبی روایات کو حتم دیا۔ یہ تمام دستاویزات ایسے اجزاء تھے جو منتشر حالت میں عہد نامہ قدیم کے مختلف نسخوں میں بکھرے ہوئے تھے۔

اس کے کچھ ہی عرصہ بعد غالباً دسویں صدی قبل مسیح کے دوران نام نہاد اسفار خمسہ کا یہودی متن تحریر کیا گیا۔ یہ متن ان پہلی پانچ کتابوں کا مجموعہ بنا جن کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے منسوب کیا جاتا ہے۔ بعد ازاں نام نہاد الہی متن (الوہیمی یا ابوہسٹ ٹیکسٹ) کا اضافہ ہوا۔ نیز نام نہاد مرشدانہ ایڈیشن (سیسر ڈوئل ورتزن) وجود میں آیا۔ ابتدائی یہودی متن میں دنیا کی پیدائش سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی وفات تک کے واقعات سے بحث کی گئی ہے یہ متن جنوبی حکومت یہوداہ میں مرتب ہوا تھا۔

۱۵ یہود کے ان کتب مذہبی کے مصنفین جن میں خدا کے لئے بجائے "یہواہ" کے "الوہیم" کا لفظ استعمال ہوا ہے

۱۶ مرشدانہ یا پر وہتی۔ اس کو یروشلم میں ہیکل کے مبلغین نے مرتب کیا تھا۔

۱۷ جنوبی فلسطین کا وہ علاقہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کے صاحبزادے رجبام اور حضرت داؤد علیہ السلام کے خانوادے سے وابستہ رہا۔ باقی اسرائیلیوں نے رجبام کو جس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے خلاف بغاوت کی تھی فلسطین کے بڑے حصہ کا حکمران منتخب کر لیا

نویں صدی قبل مسیح کے اختتام اور آٹھویں صدی قبل مسیح کے وسط میں ایلیاہ اور الیشع کے پیغمبرانہ اثر رونما ہوئے اور پھیلنے لگے۔ آج ہمارے پاس ان کے صحیفے موجود ہیں۔ یہی اسفار خمسہ کے الوہیمی متن کا زمانہ بھی ہے لیکن یہ مدت یہودی متن کے مقابلہ میں کافی مختصر ہے اور اس کا دائرہ حضرت ابراہیم، حضرت یعقوب اور حضرت یوسف علیہم السلام کے واقعات تک محدود ہے۔ یوشع اور قضاہ کے صحیفے اس زمانہ سے شروع ہوتے ہیں۔

آٹھویں صدی قبل مسیح میں ان انبیاء کا ظہور ہوا جنہوں نے تصنیفی کام انجام دیا۔ ان میں سے

حاموس اور ہوسیع کا تعلق اسرائیل سے اور میکاہ کا یہوداہ سے تھا۔

۵۳۹ ق م میں سامریہ کے سقوط سے حکومت اسرائیل کا خاتمہ ہو گیا۔ یہوداہ کی حکومت نے

اپنا مذہبی تر کہ سنبھالا۔ مجموعہ اشغال اسی زمانہ سے شروع ہوتا ہے جو خاص طور پر اس اعتبار سے ممتاز ہے

کہ اس میں اسفار خمسہ کے یہودی اور الوہیمی متون کو ملا کر ایک کتاب کی شکل دے دی گئی ہے۔ اس

طریقہ سے تورات کی تشکیل عمل میں آئی۔ کتاب استثنا بھی اسی زمانہ میں لکھی گئی۔

ساتویں صدی قبل مسیح کے دوسرے نصف میں یسعیاہ کی حکومت، یرمیاہ نبی کے ظہور کے ساتھ

منطبق ہو گئی۔ لیکن ان کے کام نے ایک صدی بعد تک کوئی متعین شکل اختیار نہیں کی۔

۵۹۸ ق م قبل مسیح میں ہونے والی بابل کی جانب پہلی جلا وطنی سے قبل ضعیفہ۔ ناحوم اور حقوق

کے صحیفے منصفہ شہود پر آئے۔ حزق ایل اس پہلی جلا وطنی سے قبل ہی سے پیشینگوئی کر رہے تھے۔

۵۸۶ ق م میں یروشلم کے سقوط سے دوسری جلا وطنی کا آغاز ہوا جو ۵۳۸ ق م تک ممتد ہے۔

۱۵ بنی اسرائیل کے ایک نبی جن کو ایلیجاہ یا عالیجاہ بھی کہا جاتا ہے ان کا زمانہ نویں صدی قبل مسیح کا ہے۔ ان کے زمانہ میں زبردست

معاشرتی اور مذہبی تبدیلی رونما ہوئی اور بلعل دیوتا (سورج) کی پوجا جانے زور پکڑنا شروع کیا۔ ایلیاہ نے اس تحریک کے خلاف مسلسل

جہاد کیا۔ ۷۵۰ بنی اسرائیل کے اور نبی جو ایلیاہ کے جانشین ہوئے۔ حضرت یوشع بن نون جو حضرت موسیٰ کے بعد نبی ہوئے اور

اور جنہوں نے بنی اسرائیل کو کنعان کا مالک بنایا۔ ۷۴۰ دسویں سے آٹھویں صدی تک اسرائیل کا دار الحکومت رہا۔ رواں صدی

کے پہلے اور دوسرے ربع میں کھدائیاں کر کر آتار برآمد کئے گئے ہیں۔ ۷۵۰ یسعیاہ (م ۷۴۰ ق م) یہوداہ کا بادشاہ تھا۔ وہ اپنے

باپ اموص کا جانشین ہوا۔ اس کے زمانہ میں قانون شریعت ایک معاہدے سے دستیاب ہوا۔ اس نے ایک اصلاحی تحریک شروع

کی۔ یرمیاہ نبی نے اسی زمانہ میں پیشینگوئیاں کیں۔ مصر کے فرعون نیخون نے اس کے عہد میں فلسطین پر حملہ کیا۔ یسعیاہ نے اس

کا مقابلہ کیا۔ مگر شکست کھائی اور لڑائی میں مارا گیا (۷۰۸ ق م)۔ ۷۰۰ بنی اسرائیل کے ایک جلیل القدر نبی جن کا زمانہ

۶۵۰ ق م سے ۵۸۶ ق م تک قرار دیا گیا ہے۔ انہوں نے پیشینگوئیاں کیں جو عہد نامہ قدیم میں شامل صحیفوں یرمیاہ اور نوحہ میں

مذکور ہیں۔ ۶۰۰ ساتویں صدی قبل مسیح سے بنی اسرائیل کی بدکاریاں بہت بڑھ گئی تھیں۔ بقیہ آئندہ صفحہ پر ملاحظہ ہو

حزقی ایل جو آخری بڑے اور جلاوطنی کے دور کے نبی تھے اُن سے منسوب کتاب موجودہ شکل میں اُن کی وفات کے وقت تک اُن کتابوں نے مرتب نہیں کی تھی جن کو اُن کا روحانی ورثہ ملا۔ ان ہی کتابوں نے کتاب پیدائش کا تیسرا متن لکھا جو نام نہاد مرشدانہ متن (سسر ڈوکل و رزن) ہے اور جس کا مقصد تخلیق سے لے کر حضرت یعقوب علیہ السلام کی وفات تک کے حصہ کو پورا کرنا تھا۔ اس طرح گویا توریت کے یہودی اور الوہیمی متنوں کے مرکزی ڈھانچے میں ایک تیسرا متن داخل کرنا تھا بعد میں ہم دیکھیں گے کہ جو کتابیں تقریباً دو اور چار صدیاں پہلے لکھی گئیں اُن میں اس تیسرے متن کی پیچیدگیوں کی ایک جھلک موجود ہے۔ یہی وہ زمانہ ہے جبکہ کتاب ”نوحہ“ ظہور میں آئی۔

خوس (سائرس م ۵۲۹ ق م) کے حکم سے ۵۳۸ ق م میں بابل کی جانب (یہودیوں کی) جلاوطنی کا سلسلہ ختم کر دیا گیا۔ یہودی فلسطین واپس چلے گئے اور یروشلم میں سیکل کی تعمیر نو عمل میں آئی۔ نبیوں کی سرگرمیاں پھر شروع ہوئیں جن کے نتیجے میں حجی۔ زکریاہ۔ یسعیاہ کا تیسرا حصہ۔ ملاکی۔ دانیال (دانی ایل) اور ہروخ (مؤخر الذکر یونانی زبان میں ہے) وجود میں آئیں۔

جلاوطنی کے بعد کا زمانہ ہی حکیمانہ اقوال کی کتابوں کا عہد ہے ”امثال“ یقینی طور پر ۴۸۰ ق م کے لگ بھگ ضبط تحریر میں آئی۔ ”ایوب“ پانچویں صدی قبل مسیح کے وسط میں لکھی گئی۔ واعظ کا زمانہ تیسری صدی قبل مسیح سے شروع ہوتا ہے اسی طرح غزل الغزلات اور تواریح اول و دوم، غزرا، نجمیاہ کا زمانہ بھی وہی ہے۔ سترہ دوسری صدی قبل مسیح میں معرض وجود میں آئی۔ کتاب حکمت اور میکابیز اول و دوم حضرت مسیح علیہ السلام سے ایک صدی پیشتر لکھی گئیں۔ کتاب روت، استرا اور یوناہ کے زمانہ کا تعین آسانی سے نہیں کیا جاسکتا۔ یہی معاملہ تو لبط اور جودت کا ہے یہ تمام تاریخیں یہ سمجھتے ہوئے دی گئی ہیں کہ ان کتابوں میں بعد میں تصرفات ہوتے رہے۔ اس لئے کہ عہد نامہ قدیم کو یہ شکل اولاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً ایک صدی قبل دی گئی تھی۔ بہت سوں کے نزدیک تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک صدی بعد تک قطعی طور پر وجود میں نہیں آئی۔

سابقہ حاشیہ :- اس وقت کئی نبی مبعوث ہوئے انھوں نے بہت کچھ عذاب خداوندی سے ڈرایا لیکن بنی اسرائیل باز نہ آئے۔ آخر کار بابل کے دوسرے دور عروج کے مشہور فرمانروا بخت نصر دوم (۶۰۵ ق م تا ۵۶۲ ق م) مصر کے یہودیوں کو گرفتار کر کے بابل لے گیا۔ یہ اس قوم کی پہلی جلاوطنی یا اسیری تھی جس شخص کو بخت نصر نے یروشلم کی حکومت سپرد کی تھی اُس نے ۵۸۷ ق م میں بغاوت کر دی۔ جس کی وجہ سے اُس نے دوبارہ حملہ کیا۔ بیت المقدس کو تباہ کر دیا اور پھر بہت سے یہودیوں کو گرفتار کر کے لے گیا۔ آخر کار خوس کے زمانہ میں رہائی ملی۔ مترجم صفحہ ۲۷ :- یہ مینوں کتابیں اسفار محرفہ میں شامل ہیں۔

اس طرح عہد نامہ قدیم قوم یہود کے لئے معلوم ہوتا ہے کہ اپنے آغاز سے لیکر عیسائیت کے شروع ہونے تک ایک ادبی دستاویز بنی رہی۔ اس میں جو کتابیں شامل ہیں وہ دسویں اور پہلی صدی قبل مسیح کے درمیان لکھی گئیں۔ ان کو مکمل کیا گیا اور ان پر نظر ثانی کی گئی۔ اس کے مرتب اور جمع کئے جانے کی تاریخ سے متعلق یہ کسی اعتبار سے بھی میرا کوئی ذاتی نظریہ نہیں ہے بلکہ اس تاریخی جائزہ کے لئے ضروری مواد انسائیکلو پیڈیا یونیورسلیٹر مرتبہ جے۔ پی۔ سینڈوز پر و فیسر ڈونیکین فیکلٹی ساکسٹر کے اندراجات سے لیا گیا ہے۔ یہ سمجھنے کے لئے کہ عہد نامہ قدیم کیا شے ہے ان معلومات کو جو انتہائی لائق ماہرین نے صحت کے ساتھ مرتب کی ہیں۔ ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔

ان تمام تحریروں میں الہامی عنصر شامل ہے لیکن ہمارے پاس اس وقت وہی سرمایہ ہے جو لوگوں نے ہمارے لئے چھوڑا مناسب سمجھا تھا۔ ان لوگوں نے خود کو مطمئن کرنے کے لئے اس ماحول کے مطابق جس میں وہ رہ رہے تھے اور ان ضروریات کو پورا کرنے کی غرض سے ان متنوں کو مرتب کیا تھا۔ جب اس معروضی مواد کا اس مواد کے ساتھ مقابلہ کیا جاتا ہے جو بائبل کے ان نسخوں کے دیباچوں میں دیا ہوا ہوتا ہے جو فی زمانہ عام اشاعت کے لئے ہوتی ہیں تو کوئی بھی شخص یہ بات محسوس کر لیتا ہے کہ ان میں جو حقائق بیان کئے گئے ان کو بالکل ہی مختلف طریقہ پر پیش کیا گیا ہے۔ یہ لوگ ابتدائی حقائق سے جو کتابوں کی تحریروں سے گزر جاتے ہیں البتہ ابہامات جو قاری کو گراہی میں مبتلا کرتے ہیں قائم رکھے جاتے ہیں۔ حقائق کو اس حد تک کم کر کے بیان کیا جاتا ہے کہ حقیقت و اصلیت کا ایک غلط تصور ان کو ملتا ہے بائبل کے دیباچوں اور ابتدائیوں کی ایک بڑی تعداد حقیقت کو اس طرح غلط انداز سے پیش کرتی ہے۔ صحیفوں کے معاملہ میں جن میں بارہا تصرف کیا گیا ہے (مثلاً اسفار خمسہ) کہا جاتا ہے کہ بعض تفصیلات ممکن ہے بعد میں ایذا کی گئی ہوں۔ چنانچہ ایک صحیفہ کی ایک غیر اہم عبارت کے متعلق تو بحث پیش کی جاتی ہے لیکن طویل بیانات سے متعلق اہم حقائق سے خاموشی سے گزر جاتے ہیں۔ کتاب مقدس کے سلسلہ میں ایسی نادرست معلومات عام اشاعت کے لئے دیکھ کر طبیعت کو اذیت ہوتی ہے۔

توریت یا اسفار خمسہ

توریت سامی نام ہے یونانی عبارت جو ہمیں انگریزی لفظ پینٹاٹیوخ (اسفار خمسہ) فراہم کرتی ہے ایک ایسی کتاب کا نام ہے جس کے پانچ حصے ہیں۔ پیدائش۔ خروج۔ اجبار۔ گنتی اور استثناء۔ یہی وہ حصے ہیں جو

اُن انتالیس صحیفوں کے مجموعہ کے ابتدائی پانچ رکن قرار پائے ہیں جن سے عہد نامہ قدیم کی تشکیل ہوئی ہے۔

متون کے اس مجموعہ میں ابتدائے افزائش سے یہود کے کنعان میں داخل ہونے تک کے جس کے دیئے جانے کا یہود سے اُن کے مہر سے خروج کے بعد وعدہ کیا گیا تھا واقعات ہیں بلکہ زیادہ متعین طریقہ پر کہا جاسکتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات تک کے واقعات ہیں بہر حال ان حقائق کا تذکرہ قوم یہود کی مذہبی اور معاشرتی زندگی کو بنانے والے عوامل کے ذکر کے لئے ایک عمومی نوعیت کے خاکہ کا کام انجام دیتا ہے اس سے اس کا نام قانون شریعت یا توریت ہوا۔

دیباچے یہودیت و مسیحیت میں کئی صدیوں تک یہ خیال کیا جاتا رہا کہ اس کے مصنف خود حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ غالباً یہ ادعا اس حقیقت پر مبنی تھا کہ خداوند کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا (خروج ۱۷: ۱۴) ”اس بات کی دعائیق کی شکست کی یاد قاری کے لئے کتاب میں لکھ دے“ یا پھر مہر سے خروج کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے ”موسیٰ نے اُن کے سفر کا حال اُن کی منزلوں کے مطابق خداوند کے حکم سے قلمبند کیا“ (کنفی ۲۳: ۲) اور آخر میں ”اور موسیٰ نے اس شریعت کو لکھ کر کاہنوں کے چوبنی لادی اور خداوند کے عہد کے صندوق کے اٹھانے والے تھے اور اسرائیل کے سب بزرگوں کے سپرد کیا۔“ (استثناء ۳۱: ۹)۔ پہلی صدی قبل مسیح سے آگے چل کر یہ نظریہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسفار خمسہ کی تصنیف کا کام کیا تھا قائم ہوا۔ فلاوی یس جوزیف اور فلوا اسکندر لوی نے اس مفروضہ کو قائم رکھا۔

آج کل یہ نظریہ قطعی طور پر ترک کیا جا چکا ہے اور ہر شخص کا اس نقطہ پر اتفاق ہے۔ اس کے باوجود تب عہد نامہ اس کی تصنیف کے معاملہ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے منسوب کرتا ہے۔ پولس اپنے

۱۵ اس کا اصل نام جوزف بن بیتھیاس ہے وہ یہودی مورخ اور شاہی خاندان کا ایک جنرل تھا۔ یروشلم میں پیدا ہوا۔ (۳۶) اس نے یونانی اور عبرانی ادب کا مطالعہ کیا۔ ۳ سال ایک درویش کے ساتھ ریگستانی علاقے میں گزارے پھر وہ یروشلم لوٹ آیا۔ گیبیلی کا گورنر بنا۔ اس بغاوت میں شریک رہا جو رومیوں کے خلاف برپا ہوئی۔ آخر عمر میں یہوداہ میں کچھ قطعات زمین اور وظیفہ لے کر گوشہ نشین ہو گیا۔ اس نے کئی کتابیں جن میں قوم یہود کی تاریخ ہے لکھیں تقریباً ۱۰۰ میں فوت ہوا۔ مترجم

۱۵ اس کا زمانہ پہلی صدی ق م کا آخر اور پہلی صدی عیسوی کا شروع زمانہ ہے وہ اسکندریہ کا یونانی الاصل یہودی تھا اسی لئے یہودی افلاطون، بھی کہلاتا ہے۔ مشنہ میں یہودیوں کے ایک وفد کی جو روم گیا تھا قیادت کی۔ اس نے افلاطون ارسطو اور دیگر یونانی حکماء کے فلسفہ کی اسفار خمسہ کے اصولوں سے مطابقت کرنے کی بھی کوشش کی تھی۔ مترجم

اپنے خط میں رومیوں کو یوٹیکس کا حوالہ دیتے ہوئے (۱۰: ۵) اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ ”موسیٰ نے یہ لکھا ہے کہ جو شخص اس راستبازی پر عمل کرتا ہے جو شریعت سے ہے وہ اسی کی وجہ سے زندہ رہے گا“ وغیرہ۔ یوحنا اپنی انجیل میں (۵: ۲۶-۲۷) حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مندرجہ ذیل باتیں کہلاتا ہے۔ ”اگر تم موسیٰ کا یقین کرتے تو میرا بھی یقین کرتے اس لئے کہ اُس نے میرے حق میں لکھا ہے۔ لیکن جب تم اُس کے نوشتوں کا یقین نہیں کرتے تو میری باتوں کا کیونکر یقین کرو گے۔“ یہاں ہمارے پاس تصرف کرنے کی ایک مثال موجود ہے کیونکہ یونانی لفظ جو اصل سے مطابقت رکھتا ہے (Evident) ہے، چنانچہ انجیل کے مبلغ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے جو بات کہلا رہے ہیں۔ وہ قطعاً غلط ہے۔ مندرجہ ذیل سے اس بات کی صراحت ہوتی ہے۔

میں اس مثال کے لئے مواد قادر دے دو (Father de Vaux) سے جو یروشلم کی بائبل سوسائٹی کے صدر ہیں مستعار لے رہا ہوں۔ انہوں نے ۱۹۶۳ء میں کتاب پیدائش کے اپنے فرانسیسی ترجمہ کا دیباچہ لکھتے ہوئے اسفار خمسہ کے بارے میں ایک عمومی نوعیت کی تمہیدی جس میں نہایت قابل قدر دلائل شامل تھے۔ یہ دلیلیں مبلغین انجیل کے ان دعوؤں کے جو وہ کتاب زیر بحث کی تصنیف کے سلسلہ میں کرتے ہیں خلاف جاتی ہیں۔ ”قادر دے دو“ ہماری وجہ اس جانب مبذول کراتے ہیں کہ ”یہودی روایت جس کی حضرت مسیح علیہ السلام اور آپ کے حواریں نے پیروی کی“ قرون وسطیٰ کے اختتام تک تسلیم کی جاتی رہی۔ وہ اکیلا شخص جس نے اس نظریہ کی مخالفت کی بارہویں صدی میں ”اے نذرا“ تھا کہیں سو لہویں صدی میں جا کر کالٹیڈ نے اس بات کی نشاندہی کی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کتاب استثناء میں اپنی ہی وفات کا حال نہیں لکھ سکتے تھے (۵-۱۲) پھر مصنف اُن دوسرے ناقدین کے حوالے دیتا ہے جو اسفار خمسہ کے کم سے کم ایک حصہ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے منسوب کرنے کے مخالف ہیں۔ اُن میں سب سے مقدم رچرڈ سائمن نے ”قادر آف دی آرٹیری“ کی کتاب ”عہد نامہ قدیم کی تنقیدی تاریخ“ ہے (۱۹۶۸ء) جس میں تاریخ وار ترتیب میں پیدا ہونے والی دقتوں، واقعات کی تکرار، قصوں کے الجھاؤ اور اسفار خمسہ میں طرز تحریر کے اختلافات نشان کی گئی ہے۔ اس کتاب نے (اُس زمانہ میں) ایک ہنگامہ برپا کر دیا تھا رچرڈ سائمن کے طرز استدلال کو اٹھارہویں صدی کے شروع میں کتب تاریخ میں کھلم کھلا اختیار کیا گیا۔ اُس وقت تدامت کے حوالے اکثر اس بات سے دیئے جاتے تھے کہ ”حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا لکھا تھا“

۱۹۱۲ء سے ۱۹۲۸ء تک ہے۔ اُس کا تعلق فرانسیسی رومن کیتھولک عالم دین تھا۔ اُس کی کتابوں میں دو کافی مشہور ہیں۔ ایک استوار کرتیک دو ویتاماں (عہد نامہ قدیم کی تنقیدی تاریخ) اور دوسری استوار کرتیک ڈومیکست دو۔ ”نور و ویتاماں ہے پہلی کا سنہ تصنیف ۱۹۶۸ء ہے اور دوسری کا ۱۹۸۳ء۔ پہلی کتاب پر رومن کیتھولک اور پروٹیسٹنٹ دونوں جماعتوں کی طرف سے ہنگامہ ہوا۔ مترجم

یہ بات ہر شخص برآسانی سمجھ سکتا ہے کہ کسی ایسی داستان کی مخالفت کرنا کس قدر مشکل ہے جس کو خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے (منسوب) اقوال سے تقویت پہنچی ہے۔ یہیں سابق میں بتایا جا چکا ہے کہ عہد نامہ جدید میں اس (مفروضہ) کی حمایت کی گئی تھی۔ یہ گا لوٹی پانشر وہم کے ڈاکٹر ٹرین آسٹرک کا تھا۔ جنہوں نے اس موضوع سے متعلق ایک حتمی نوعیت کا استدلال پیش کیا۔

۱۸۵۳ء میں اپنی تصنیف ”ان ابتدائی تحریروں کے بارے میں جن کو معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ نے کتاب پیدائش کے مرتب کرنے میں سامنے رکھا خیالات“ شائع کر کے انہوں نے ماخذ کی کثرت پر زور دیا۔ وہ غالباً اس امر کی جانب توجہ کرنے والے پہلے آدمی نہیں تھے۔ لیکن اس کے باوجود ان میں یہ برأت تھی کہ انہوں نے ایک انتہائی اہمیت کے مسئلہ کو وقف عام کیا۔

کتاب پیدائش کے دو متن جن میں سے ہر ایک اُس طریقہ کی وجہ سے جس سے خدا کو یا تو ”یہودے“ یا ”الوہیم“ کے نام سے موسوم کیا گیا تھا ایک ساتھ موجود تھے۔ بنا بریں مؤخر الذکر میں دونوں متن پہلو بہ پہلو شامل رہے۔ آئی کورن (۱۸۰ تا ۱۸۸ء) نے یہی تحقیق باقی چار کتابوں کے بارے میں پیش کی ہے پھر الجین نے (۱۸۹۸ء) متون میں سے اس ایک متن کے متعلق جس کو آسٹرک نے علیحدہ کر لیا تھا اور جس میں خدا کے لئے ”الوہیم“ نام استعمال کیا ہے، بتایا ہے کہ وہ بذات خود دو جگہ بٹا ہوا ہے۔ (اسفار خمسہ) لغوی اعتبار سے الگ جا پڑا تھا۔

انیسویں صدی میں ماخذ کے بارے میں اور بھی گہری تحقیق ہوئی۔ ۱۸۵۴ء میں چار ماخذ تسلیم کر لئے گئے۔ ان کو یہودی۔ الوہیمی، استثنائی اور مرشدانہ متون کہا گیا ہے۔ ان کے زمانوں کا تعین کرنا بھی ممکن تھا۔

(۱) یہودی متن کو نویں صدی قبل مسیح کا مرتب شدہ قرار دیا گیا (یہوداہ میں ضبط تحریر میں لایا گیا)

(۲) الوہیمی متن غالباً تھوڑا سا جدید ہے (یہ اسرائیل میں لکھا گیا)

(۳) استثنائی متن بعض صاحبان کے نزدیک آٹھویں صدی قبل مسیح کا (دای۔ جیکب) اور دوسرے

حضرات (قادر دے وو) کے نزدیک یسوع کے زمانہ کا ہے۔

(۴) مرشدانہ متن (سسرڈوئل ورژن) جلا وطنی (اسیری) کے وقت یا اس کے بعد وجود میں

آیا۔ چھٹی صدی قبل مسیح۔

اس بات کو بخوبی سمجھا جاسکتا ہے کہ اسفار خمسہ کے متن کی ترتیب و تہذیب کا کام کم از کم تین صدیوں پر محیط ہے لیکن یہ مسئلہ اس سے بھی زیادہ پیچیدہ ہے۔ ۱۹۲۱ء میں اے۔ لوڈس نے یہودی متن میں تین ماخذوں کو الوہیمی متن میں چار کو، استثنائی میں چھ اور مرشدانہ میں نو کو سمیٹ کر کیا۔ قادر

ڈے وورمطراز ہیں کہ اس میں وہ اضافہ جات شامل نہیں ہیں جو آٹھ مختلف مصنفین کے یہاں بکھرے ہوئے ہیں۔ اس سے بھی زیادہ قریب کے زمانہ میں یہ خیال کیا گیا ہے کہ بہت سے شرعی دستور یا مسائل جو اسفار خمسہ میں شامل ہیں بائبل سے باہر بھی ان جیسے نمونے موجود تھے جن کا سلسلہ ان تاریخوں سے بھی کہیں پیچھے کی طرف کھینچتا چلا جاتا ہے جو تاریخیں خود ان صحیفوں کے لئے متعین کی گئی ہیں، اور یہ کہ "اسفار خمسہ کے بہت سے قصوں میں ایسا پس منظر پیشگی متعین کیا گیا تھا جو اس سے مختلف اور زیادہ قدیم تھا۔ جس سے خیال ہے کہ یہ صحیفے اخذ کئے گئے تھے۔ یہ چیز روایات کی تشکیل میں دلچسپی کی جانب رہبری کرتی ہے۔ اس وقت مسئلہ ایسا پیچیدہ ہو جاتا ہے کہ یہ سمجھنا ممکن نہیں رہتا۔

ماخذوں کی کثرت کی وجہ سے متعدد تضادات و مکررات ابھرتے ہیں فادر دے و طوفان عالمگیر، حضرت یوسف علیہ السلام کے انخواب، مہر کے قیام کے دوران ان کے واقعات، ایک ہی کردار سے متعلق ناموں کی عدم مطابقت اور اہم واقعات کے بارے میں مختلف بیانات کے سلسلہ میں روایات کے ایک دوسرے کے خلط ملط ہونے کی مثالیں پیش کرتے ہیں اس طرح معلوم ہوتا ہے کہ اسفار خمسہ کی تشکیل ان روایات مختلفہ سے ہوئی ہے جن کو مرتبین نے کسی قدر سوچ سمجھ کر باہم مربوط کر دیا ہے انہوں نے بعض اوقات اپنے جمع شدہ مواد کو آگے پیچھے رکھ دیا ہے اور بعض اوقات ربط پیدا کرنے کے لئے کچھ قصے کہانیوں کو موزوں کر دیا ہے تاہم انہوں نے غیر ممکن اور مطابقت نہ رکھنے والی باتوں کو منوں میں ظاہر ہونے سے نہیں روکا۔ جس کی وجہ سے موجودہ زمانہ کے لوگوں کو ماخذوں کو کھنگالنے کے لئے معروضی طریقہ اختیار کرنا پڑا۔

جہاں تک متن پر نقد و تبصر کا تعلق ہے۔ اسفار خمسہ کی ترتیب انسانی ہاتھوں سے انجام پائی ہوئی واقعات کو جانے اور موزوں کرنے کی غالباً ایک نہایت نمایاں اور اچھی مثال ہے۔ یہ کام قوم یہود کی تاریخ ۳ کے مختلف ادوار میں انجام پذیر ہوا اور اس کی زبانی روایتوں اور ان متنوں سے اخذ کیا گیا ہے جو سابقہ نسلوں دست بدست چلی آرہی تھیں۔ اس کی ابتداء نویں یا دسویں صدی قبل مسیح میں یہودی روایت سے ہوا جس نے اس داستان کو اس کی بالکل ابتداء سے لیا۔ مؤخر الذکر اسرائیل کے اپنے مخصوص مقدر کا خاکہ اس طرح پیش کرتا ہے کہ "وہ خدا کی اس عظیم مشیت کے ساتھ جس کا تعلق نسل انسانی سے تھا پوری طرح مطابقت پیدا کرنے (فادر دے و) اس کا اختتام چھٹی صدی قبل مسیح میں مرشدانہ روایت (سسر ڈوٹل ٹریڈیشن) کے ساتھ ہوا جس کا انداز اس اعتبار سے نہایت محتاط ہے کہ سنین اور نسب ناموں کو صحت

کے ساتھ پیش کیا گیا ہے۔

فادر ڈے وورمطراز ہیں کہ وہ چند قصے جو اس کے اپنے ہیں اس امر پر شاہد ہیں کہ ان میں جائز عصیت سے کام لیا گیا ہے۔ تخلیق کا کام مکمل ہونے پر سبت کی تعطیل حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ معاہدہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے ساتھ عہد نامہ اور — کے غار کی خبر بیداری کا واقعہ جس کے مطابق نبیوں کو کنعان میں زمین حاصل ہوئی، ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی پڑے گی کہ مرشدانہ روایت کا زمانہ بابل کی اسیری کے وقت سے شروع ہوتا اور فلسطین کی جانب واپسی تک جس کا آغاز ۵۳۸ ق م میں ہوا ختم ہوتا ہے۔ لہذا یہ مذہبی اور خالص سیاسی مسائل کا ایک امتزاج ہے۔

تہا کتاب پیدائش کو لے لیجئے۔ اس صحیفہ کی تقسیم تین ماخذوں میں پوری طرح متعین ہو چکی ہے۔ فادر ڈے و و اپنے ترجمہ کی تشریحات میں ہر ماخذ کے لئے کتاب پیدائش کے موجودہ متن کی ان عبادتوں کی فہرست دیتے ہیں جن پر اس متن کا دار و مدار ہے۔ اس مواد کی شہادتیں ممکن ہے اس حصہ کی نشاندہی کر دی جائے جو کسی ایک باب میں مختلف ذرائع سے آیا ہے۔ مثلاً پیدائش کے معاملہ میں، طوفان اور اس زمانہ کے معاملہ میں جو طوفان عالمگیر سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ تک ممتد ہے جبکہ یہ بحث کتاب پیدائش کے پہلے گیارہ ابواب کا احاطہ کئے ہوئے ہے۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ بائبل کے متن میں باری باری ایک جزو یہودی اور ایک جزو مرشدانہ رسرو ڈوئل (متون کا ہے۔ الوہیمی متن پہلے گیارہ ابواب میں نہیں ہے۔ یہودی اور مرشدانہ حصوں کا باہم انطباق اس موقع پر بالکل واضح ہے۔ تخلیق کے متعلق اور حضرت نوح علیہ السلام تک پہلے پانچ ابواب میں) ترتیب سادہ ہے۔ اس بیان کے آغاز سے لے کر انجام تک ایک یہودی اور ایک مرشدانہ عبارت یکے بعد دیگرے آرہی ہے۔ طوفان عالمگیر کے سلسلہ میں اور بالخصوص ساتویں اور آٹھویں ابواب کے لئے متن میں اس طرح قطع و برید کی گئی ہے کہ اپنے ماخذ کے مطابق اس متن کو گھٹا کر نہایت مختصر عبارتوں میں نکال دیا گیا ہے۔ انگریزی متن کی سوسطروں سے کسی قدر زیادہ جگہ میں متن میں سترہ مرتبہ تبدیلی ہوئی ہے۔ اسی سے وہ بعد از قیاس باتیں اور تضادات

اے آئندہ باب میں جب ہم جدید سائنسی معلومات سے دوچار ہوں گے اس وقت ہم دیکھیں گے کہ سسر ڈوئل ورتن کے مصنفین نے سطح زمین پر انسان کی تداومت، زبان میں اس کے مقام اور تخلیق کے عمل کے موضوع پر واقعاتی غلطیاں کتنی تعداد میں کی ہیں۔ یہ غلطیاں نمایاں طور پر متنوں میں تحریف اور دو بدل کی وجہ سے ہوئی ہیں۔


پیدا ہوتے ہیں جن سے ہمیں موجودہ متن کا مطالعہ کرتے وقت دوچار ہونا پڑتا ہے (صفحہ ۱۸ پر ماخذوں کی تفصیلی تقسیم کی جدول ملاحظہ کیجئے)۔

تاریخی کتب

ان کتابوں میں ہم قوم یہود کی تاریخ کے دور میں پہنچ جاتے ہیں۔ جو اس وقت سے ہے جب وہ ارض موخود میں وارد ہوئے (جو زیادہ امکان ہے کہ تیرہویں صدی قبل مسیح کے اختتام پر وقوع پذیر ہوا) اور بابل کی اسیری تک ممتد ہے جس کا زمانہ چھٹی صدی قبل مسیح کا ہے۔ یہاں زور اُس واقعہ پر دیا جاتا ہے جس کو کوئی شخص ایک قومی نوعیت کے حادثہ سے تعبیر کر سکتا ہے اور جو وعدہ خداوندی کے ایفا کے طور پر پیش کیا جاتا ہے لیکن اس بیان میں تاریخی صحت کا پوری طرح صفایا کر دیا گیا ہے۔ مثلاً حضرت یوشع بن نون کا صحیفہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں مذہبی مصالح کو سب سے مقدم رکھا گیا ہے۔ اس بات کو ذہن میں رکھ کر ہی اسی۔ جیکب اُس ظاہری تضاد کے نیچے خط کھینچ دیتا ہے۔ جو یہ سچ اور آئی کی قیاسی تباہی کے معاملہ میں اثرات اور عہد نامہ قدیم کے متنوں کے مابین پیدا ہوتا ہے۔

کتاب قضاة خدا کی منتخب اور چیدہ قوم کے چاروں طرف پھیلے ہوئے دشمنوں کے خلاف مدافعت پر اور خدا کی نصرت پر جو اس کو حاصل ہوئی مرکوز ہے۔ اس کتاب میں کئی مرتبہ تبدیلی کی گئی جیسا کہ قدر۔ اے۔ لیفؤر نہایت معروضی انداز میں کریمین بائبل کے ابتدائیہ میں بیان کرتے ہیں۔ متن میں شامل دیباچے اور ضمیمے اس بیان پر شاہد ہیں۔ ان بیانات پر جو قضاہ میں شامل ہے روت کا قصہ جوڑا گیا ہے۔

متنوں کی تقسیم کی جدول



پہلا عدد باب کو ظاہر کرتا ہے۔ دوسرا عدد جو قوسین میں ہے فقروں کے نمبر کی نشاندہی کرتا ہے جو بعض مقامات پر دو حصوں میں منقسم ہے جو حروف الف، اور پ، سے ظاہر کئے گئے ہیں۔
حروف :- ی — یہودی متن کو ظاہر کرتا ہے۔
م — مرشدانہ (سر ڈوئل) متن کو ظاہر کرتا ہے۔

مثال:- جدول کی پہلی سطر ظاہر کرتی ہے: پہلے باب کے پہلے فقرے سے دوسرے باب کے ۴ الف فقرہ تک۔ موجودہ بائبل میں جو متن شائع کیا گیا ہے وہ مرشدانہ متن ہے۔

باب	فقرہ	تا	باب	فقرہ	متن
۱	(۱)		۲	(۴ الف)	م
۲	(۴ پ)		۴	(۲۶)	ی
۵	(۱)		۵	(۳۲)	م
۶	(۱)		۶	(۸)	ی
۶	(۹)		۶	(۲۲)	م
۷	(۱)		۷	(۵)	ی
۷	(۶)		۷		م
۷	(۷)		۷	(۱۰)	ی تحریف کی گئی
۷	(۱۱)				م
۷	(۱۲)				ی
۷	(۱۳)		۷	(۱۶ الف)	م
۷	(۱۶ پ)		۷	(۱۷)	ی
۷	(۱۸)		۷	(۲۱)	م
۷	(۲۲)		۷	(۲۳)	ی
۷	(۲۴)		۸	(۲ الف)	م
۸	(۲ پ)				ی
۸	(۳)		۸	(۵)	م
۸	(۶)		۸	(۱۲)	ی
۸	(۳ الف)				م
۸	(۳ پ)				ی
۸	(۱۴)		۸	(۱۹)	م
۸	(۲۰)		۸	(۲۲)	ی
۹	(۱)		۹	(۱۷)	م

باب	فقہ	تا	باب	فقہ	تین
۹	(۱۸)	۹	۹	(۲۷)	ی
۹	(۲۸)	۱۰	۱۰	(۷)	م
۱۰	(۸)	۱۰	۱۰	(۱۹)	ی
۱۰	(۲۰)	۱۰	۱۰	(۲۳)	م
۱۰	(۲۴)	۱۰	۱۰	(۳۰)	ی
۱۰	(۳۱)	۱۰	۱۰	(۳۲)	م
۱۱	(۱)	۱۱	۱۱	(۹)	ی
۱۱	(۱۰)	۱۱	۱۱	(۳۲)	م

اس سے زیادہ آسان مثال اس طریقہ کے سلسلہ میں کیا ہو سکتی ہے جس طریقہ سے کہ لوگوں نے بائبل کے مقدس صحیفوں میں تخریف کی ہے۔

کتاب سموئیل اور سلاطین کی دو کتابیں سب سے بڑھ کر سوانحی مجموعے ہیں جن کا تعلق سموئیل، ساؤل حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام سے ہے ان کی تاریخی قدر و قیمت بحث کا ایک موضوع ہے۔ اس نقطہ نظر سے ای۔ جیکب اس میں بہت سی غلطیاں نکالتے ہیں۔ کیونکہ ایک ہی واقعہ سے متعلق کبھی دو اور کبھی تین تک روایتیں ملتی ہیں۔ ایلیجاہ، الشیع، یسعیاہ نبی تک بھی اس شکل میں دکھائی دیتے ہیں کہ ان میں تاریخ اور قصہ کہانی کے عناصر باہم مخلوط ہو سکتے ہیں۔ دوسرے شارحین جیسے فادر اے لیفور کا خیال یہ ہے کہ "ان کتابوں کی تاریخی قدر و قیمت بنیادی حیثیت رکھتی ہے"

تاریخ اول و دوم، کتاب عزرا اور کتاب نحمیاہ کا مصنف ایک ہے جس کو "واقعہ نگار" کہا گیا ہے اور جس نے چوتھی صدی قبل مسیح میں تصنیف کا کام کیا۔ وہ تخلیق کی تمام تاریخ کو اس دور تک دہراتا ہے حالانکہ اس کے نسب ناموں کا سلسلہ صرف حضرت داؤد علیہ السلام تک جاتا ہے۔ امر واقعہ یہ ہے کہ وہ سب سے زیادہ کتاب سموئیل اور کتاب سلاطین کو کام میں لایا ہے۔ "تناقضات اور تضادات کا خیال کئے بغیر وہ میکانکی طریقہ سے ان کو نقل کر دیتا ہے؛ زای جیکب، لیکن اس کے باوجود وہ ان صحیح حقائق کا اضافہ کر دیتا ہے۔ جن کو توشیح و تصدیق اثریات نے کر دی ہے ان کتابوں میں تاریخ کو دینی ضرورتوں کے مطابق بنانے میں احتیاط سے کام لیا گیا ہے۔ ای۔ جیکب کا کہنا ہے کہ "مصنف بعض اوقات تاریخ کو دینیات کے مطابق لکھتا ہے"

” اس واقعہ کی تشریح کرنے کے لئے کہ منشی نام کے بادشاہ کا جو ایک بد مذہب جاہل شخص تھا، طویل اور خوشحالی کا دور تھا، وہ اس بادشاہ کے اشوریہ کے قیام کے دوران اُس کے عقائد کی تبدیلی کا مفروضہ قائم کرتا ہے۔ (تواریخ - ۲، ۳۳-۱۱) حالانکہ کسی بائبل یا غیر بائبل ماخذ میں اس بات کا کوئی تذکرہ نہیں ہے ” کتاب عزرا اور کتاب نیمیہ پر نہایت سخت تنقید کی گئی ہے اس لئے کہ اُن میں مبہم نکات بھرے پڑے ہیں۔ اور اس لئے کہ جس دور سے ان کتابوں میں بحث کی گئی ہے (چوتھی صدی قبل مسیح) خود اُس کے بارے زیادہ اچھی معلومات نہیں ہیں کیونکہ اُس دور سے متعلق غیر بائبل دستاویزات موجود نہیں ہیں۔

تو بت، جوہوت اور آستر، کو تاریخی کتابوں میں شمار کیا گیا ہے۔ اُن میں تاریخ سے متعلق بڑی رعایتیں برتی گئی ہیں۔ اعلام کو تبدیل کر دیا گیا ہے۔ کردار اور واقعات اختراع کر لئے گئے ہیں۔ اور یہ سب مذہبی دلائل کو قوی بنانے کے لئے کیا گیا ہے۔ وہ درحقیقت قصے ہیں جو اس غرض سے وضع کئے گئے ہیں کہ اُن کا اختتام ایک اخلاقی سبق پر ہو۔ اور جن کو تاریخی نام لگن اور غیر صحیح باتوں کی مدد سے چٹ پٹا بنا لیا گیا ہے۔

میکابیز کی کتابیں بالکل ہی مختلف انداز کی ہیں۔ اُن میں ایسے واقعات کا تذکرہ ہے جو دوسری صدی قبل مسیح میں رونما ہوئے۔ جو اس دور کی تاریخ کا ایسا من و عن حال ہے جیسا ملنا ممکن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اُن میں نہایت بیش قیمت بیانات شامل ہیں۔

لہذا ”تاریخی“ کے زیر عنوان کتابوں کا مجموعہ بے حد مختلف النوع ہے۔ تاریخ کو سائنسی اور من موجدی دونوں انداز سے پیش کیا گیا ہے۔

الہامی کتب

اس عنوان کے تحت ان مختلف نبیوں کی تعلیمات ملتی ہیں جن کو عہد نامہ قدیم میں شامل پہلے جلیل القدر

۱۱ منشی (۶۲۹ ق، م یا ۶۲۹ ق، م) یہوداہ کا بادشاہ تھا۔ اُس کا دور حکمرانی طویل ترین تھا۔ اشوریہ کا باجگزر رہا۔ کچھ عرصہ بابل میں قید کاٹی۔ منیسے کی دعاء جو اسفار محرقہ میں دی گئی ہے اسی سے فسوب کی جاتی ہے۔

۱۲ عہد نامہ قدیم میں یہ واقعہ اس طرح درج ہے۔

” اور خداوند نے منشی اور اس کے لوگوں سے باتیں کیں پر انھوں نے کچھ دھیان نہ دیا۔ اس لئے خداوند ان پر بادشاہ اشور کے سپہ سالار کو چڑھا لایا جو منشی کو زنجیروں سے بھر کر اور بیڑیاں ڈال کر بابل کو لے گئے۔ جب وہ مصیبت میں پڑا تو اُس نے خداوند اپنے خدا سے منت کی اور اپنے باپ دادا کے خدا کے حضور نہایت خاکسار بنا اور اُس نے اس سے دعا کی۔ تب اس نے اُس کی دعاء قبول کر کے اُس کی فریاد سنی اور اسے اس کی مملکت میں یرشلیم کو واپس لایا تب منشی نے جان لیا کہ خداوند ہی خدا ہے۔ (تواریخ ۳۳: ۱۱-۱۳)

انبیاء مثل حضرت موسیٰ، شموئیل، عالیجاہ اور الیسع سے بلیغہ شمار کیا گیا ہے۔ ان پہلے انبیاء کی تعلیمات دوسری کتابوں میں دی گئی ہیں۔

الہامی کتابوں کا دور آٹھویں سے دوسری صدی قبل مسیح تک ممتد ہے۔

آٹھویں صدی قبل مسیح میں عاموس، ہوسیع، یسعیاہ اور میکاہ نام کے صحیفے موجود تھے۔ ان میں سے پہلے نبی اس لئے مشہور ہیں کہ انھوں نے معاشرتی نا انصافی کو برا بھلا کہا ہے۔ دوسرے کی شہرت اس وجہ سے ہے کہ انھوں نے مذہبی بد عنوانیوں کے خلاف آواز اٹھائی۔ جس کے نتیجہ میں انھیں جسمانی اذیتوں سے گزرنا پڑا جو ایک لادین فرقہ کی ایک پاک دامن طوائف سے شادی کر دینے کی شکل میں رونما ہوں، جس طرح کہ خدا کو اپنی مخلوق کو خوار کرنے کے سبب اذیت سے دوچار ہونا پڑا۔ لیکن پھر بھی اس نے اپنی محبت و کرمی کا سایہ ان پر رکھا۔ یسعیاہ کی حیثیت سیاسی تاریخ کے ایک کردار کی سی ہے۔ ان سے بادشاہ اور حکمران مشورے کرتے ہیں اور وہ حالات و واقعات پر چھپائے رہتے ہیں وہ ایک عظیم الشان نبی ہیں۔ ان کی اپنی ذاتی کتابوں کے علاوہ ان کے الہامات کو تیسری صدی قبل مسیح تک ان کے حواریں و معتقدین شائع کرتے ہیں۔ جن میں بد اعمالیوں کے خلاف احتجاجات، قہر الہی کا خوف، جلا وطنی اور اسیری کے وقت مخلصی اور بعد میں فلسطین کی جانب یہودیوں کی مراجعت کے بارے میں علانات ہیں۔ یہ یقینی امر ہے کہ دوسرے اور تیسرے یسعیاہ میں طہمانہ غرض و غایت، سیاسی مقاصد سے ہم عنان ہو جاتی ہے۔ یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے۔ یسعیاہ کے ہم عصر، میکاہ کی تبلیغ بھی اسی طرح کے عام خیالات و نظریات کی اشاعت سے متعلق ہے۔

ساتویں صدی قبل مسیح میں صفیاہ، یرمیاہ، نحوم اور حبقوق نے اپنی تعلیمات سے خود کو نمایاں کیا۔ یرمیاہ شہید ہوئے ان کے الہامات کو بروخ نے جو غالباً کتاب توحہ کے مصنف بھی ہیں یکجا کیا۔ چھٹی صدی کی ابتداء میں بابل کی اسیری کا دور ایسا ہے جب پیغمبرانہ سرگرمیاں شدت اختیار کر گئیں۔ حزقی ایل خاص طور پر اپنے بھائی بندوں کو صبر و ضبط کی تعلیم دیتے ہیں اور ان میں یقین و امید کا جذبہ بیدار کرتے ہیں۔ ان کے مکاشفات مشہور ہیں۔ کتاب عبدیاہ میں مفتوح یروشلم کی مصیبت و بد حالی کا تذکرہ ہے۔

جلا وطنی کے بعد جس کا اختتام ۵۳۸ ق۔ م کے اختتام پر ہوا۔ نبوت کے کام ججی اور زکریاہ نے دوبارہ شروع کئے انھوں نے لوگوں کو ہیکل کی تعمیر نو کے لئے آمادہ کیا۔ جب اس کی تکمیل ہو گئی تو صحیفے جو ملاکی کے نام سے مشہور ہوئے منصفہ شہود پر آئے۔ ان میں روحانیت لئے ہوئے

بہت الہامات ہیں۔

ایک شخص کو اس بات پر حسرت ہوتی ہے کہ کتاب یوناہ، الہامی کتابوں میں کیسے شامل کر لی گئی۔ جبکہ عہد نامہ قدیم اس کا تذکرہ کرنے کے لئے اس کے لئے کوئی حقیقی متن متعین نہیں کرتا۔ یوناہ وہ قصہ ہے جس سے ایک اہم اصول ابھر کر سامنے آتا ہے: وہ ہے مشیت ایزدی کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا۔

دانی ایل تین زبانوں میں لکھی گئی تھی (عبرانی - آرامی اور یونانی) عیسائی شارحین کے بموجب، یہ تاریخی نقطہ نظر سے ایک بدحواس کردینے والا اور باطل قسم کا صحیفہ ہے۔ یہ غالباً میکائی دور، یعنی دوسری صدی قبل مسیح کی تحریر ہے۔ اس کا مصنف «غارت گرمی کی شناخت» کے زمانہ میں اپنے ہم وطنوں کے عقیدہ و ایمان کو یہ تسلی دے کر برقرار رکھنا چاہتا تھا کہ «نجات کا لمحہ قریب ہے»

شاعری اور حکمت کی کتابیں

یہ کتابیں بے شبہ ادبی وحدت کے مجموعے ہیں۔

ان میں سب سے مقدم مناجاتیں ہیں جو عبرانی شاعری کے عظیم ترین نمونہ ہیں۔ ان میں ایک بڑی تعداد حضرت داؤد علیہ السلام کی تصنیف کردہ اور باقی پادریوں اور کاہنوں کی لکھی ہوئی ہیں۔ ان کے موضوع حمد، الحاح و زاریاں اور مراقبے ہیں۔ اور ان سے کیسا سے متعلق امور کی انجام دہی کا کام لیا جاتا تھا۔

سفر الیوب بالخصوص کتاب حکمت و تقویٰ کی تاریخیں غالباً ۴۰۰ - ۵۰۰ ق۔ م سے بعد کی ہیں۔ سقوط بیروشلیم پر «کتاب نوحہ» کے مصنف چھٹی صدی قبل مسیح کے آغاز میں بجا طور پر برصیاء تھے۔

ہمیں ایک مرتبہ پھر غزل الغزلات کا جو محبت حقیقی سے متعلق تمثیلی نغمے ہیں۔ کتاب ضرب الامثال کا۔ جو حضرت سلیمان علیہ السلام اور دربار کے دیگر عقلاء کے اقوال کا مجموعہ ہے اور واعظ کا جہاں دنیاوی لذت اور حکمت کے مابین مناظرہ ہے ذکر کرنا پڑے گا۔

چنانچہ ہمارے پاس ایسی کتابوں کا ایک مجموعہ ہے جو ان مختلف النوع عنوانات پر مشتمل ہے جو کم از کم سات صدیوں کی مدت میں لکھی گئیں۔ جن کو ایک کتاب میں مجتمع کرتے سے پہلے انتہائی متنوع ماخذوں کو کام میں لایا گیا ہے۔ یہ مجموعہ جو صدیوں پر پھیلا ہوا ہے کس طرح

اس قابل ہوا کہ اس کو ایک ناقابل تقسیم کل بنا دیا گیا۔ اور قوم کے خیال کے مطابق چند اختلافات کے ساتھ کیونکہ یہ ایک ایسی کتاب بن گئی جن میں یہودیت و نصرانیت کا الہامی مواد شامل ہے؛ یونانی زبان میں یہ کتاب کنین (مذہبی فتویٰ) کے نام سے اپنے اس ناقابل فہم خیال کے سبب مشہور ہے جو اس میں پیش کیا گیا ہے۔

اس کا زمانہ مسیحی دور سے شروع نہیں ہوتا بلکہ خود یہودیت تک اس کی تاریخ پہنچتی ہے جس کا ابتدائی مرحلہ ساتویں صدی قبل مسیح میں طے ہوا بعد کی کتابیں پہلے سے تسلیم شدہ کتب کے ساتھ شامل کر دی گئیں۔ تاہم یہ امر ملحوظ خاطر رہے کہ پہلی پانچ کتابیں جن کا مجموعہ توریت یا اسفار خمسہ ہے ہمیشہ مقام اولیت کی حاصل رہیں۔ جب ایک مرتبہ نبیوں کے اعلانات کا عملی اظہار ہو گیا تو ان کے متن کو ان کتابوں کے ساتھ شامل کرنے میں پھر کوئی دقت نہیں رہی جو پہلے ہی تسلیم کی جا چکی تھیں۔ یہی صداقت ان لیکچراروں کے سلسلہ میں ہے جو انبیاء علیہم السلام نے دین، دوسری صدی قبل مسیح تک نبیوں کے مذہبی فتاویٰ کی تشکیل عمل میں آگئی۔

دیگر کتابیں مثلاً مناجاتیں، اپنے کلیسائی عبادتوں کے عہد، بعد کی تحریروں کے ساتھ ملا کر مکمل کر دی گئیں، مثلاً توحہ، کتاب حکمت اور سفر ایوپ کا صحیفہ۔

ہم دیکھیں گے کہ عیسائیت کا جو ابتداء یہودی عیسائیت تھی۔ موجودہ دور کے مصنفین نے نہایت غائر نظر سے مطالعہ کیا ہے جن میں ایک مثال کارڈینال وائٹ لوکی ہے جب تک یہ پولس کے اثر سے منقلب ماہیت نہیں ہوئی تھی عیسائیت نے عہد نامہ قدیم کے ورثہ کو بغیر کسی دقت و دشواری کے تسلیم کر لیا تھا۔ اناجیل کے مصنفین مؤخر الذکر پر نہایت سختی سے کاربند رہے لیکن جیسے ہی اسفار محرفہ کے خارج کئے جانے سے اناجیل کا اخراج عمل میں آیا۔ ویسے ہی عہد نامہ قدیم کے لئے اسی انتخاب کو ضروری قرار دے لیا گیا۔ ہر چیز یا تقریباً ہر چیز تسلیم کر لی گئی ہے۔

اس مختلف النوع کے کسی پہلو کو قرون وسطیٰ کے اختتام سے پہلے ماہہ النزاع بنانے کی کس میں جرات تھی۔ کم از کم مغرب میں؛ جواب ہے کہ کسی شخص میں نہیں یا تقریباً کسی میں نہیں۔ قرون وسطیٰ کے اختتام سے دور جدید کے آغاز تک، دو ایک تا تا ابھرنے شروع ہوئے۔ لیکن جیسا کہ

ہم بیشتر دیکھ چکے ہیں۔ ارباب کلیسا اپنا راستہ بنانے میں ہمیشہ کامیاب رہے۔ آج کل، بلاشبہ متن سے متعلق نقد کی ایک خاصی مقدار موجود ہے لیکن اگر کلیسائی اختصاص میں بھی، بہت سے تفصیلی نکات کا جائزہ لینے کی سعی میں استغراق سے کام لیتے تو وہ اس چیز میں نہایت گہرائی تک آنے کو ترجیح نہ دیتے جس کو لطف گو یائی سے وہ "مشکلات" کا نام دیتے ہیں۔ وہ جدید معلومات کی

روشنی میں اس کا مطالعہ کرنے کی جانب مشکل سے مائل ہوتے ہیں۔ وہ تاریخ کے ساتھ تو نظر قائم کر سکتے ہیں۔
 — خاص طور سے اُس وقت جب تاریخ اور بائبل کے بیانات باہم مطابقت رکھتے ہوئے محسوس ہوتے ہوں۔ — لیکن ابھی تک انھوں نے خود کو اس بات کے لئے آمادہ نہیں کیا کہ وہ سانسِ تسورات کے ساتھ کھلے دل سے اور مکمل طور پر موازنہ کر سکیں۔ اُن کا خیال ہے کہ اس سے لوگوں میں یہودی۔ عیسائی صحف کے بارے میں احتجاج کرنے کا رجحان پیدا ہو جائے گا جو ابھی تک غیر متنازع رہے ہیں۔

عہد نامہ قدیم اور سائنس

نتائج تحقیقات

اُن مضامین میں سے جو عہد نامہ قدیم اور اسی طرح اناجیل میں بیان ہوئے ہیں۔ کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو جدید معلومات کی روشنی میں فراہم کردہ واقعات سے مطابقت رکھتا ہو۔ جب بائبل کے متن اور سائنس کے مابین کوئی غیر نا آہنگی واقع ہوتی ہے تو یہ نہایت اہم نکات پر ہوتی ہے۔
 جیسا کہ ہم سابقہ باب میں پہلے ہی دیکھ چکے ہیں۔ بائبل میں تاریخی تسامحات پائے جاتے ہیں۔ اور صراحت کے طور پر ہم یہودی اور عیسائی ماہرین کی نشاندہی پر اُن میں سے متعدد کا حوالہ بھی دے چکے ہیں۔ مؤخر الذکر قدرتی طور پر اس جانب مائل ہیں کہ اس قسم کے تسامحات کی اہمیت کو گھٹا کر دکھائیں۔ وہ کسی دیندار مصنف کے لئے اس بات کو ایک قدرتی سی چیز قرار دیتے ہیں کہ وہ تاریخی واقعات کو دینیات کے مطابق بنا کر پیش کر دے اور تاریخ کو اس طرح لکھے کہ وہ بعض ضرورتوں سے ہم آہنگ ہو جائے۔ متی کے مطابق انجیل کے معاملہ میں ہم آگے چل کر دیکھیں گے کہ حقائق کو بیان کرنے میں یہی آزادی برتی گئی اور جو کچھ اُس کے خلاف ہوا اس پر تنقید کرنے کی اجازت بھی اسی طرح دی گئی گویا وہ حق ہے۔ کوئی منطقی مزاج اور مفروضی طریقہ اختیار کرنے والا شخص اس طرز عمل سے مطمئن نہیں ہو سکتا۔

منطقی زاویہ نظر سے یہ ممکن ہے کہ تضادات و ناممکنات کی ایک کثیر تعداد کو نکال باہر کیا جائے ہو سکتا ہے کہ دو مختلف ماخذوں کی موجودگی جو کسی ایک واقعہ کو تحریر کرنے میں اختیار کئے گئے ہیں۔ ابتداء ایک ہی حقیقت کو دو مختلف طریقوں سے پیش کرنے کی وجہ سے ہو۔ پھر یہی سب کچھ ہمیں سے مختلف تصورات خورد تن میں بعد کے اضافہ جات ان تفسیروں کی طرح جو بعد میں شامل کی جاتی ہیں۔

پھر جب دوبارہ نقل ہونے لگے تو ان ہی کو بعد کے متن میں شامل کر لیا گیا ہو۔۔۔۔۔ ان باتوں کا ماہرین نے اصل عبارت پر تنقید کے سلسلہ میں پوری طرح اعتراف کیا ہے اور بعض نے تو بڑی صاف گوئی سے کام لے کر ان کے نیچے خط کھینچ دیا ہے مثلاً اسفار خمسہ کے معاملہ میں فادر ڈے وونے عام تمہید میں جو انہوں نے کتاب پیدائش کے ترجمہ کے شروع میں دی ہے (صفحات ۱۳ اور ۲۲) متعدد اختلافات کی جانب توجہ مبذول کرائی ہے۔ ہم ان کو یہاں نقل نہیں کریں گے اس لئے کہ اس جائزے کے دوران ہم ان میں سے متعدد کا بعد میں حوالہ دیں گے۔ عام تاثر جو کسی شخص کو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ متن کو حرف بہ حرف قبول نہیں کرنا چاہیے۔

اس موقعہ پر ایک بڑی نمایاں مثال پیش کی جاتی ہے۔

کتاب پیدائش میں (۶، ۳) طوفان عالمگیر سے متصل خدایہ فیصلہ کرتا ہے کہ آئندہ سے آدمی کی عمر کی حد ایک سو بیس سال ہوا کرے گی۔۔۔۔۔ اس کی عمر ایک سو بیس برس کی ہوگی۔ لیکن بعد میں چل کر ہم دیکھتے ہیں کہ اسی کتاب پیدائش میں درج ہے (۱۱ : ۱۰-۳۲) کہ حضرت نوح علیہ السلام کے اخلاف میں سے دس کی عمر ۱۲۸ سے لے کر ۶۰ سال تک ہوئیں (اسی باب میں وہ جدول ملاحظہ کیجئے جس میں حضرت نوح کے اخلاف کو حضرت ابراہیم تک پیش کیا گیا ہے) ان دونوں عبارتوں کے مابین تضاد و تناقض بالکل واضح ہے۔ اس کی تشریح و توضیح معمولی نوعیت کی ہے۔ پہلی عبارت (پیدائش ۶، ۳) ایک یہودی متن ہے جس کا زمانہ جیسا کہ ہم پہلے دیکھ چکے ہیں دسویں صدی قبل مسیح بعد کا ہے۔ کتاب پیدائش میں دوسری عبارت (۱۰ : ۱۰-۳۲) نہایت جدید دور کا ایک متن ہے۔ (چھٹی صدی قبل مسیح) جس کا ماخذ مرشدانہ نسخہ ہے۔ یہ نسخہ ان نسب ناموں کی ابتداء پر ہے جو عمروں کی لمبائی کے متعلق معلومات کے سلسلہ میں ایسے قرین صحت ہیں جیسے وہ بحیثیت مجموعی ناممکن ہیں۔ یہ بات کتاب پیدائش میں ہے کہ ہم جدید سائنس کے ساتھ تہایت نمایاں غیر ہم آہنگیاں پاتے ہیں۔ ان کا تعلق تین لازمی نکات سے ہے۔

(۱) دنیا کی تخلیق اور اس کے مدارج۔

(۲) دنیا کی تخلیق کی تاریخ اور سطح ارض پر ظہور آدم کی تاریخ۔

(۳) طوفان عالمگیر کا بیان۔



دنیا کی تخلیق

جیسا کہ فادر ڈ وون بتاتے ہیں کتاب پیدائش تخلیق کے دو پہلو بہ پہلو ملا کر رکھے گئے بیانات

شروع ہوتی ہے۔ جب جدید سائنسی مواد کے ساتھ ان کی ہم آہنگی کے نقطہ نظر سے ان کا جائزہ لیا جائے تو ہمیں ان میں سے ہر ایک کو الگ الگ دیکھنا پڑے گا۔
تخلیق کا پہلا بیان —

پہلا بیان۔ باب اول اور باب دوم کی اولین آیات پر محیط ہے۔ سائنسی نقطہ نظر سے عدم صحت کا یہ ایک شاہکار ہے اس کے لئے ایک پارے کا ایک وقت میں جائزہ لینا پڑے گا جو عبارت یہاں پیش کی جا رہی ہے وہ بائبل کے نظر تانی شدہ معیاری نسخہ سے ماخوذ ہے۔ (روائٹڈ اسٹنڈرڈ ورژن آف دی بائبل) باب اول آیات ۱- اور ۲۔

”خدا نے ابتداء میں زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ اور زمین ویران اور سنان تھی اور گہراؤ کے اوپر اندھیرا تھا۔ اور خدا کی روح پانی کے اوپر جنبش کرتی تھی۔“

یہ مان لینا قطعاً ممکن ہے کہ زمین کی تخلیق سے پہلے جو شے کائنات کی شکل میں رونما ہونے والی تھی جو ہمارے علم میں ہے کہ یہ تاریکی سے ڈھکی ہوئی ہو لیکن اس زمانہ میں پانی کی موجودگی کا تذکرہ کلیتہً ایک خاص تصور ہے۔ ہم اس کتاب کے پیسرے حصہ میں دیکھیں گے کہ اس امر کی ہر علامت موجود ہے کہ کائنات کی تشکیل کے ابتدائی درجہ میں گیس کا ایک تودہ موجود تھا۔ اس کی جگہ پانی کو قائم کر دینا غلطی ہے۔

— آیات ۳ تا ۵۔

”اور خدا نے کہا کہ روشنی ہو جا، اور روشنی ہو گئی۔ اور خدا نے دیکھا کہ روشنی اچھی ہے اور خدا نے روشنی کو تاریکی سے جدا کیا اور خدا نے روشنی کو دن کہا اور تاریکی کو رات اور شام ہوئی اور صبح ہوئی سو پہلا دن ہوا۔“

کائنات میں جو روشنی چکر لگا رہی ہے وہ ستاروں میں پیچیدہ قسم کے رد عمل کا نتیجہ ہے۔ اس رد عمل کی جانب ہم اسی کتاب کے پیسرے حصہ میں مراجعت کریں گے۔ تاہم بائبل کے بموجب تخلیق کے اس مرحلہ میں ستاروں کی تشکیل ہنوز نہیں ہوئی تھی۔ کتاب پیدائش میں فلک کی روشنیوں کا ذکر چودہویں آیت تک نہیں آیا۔ جبکہ چوتھے دن نیروں کی تخلیق عمل میں آئی تاکہ ”وہ دن کو رات سے الگ کریں“ اور ”زمین پر روشنی ڈالیں“ اور یہ تمام تر صحیح ہے۔ لیکن یہ بات غیر منطقی ہے کہ نتیجہ در روشنی کا ذکر پہلے دن میں ہی کر دیا گیا جبکہ اس روشنی کا منبع (سبب) تین دن بعد تخلیق ہوا۔ علاوہ ازیں شام اور صبح کے وجود کی حقیقت کو پہلے ہی دن بیان کر دینا قطعاً ایک قیاسی بات ہے۔ شام اور صبح کا وجود ایک دن کے حصوں کے طور پر صرف زمین کی تخلیق اور اس کے اپنے نیروں یعنی سورج کی روشنی کے تحت گردش شروع کرنے کے

بعد سمجھ میں آسکتا ہے۔

— آیات ۶ تا ۸ —

”اور خدا نے کہا کہ پانیوں کے درمیان فضا ہو، تاکہ پانی، پانی سے جدا ہو جائے۔ اور خدا نے فضا کو بنایا اور فضا کے نیچے کے پانی کو فضا کے اوپر کے پانی سے جدا کیا۔ اور ایسا ہی ہوا۔ اور خدا نے فضا کو آسمان کہا اور شام ہوئی اور صبح ہوئی۔ سو دوسرا دن ہوا۔

پانیوں کے خیالی افسانہ کا سلسلہ یہاں بھی جاری ہے اس طرح کہ فضا نے ان کو دو طبقوں میں بانٹ دیا وہ اس لئے کہ طوفان عالمگیر کا بیان اوپر کے پانی کو گزرنے اور زمین کے اوپر بہنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ پانیوں کی دو انباروں کی شکل میں جدا کی گئی تاکہ یہ تصور سائنسی نقطہ نظر سے ناقابل قبول ہے۔

— آیات ۹ تا ۱۳ —

”اور خدا نے کہا کہ آسمان کے نیچے کا پانی ایک جگہ جمع ہو کہ خشکی نظر آئے۔ اور ایسا ہی ہوا۔ اور خدا نے خشکی کو زمین کہا اور جو پانی جمع ہو گیا تھا اُس کو سمندر اور خدا نے دیکھا کہ یہ اچھا ہے۔ اور خدا نے کہا کہ زمین گھاس اور بیج دار بوٹیوں کو اور پھلدار درختوں کو جو اپنی اپنی جنس کے موافق پھلیں اور جو زمین پر اپنے آپ ہی میں بیج رکھیں اُگائے اور ایسا ہی ہوا۔ تب زمین نے گھاس اور بوٹیوں کو جو اپنی اپنی جنس کے موافق بیج رکھیں۔ اور پھلدار درختوں کو جن کے بیج ان کی جنس کے موافق اُن میں ہیں اُگایا اور خدا نے دیکھا کہ یہ اچھا ہے۔ اور شام ہوئی اور صبح ہوئی۔ سو تیسرا دن ہوا۔

یہ حقیقت کہ براعظم زمین کی تاریخ میں اس وقت ابھرے جب وہ ہنوز پانی سے ڈھکی ہوئی تھی۔ سائنسی اعتبار سے کلیتہً قابل قبول ہے۔ البتہ جو بات قطعاً کمزور ہے وہ یہ تصور ہے کہ سورج کے وجود میں آنے سے قبل ایک انتہائی منظم عالم نباتات جو بیج سے اُگے منصفہ شہود پر آجاتا ہے (کتاب پیدائش میں ہے کہ سورج چوتھے دن سے پہلے نمودار نہیں ہوتا) اور اسی طرح راتوں اور دنوں کے توازن سے ظاہر ہونے کا معاملہ بھی قابل فہم نہیں ہے۔

— آیات ۱۴ تا ۱۹ —

”اور خدا نے کہا کہ فلک پر نیر ہوں کہ دن کو رات سے الگ کریں اور وہ نشانوں اور زمانوں اور دنوں اور برسوں کے امتیاز کے لئے ہوں اور وہ ملک پر الوار کے لئے ہوں کہ زمین پر روشنی ڈالیں اور ایسا ہی ہوا۔ سو خدا نے دو بڑے نیر بنائے۔ ایک نیر اکبر کہ دن پر حکم کرے اور ایک نیر اصغر جو کہ رات پر حکم کرے۔ اور اُس نے ستاروں کو بھی بنایا اور خدا نے ان کو فلک پر رکھا کہ زمین پر روشنی ڈالیں اور دن پر اور رات پر حکم کریں۔ اور اچالے کو اندھیرے سے جدا کریں اور خدا نے دیکھا کہ یہ اچھا ہے۔

اور شام ہوئی اور صبح ہوئی۔ سو چوتھا دن ہوا۔

یہاں بائبل کے مصنف کا بیان قابل قبول ہے۔ اس عبارت پر صرف یہ اعتراض کیا جاسکتا ہے کہ بحیثیت مجموعی اس ذکر کو مناسب مقام نہیں دیا گیا۔ زمین اور چاند جیسا کہ ہمارے علم میں ہے اپنے ابتدائی نیر یعنی سورج سے خارج ہوئے ہیں۔ سورج اور چاند کی تخلیق کو زمین کی تخلیق کے بعد قرار دینا نظام شمسی کے ارکان کی تشکیل کے پوری طرح تسلیم شدہ تصورات کے خلاف ہے۔

— آیات ۲۰ تا ۲۳ —

”اور خدا نے کہا کہ پانی جانداروں کو کثرت سے پیدا کرے اور پرندے زمین کے اوپر فضا میں اڑیں اور خدا نے بڑے بڑے دریاؤں کو اور ہر قسم کے جاندار کو جو پانی سے بکثرت پیدا ہوئے تھے ان کی جنس کے موافق اور ہر قسم کے پرندوں کو ان کی جنس کے موافق پیدا کیا اور خدا نے دیکھا کہ یہ اچھا ہے۔ اور خدا نے ان کو یہ کہہ کر برکت دی کہ بھلو اور بڑھو اور ان سمندروں کے پانی کو بھردو اور پرندے زمین پر بہت بڑھ جائیں اور شام ہوئی اور صبح ہوئی سو پانچواں دن ہوا۔ اس عبارت میں ایسے دعوے ہیں جو ناقابل قبول ہیں۔

کتاب پیدائش کے مطابق عالم حیوانی کی ابتداء سمندری جانوروں اور پرندوں کے ظہور سے ہوئی بائبل کے بیان سے یہ معلومات فراہم ہوئی ہے — جیسا کہ ہم آئندہ آیات میں دیکھیں گے — کہ بعد میں آنے والے دن تک — زمین جانوروں سے آباد نہیں ہوئی۔

یہ بات تو یقینی ہے کہ حیات کی ابتداء سمندر سے ہوئی لیکن اس سوال پر بحث اس کتاب کے تیسرے حصہ سے پہلے نہیں کی جائیگی۔ اصل بات یہ ہے کہ زمین پر جانوروں کی آبادی سمندر سے ہوئی۔ لیکن جیسا کہ خیال کیا جاتا ہے کہ پرندوں کی ابتداء ان جانوروں سے ہوئی جو سطح ارض پر مسکن گزریں تھے۔ خاص طور پر ریگنے والے جانوروں کی ایک ایسی قسم سے جو دو رثانی میں اس پر رہ رہے تھے۔ بہت سی حیاتیاتی خصوصیات جو دونوں اقسام میں مشترک ہیں نتیجہ کے اس استخراج کے امکان کو ظاہر کرتے ہیں۔ تاہم زمین پر بسنے والے چوپاؤں کا تذکرہ کتاب پیدائش کے چھٹے دن تک نہیں کیا گیا۔ جو پرندوں کے ظہور کا دن ہے۔ لہذا پیدائش کی یہ ترتیب کہ زمین کے چوپائے، پرندوں کے بعد وجود میں آئے قابل قبول نہیں ہے۔

— آیات ۲۴ تا ۳۱ —

”اور خدا نے کہا کہ زمین جانداروں کو ان کی جنس کے موافق چوپائے اور ریگنے والے جاندار اور جنگلی جانور کی جنس کے موافق پیدا کرے اور ایسا ہی ہوا اور خدا نے جنگلی جانوروں اور چوپایوں کو ان

کی جنس کے موافق اور زمین کے رنگنے والے جانداروں کو ان کی جنس کے موافق بنایا اور خدا نے دیکھا کہ یہ اچھا ہے۔ پھر خدا نے کہا کہ ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنی شبیہ کے مانند بنائیں اور وہ سمندر کی مچھلیوں اور آسمان کے پرندوں اور چوپایوں اور تمام زمین اور سب جانداروں پر جو زمین پر رنگتے ہیں اختیار رکھیں۔“

”پہنچنے خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا۔ خدا کی صورت پر اس کو پیدا کیا۔ تر اور ناری ان کو پیدا کیا۔“

اور خدا نے ان کو برکت دی اور کہا کہ پھلو اور پٹھو اور زمین کو معمور و محکوم کرو اور سمندر کی مچھلیوں اور ہوا کے پرندوں اور ان جانوروں پر جو زمین پر چلتے ہیں اختیار رکھو اور خدا نے کہا کہ دیکھو میں تمام روئے زمین کی کل بیج دار سنہری اور ہر درخت جس میں اس کا بیج دار پھل ہو تم کو دیتا ہوں۔ یہ تمہارے کھانے کو ہوں۔“ اور زمین کے کل جانوروں کے لئے اور ہوا کے کل پرندوں کے لئے اور ان سب کے لئے جو زمین پر رنگنے والے ہیں جن میں زندگی کا دم ہے کل ہری بوٹیاں کھانے کو دیتا ہوں اور ایسا ہی ہوا۔ اور خدا نے سب پر جو اس نے بنایا تھا نظر کی اور دیکھا کہ وہ سب بہت اچھا ہے۔ اور شام ہوئی اور صبح ہوئی۔ سو چھٹا دن ہوا۔“

یہ تخلیق کے عروج کا تذکرہ ہے۔ مصنف اس سب جاندار مخلوق کی فہرستیں پیش کر دیتا ہے جس کا پہلے ذکر نہیں ہوا تھا۔ اور انسان اور چوپائے کی خوراک کی مختلف اقسام بھی بیان کر دیتا ہے۔ جیسا کہ ہم دیکھ چکے ہیں سہو اس بات میں ہوا کہ چوپایوں کے ظہور کو پرندوں کے بعد دکھایا گیا۔ تاہم انسان کے ظہور کو صبح طور پر جملہ جاندار اشیاء کی اصناف کے بعد رکھا گیا ہے۔ تخلیق کا ذکر باب دو کی پہلی تین آیات میں اختتام کو پہنچ جاتا ہے۔

”سو آسمان اور زمین اور ان کے کل شکر کا بنانا ختم ہوا۔ اور خدا نے اپنے کام کو جسے وہ کرتا تھا ساتویں دن ختم کیا اور اپنے سارے کام سے جسے وہ کر رہا تھا ساتویں دن فارغ ہوا اور خدا نے ساتویں دن کو برکت دی اور اسے مقدس ٹھہرایا کیونکہ اس میں خدا ساری کائنات سے جسے اس نے پیدا کیا اور بتایا فارغ ہوا۔“

”یہ ہے آسمان اور زمین کی پیدائش جب وہ خلق ہوئے جس دن خداوند خدا نے زمین اور آسمان

کو بنایا۔“

ساتویں دن کا یہ تذکرہ کسی قدر اظہار خیال چاہتا ہے۔

پہلی چیز بعض الفاظ کا مفہوم ہے۔ متن، بائبل کے روائٹور اسٹنڈرڈ ورژن سے لیا گیا ہے۔

جس کا صدر میں ذکر کیا جا چکا ہے۔ یہاں لفظ شکر اغلباً مخلوق اشیا کی کثرت کو ظاہر کرتا ہے۔ جہاں تک اس عبارت کا تعلق ہے "وہ فارغ ہوا" یہ عبرانی لفظ "شباط" کے ترجمہ کرنے کا ایک ڈھنگ ہے۔ لفظ "شباط" سے یہودیوں کے آرام (چھٹی) کا دن ماخوذ ہے۔ لہذا انگریزی کی عبارت سبت رارو۔ سبت، ہو گئی۔

یہ بات بالکل واضح ہے کہ "خدا کے متعلق جو چھ دن کے کام کے بعد آرام کرنے کو کہا گیا ہے یہ محض خرافات ہے۔ پھر بھی اس کی ایک توضیح و تاویل ہو سکتی ہے۔ ہمیں یہ امر ذہن میں رکھنا چاہیے کہ تخلیق کا بیان جو اس جگہ پیش کیا گیا ہے نام نہاد درویشانہ متن سے لیا گیا ہے۔ جس کو ان پادریوں اور منشیوں نے تحریر کیا تھا جو بابل کی اسیری کے زمانہ کے نبی خرمقی ایل کے روحانی حاشین تھے اور جنہوں نے چھٹی صدی قبل مسیح میں لکھا تھا۔ ہم یہ بات پہلے ہی دیکھ چکے ہیں کہ کس طرف پادریوں نے کتاب پیدائش کے یہودی اور ایلوہی متوں کو لیا اور اسی موقف کے مطابق اپنے انداز میں تشیل نو کر لی۔ فادرڈ وونے لکھا ہے کہ ان تحریروں کا شرعی نقطہ نظر یہی ہے۔ اس کا ایک خاکہ صدر میں پہلے ہی دیا جا چکا ہے۔

جبکہ تخلیق کا یہودی متن میں جو مرشدانہ متن سے کئی صدی پہلے لکھا گیا تھا خدا کے آرام کا جو ہفتہ بھر کی مشقت کے سبب تھکن ہو جانے کے بعد اس نے کیا تھا کوئی ذکر نہیں ہے۔ مرشدانہ متن کے مصنفین نے اس کو اپنی تحریر میں شامل کر لیا۔ وہ مؤخر الذکر کو الگ الگ دنوں میں تقسیم کر دیتے ہیں اور ہفتہ کے دنوں کا نہایت باضابطہ اظہار کرتے ہیں وہ یوم سبت کے گرد جو آرام کے لئے ہے اس ہفتہ کی تعمیر کھڑی کرتے ہیں۔ اور معتقدین کے لئے اس بات کی نشاندہی کر کے کہ خداوند کریم نے سب سے پہلے اس کی تقدیس کی تھی ان کو حق بجانب بنانا چاہتے ہیں اس عملی ضرورت کے نتیجہ میں جو بیان پیش کیا گیا ہے۔ وہ بظاہر منطقی جنینیت سے مذہبی ترتیب کا حامل ہے۔ لیکن فی الحقیقت سائنسی معلومات ہمیں اس امر پر مجبور کرتے ہیں کہ مؤخر الذکر کو ہم ایک من گھڑت قسم کی چیز سمجھیں۔

یہ تصور کہ تخلیق کے سلسلہ وار مدارج، جس طرح کہ مرشدانہ مصنفین نے لوگوں کے مذہبی معتقدات کو ابھارنے کی خواہش کے طور پر شاہدہ کئے تھے۔ سکڑ کر ایک ہفتہ کی مدت میں سما گئے ایک ایسا مفروضہ ہے جس کی سائنسی نقطہ نظر سے مدافعت ممکن نہیں ہے۔ آج ہمیں مکمل طور پر اس بات کا شعور ہے کہ کائنات اور زمین کی تخلیق مختلف مدارج سے ہو کر گزری اور اس میں کافی عرصہ لگا کتاب ہذا کے تیسرے حصہ میں جب ہم تخلیق کے بارے میں قرآن کی دی ہوئی معلومات پر غور کریں گے تو اس سوال کو اس وقت تریز بحث لائیں گے، اگر چھٹے دن کی شام کو ہی یہ تذکرہ اس ساتویں دن کا جب بقول کسے خداوند کریم

نے آرام کیا تھا ذکر کئے بغیر اختتام کو پہنچ جاتا یا جیسا کہ قرآن میں مذکور ہے جس سے یہ خیال کرنے کا موقع فراہم ہو جاتا ہے کہ واقعی دنوں کے بجائے وہ غیر معینہ طول کے ادوار میں تب بھی مرشدانہ متن کا بیان کسی طرح قابل قبول نہیں ہو سکتا تھا۔ ان واقعات کا جو اس میں مذکور ہیں تو اتر ہی سائنس کی ابتدائی معلومات کے کلیتہً مخالف ہے۔

لہذا یہ بات سمجھ میں آجاتی ہے کہ تخلیق کا مرشدانہ بیان ایک تصویری اور اختراعی داستان ہے۔ اس کا مقصد حقیقت کا علم دینے کے بجائے کلیتہً مختلف تھا۔

دوسرا بیان :-

کتاب پیدائش میں تخلیق کا دوسرا بیان کسی تبصرہ یا عبارت کی تبدیلی کے بغیر پہلے بیان کے فوراً بعد ہے اس پر اس قسم کے اعتراضات وارد نہیں ہوتے۔

ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ بیان تقریباً تین صدی پرانا اور نہایت مختصر ہے۔ اس میں انسان اور جنت ارضی کی تخلیق کے لئے ارض و سماوات کی تخلیق سے زیادہ جگہ دی گئی ہے۔ اس کو بھی انتہائی اختصار سے بیان کیا گیا ہے (باب ۲۔ آیات ۴ تا ۷)۔ "یہ ہے آسمان اور زمین کی پیدائش جب وہ خلق ہوئے جس دن خداوند خدا نے زمین اور آسمان کو بنایا۔ اور زمین پر اب تک کھیت کا کوئی پودا نہ تھا اور نہ میدان کی کوئی سبزی اب تک اُگی تھی۔ کیونکہ خداوند خدا نے زمین پر پانی نہیں برسایا تھا۔ اور نہ زمین جو تنے کو کوئی انسان تھا۔ بلکہ زمین سے کھراٹھتی تھی اور تمام روئے زمین کو سیراب کرتی تھی۔ اور خداوند خدا نے زمین کی مٹی سے انسان کو بنایا اور اس کے نتھنوں میں زندگی کا دم پھونکا تو انسان جلتی جان ہوا۔"

یہ یہودی متن ہے جو موجودہ دور کی بائبلوں کے متن میں دکھائی دیتا ہے۔ مرشدانہ متن اس میں بعد کو جوڑا گیا ہے لیکن یہاں یہ سوال کیا جاسکتا ہے کہ کیا یہ ابتداءً اتنا ہی مختصر تھا۔ کوئی شخص بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہودی متن اس تمام اثنا میں قطع و برید کی زد میں نہیں آیا۔ ہمیں معلوم کہ وہ چند سطریں جو اس وقت ہمارے پیش نظر ہیں اس تمام چیز کی ترجمانی کرتی ہیں جو تخلیق کے بارے میں بائبل کے قدیم ترین متن میں بتائی گئی تھی۔

یہودی بیان میں زمین یا آسمانوں کی واقعی تشکیل کے بارے میں کچھ نہیں کہا گیا۔ اس سے یہ بات صاف ہو جاتی ہے کہ جب خداوند قدوس نے انسان کو تخلیق کیا اس وقت زمین پر تباہات کا وجود نہیں تھا۔ (اس وقت تک بارش نہیں ہوئی تھی) حالانکہ زمین کے بانی نے اس کی سطح کو ڈھک رکھا تھا۔ متن کے آخری بیان سے اس کی تصدیق ہوتی ہے۔ جس وقت آدمی کی تخلیق ہوئی تو خداوند کریم نے اسی وقت ایک باغ

اُگا دیا۔ چنانچہ زمین پر عالم نباتات کا اسی وقت ظہور ہوا جس وقت انسان کا۔ یہ چیز سائنسی طور پر صحیح نہیں ہے انسان کا زمین پر اُس وقت تک ظہور نہیں ہوا جب تک کہ اس پر نباتات کو اُگے ہوئے کافی زمانہ نہیں گزر گیا۔ ہمیں نہیں معلوم کہ ان دونوں واقعات کے درمیان کتنے کروڑ سال کی مدت حائل ہے۔

یہ وہی تین پر صرف ہی ایک تنقید ہے جو کی جاسکتی ہے۔ یہ حقیقت کہ وہ انسان کی تخلیق کو دنیا اور زمین کی تشکیل کے اعتبار سے زماں میں اس طرح محدود نہیں کرتا جس طرح مرشدانہ تین کرتا ہے کہ وہ اُن کو اسی ایک ہفتہ سے متعلق کر دیتا ہے اس کی وجہ سے مؤخر الذکر کے خلاف جو شدید اعتراضات وارد ہوتے ہیں اُس سے یہ بچ جاتا ہے۔

دنیا کی تخلیق کی تاریخ اور انسان زمین پر ظہور کی تاریخ

یہ وہی تقویم جس میں اُن اعداد و شمار کی پیروی کی گئی ہے جو عہد نامہ قدیم میں دیئے گئے ہیں۔ مذکورہ بالا واقعات کی تاریخوں کا نہایت قطعیت کے ساتھ تعین کرتی ہے۔ ۵۷۳۶ سال کے آغاز سے مطابق ہوتا ہے۔ انسان کی تخلیق کئی دن بعد عمل میں آئی۔ چنانچہ سالوں کا حساب لگایا جائے تو اس کی عمر اعداد کے لحاظ سے اتنی ہی بٹھتی ہے جتنی یہ وہی تقویم میں دی گئی ہے۔ غالباً اس حقیقت کے سبب کسی قدر تصحیح کرنا پڑے گی کہ ابتداءً وقت کا حساب قمری سالوں میں لگایا جاتا تھا۔ جبکہ مغرب میں استعمال ہونے والے کیلنڈر کی بنیاد شمسی سالوں پر ہے۔ یہ تصحیح اُس وقت کرتا ہوگی جب کوئی شخص مکمل صحت کا خواہشمند ہو۔ لیکن اس کی تعداد میں محض ۳ فیصد کا فرق ہے اس لئے یہ نہایت بغیر و قیوع ہے اپنے حسابات کو آسان بنانے کے لئے آسان طریقہ یہ ہے کہ اس کو نظر انداز کر دیا جائے۔ جو چیز ہاں اہمیت رکھتی ہے وہ ہے مقدار کا درجہ لہذا یہ بات کوئی اہمیت نہیں رکھتی ہے کہ ایک ہزار سال پر ہمارے حسابات سے تین سال زیادہ ہو جاتے ہیں۔ تخلیق عالم کے سلسلہ میں اس عبرانی طریقہ کار کی پیروی کرتے ہوئے اگر ہم یہ بھی کہہ دیں کہ یہ واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً سینتیس صدی پیشتر ہوا تھا۔ تب بھی ہم صحت کے قریب تر ہوں گے۔

جدید سائنس ہمیں کیا بتاتی ہے۔؟ کائنات کی تشکیل کے بارے میں اس سوال کا جواب دینا مشکل ہوگا۔ جس چیز کے سلسلہ میں ہم اعداد و شمار فراہم کر سکتے ہیں وہ زمان کے لحاظ سے سکین کی وہ تعداد ہے جب نظام شمسی بنا۔ ممکن ہے کسی مقبول حد تک ہم اس تعداد کے قریب پہنچ جائیں۔ اُس وقت اور موجودہ زمانہ کے مابین ساڑھے چار ارب سال کا اندازہ لگایا گیا ہے۔ لہذا ہم اس بعد کو سمجھ سکتے ہیں جو اُس و ثوق سے قائم کردہ حقیقت کے، جو آج ہمارے علم میں ہے اور اُن اعداد و شمار کے جو قدیم عہد نامہ سے حاصل کئے گئے ہیں مابین پڑتا ہے۔ اس مضمون پر ہم اسی کتاب کے تیسرے حصہ میں وضاحت سے گفتگو کریں گے۔

یہ حقائق بائبل کا گہری نظر سے جائزہ لینے پر ابھرتے ہیں۔ کتاب پیدائش نہایت قطعیت کے ساتھ اس زمانہ کے متعلق معلومات باہم پہنچاتی ہے۔ جو حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت ابراہیم علیہ السلام تک ممتد ہے۔ جو زمانہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر عیسائیت کے آغاز تک گزرا اس کے بارے میں معلومات نا کافی ہیں اس کی تائید دیگر ذرائع سے ہونی چاہیے۔

(۱) حضرت آدمؑ سے حضرت ابراہیمؑ تک

کتاب پیدائش میں ابواب ۴، ۵، ۱۱، ۲۱ اور ۲۵ میں انساب سے متعلق نہایت قطعی اعداد و شمار فراہم کئے گئے ہیں۔ ان سب کا تعلق حضرت ابراہیمؑ کے اجداد سے ہے جو براہ راست اوپر کی طرف بڑھتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام تک چلے گئے ہیں ان سے وقت کی وہ مدت معلوم ہو جاتی ہے جتنی مدت تک ہر شخص زندہ رہا، بیٹے کی پیدائش کے وقت باپ کی عمر کا پتہ چل جاتا ہے اور اس طرح حضرت آدمؑ کی تخلیق کے حوالے سے ہر مورث کی پیدائش اور وفات کی تاریخوں کو آسانی سے جاننا ممکن ہو جاتا ہے۔ نیچے کی جدول سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے۔

اس جدول میں جو اعداد استعمال کئے گئے ہیں وہ کتاب پیدائش کے مرشدانہ متن سے حاصل شدہ ہیں۔ بائبل کا یہی متن ایسا ہے جو اس نوع کی معلومات ہم پہنچاتا ہے۔ بائبل کے مطابق یہ استخراج و استنباط کیا جاسکتا ہے کہ حضرت ابراہیمؑ، حضرت آدم علیہ السلام کے ۱۹۴۸ سال بعد پیدا ہوئے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نسب نامہ

تخلیق آدمؑ کے بعد تاریخ پیدائش :-	عمر	تخلیق آدمؑ کے بعد تاریخ وفات
(۱) آدمؑ	۹۳۰	۹۳۰
(۲) شیتؑ	۱۳۰	۱۰۴۲
(۳) انوس	۲۳۵	۱۱۴۰
(۴) قینان	۳۲۵	۱۲۳۵
(۵) محلل ایل	۳۹۵	۱۲۹۰
(۶) یارو	۴۶۰	۱۴۲۲
(۷) یونسؑ (حنوک)	۶۲۲	۹۸۷
(۸) متوسلح	۶۸۷	۱۶۵۶
(۹) ملک	۸۷۴	۱۶۵۱
(۱۰) نوحؑ	۱۰۵۶	۲۰۰۶

نام	تخلیق آدم کے بعد تاریخ پیدائش	عمر	تخلیق آدم کے بعد تاریخ وفات
۱۱) سام	۱۵۵۶	۶۰۰	۲۱۵۶
۱۲) ارفکھد	۱۶۵۸	۴۳۸	۲۰۹۶
۱۳) سلح	۱۶۹۳	۴۳۳	۲۱۲۲
۱۴) عبر	۱۷۲۳	۴۶۴	۲۱۸۷
۱۵) فلج	۱۷۵۷	۲۳۹	۱۹۹۶
۱۶) رعو	۱۷۸۷	۲۳۹	۲۰۲۶
۱۷) سروج	۱۸۱۹	۲۳۰	۲۰۴۹
۱۸) نحور	۱۸۴۹	۱۴۸	۱۹۹۷
۱۹) تارح	۱۸۷۸	۲۰۵	۲۰۸۳
۲۰) ابراہیمؑ	۱۹۴۸	۱۷۵	۲۱۲۳

۲۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے عیسائیت کے آغاز تک

بائبل میں اس دور سے متعلق ایسے اعداد و شمار فراہم نہیں کئے گئے جیسے کہ حضرت ابراہیمؑ کے اجداد سے متعلق کتاب پیدائش میں ملتے ہیں جن سے کوئی واضح تخمینہ قائم کیا جاسکتا۔ لہذا ہمیں ابراہیمؑ سے لگا کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ کا اندازہ لگانے کے لئے بعض دوسرے ماخذ کو کام میں لانا پڑے گا۔ تھوڑی سی غلطی کو نظر انداز کرتے ہوئے اس وقت حضرت ابراہیمؑ کے دور کا تعین حضرت عیسیٰؑ سے اٹھارہ صدی قبل کا کیا جاتا ہے۔ کتاب پیدائش میں حضرت ابراہیمؑ سے لے کر حضرت آدمؑ کے درمیانی وقفہ سے متعلق جو معلومات ملتی ہے اس کو ملا لیا جائے تو حضرت آدمؑ کا زمانہ حضرت عیسیٰؑ سے تقریباً اڑتیس صدی پہلے بیٹھتا ہے یہ اندازہ مسلمہ طور پر غلط ہے۔ اس غلطی کا مبداء اصل میں وہ غلطیاں ہیں جو بائبل میں آدمؑ اور ابراہیمؑ کی درمیانی مدت کے سلسلہ میں رونما ہوئی ہیں۔ یہودیوں کی تقویم کا بنیاد اب بھی اسی روایت پر قائم ہے آج کل ہم بائبل کی صداقت کی روایتی انداز سے حمایت کرنے والے حضرات کو اس نامطابقت کی وجہ سے چیلنج کر سکتے ہیں جو چھٹی صدی قبل مسیح کے یہودی مذہبی پیشواؤں کے قیاسات اور جدید شماریات کے درمیان رونما ہو رہی ہے۔ صدیوں تک حضرت عیسیٰؑ سے متعلق پرانے واقعات کے زمانہ کا تعین اس معلومات کے مطابق ہوتا رہا۔ جس کی بنیاد ان تخمینوں اور اندازوں پر تھی۔

جدید دور سے پہلے بائبل کے ایڈیشن تاری کے لئے ایسے تمہیدی بیان سے مزین کئے جاتے تھے جن میں ان واقعات کی تاریخی ترتیب کی وضاحت ہوتی تھی۔ جو دنیا کی تخلیق اور ان کتابوں کی ترتیب کے

زمانہ کے درمیان رونما ہو چکے تھے۔ ان اعداد میں زمانہ کے لحاظ سے تھوڑا بہت فرق ہوتا تھا۔ مثلاً پوپ کلیمنٹ کے تیار کرائے ہوئے بائبل کے لاطینی ترجمہ (۱۶۳۱ء) سے یہ معلومات بہم پہنچی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ کسی قدر پہلے کا تھا اور تخلیق آدم تقریباً ۴۰ صدی ق.م میں ہوئی تھی۔ والٹن کی ہفت لسانی بائبل جو ۱۷۰۱ء میں منصفہ شہود پر آئی۔ اس میں اور کلیمنٹ ولگٹ رپو پ کلیمنٹ کا مرتب کیا ہوا بائبل کا لاطینی نسخہ میں قاری کے لئے اس نوع کی جدولیں مہیا کی گئی ہیں جیسی کہ حضرت ابراہیم کے اجداد کے سلسلہ میں اوپر دی گئی ہے۔ تمام تخمینے تقریباً ان ہی اعداد مطابقت رکھتے ہیں جو یہاں دیئے گئے ہیں۔ دور جدید کی آمد پر بائبل کے مرتبین اس قسم کی انوکھی تاریخی جدولیں ان سائنسی انکشافات کے خلاف جاٹے بغیر قائم نہ رکھ سکے جن کے مطابق تخلیق کا واقعہ کہیں پہلے رونما ہوا تھا انھوں نے ان جدولوں اور تمہیدی بیانوں کو حذف کر دینے پر ہی اکتفا کی تاہم انھوں نے قاری کو یہ بتانے سے اجتناب برتا کہ بائبل کے وہ متن جن پر ان تاریخی جدولوں کا انحصار ہے کلیتہً مسترد کی جا چکی ہیں اور وہ حقیقت کو ظاہر نہیں کرتیں۔ انھوں نے ان پر ایک ہلکا سا پردہ ڈال دیا اور نہایت شاطرانہ قسم کی منطق کے ایسے مقررہ فقرے ایجاد کئے جن سے وہ متن اسی طرح قابل قبول بن جاتا تھا جس طرح پہلے سمجھا جاتا تھا اور یہ عمل بغیر کسی قطع و برید کے مکمل ہو جاتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ بائبل کے مرشدانہ متن جو نسب نامے شامل ہیں وہ اب بھی اسی طرح قدر کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں۔ باوجودیکہ بیسویں صدی میں کوئی شخص بھی ایسی من گھڑت باتوں کی بنیاد پر معقولیت کی حدود میں رہتے ہوئے وقت کا شمار نہیں کر سکتا۔

موجودہ سائنسی اعداد سطح ارض پر ظہور آدم کی تاریخ کو متعین کرنے میں ایک خاص حد سے آگے بڑھنے سے روکتے ہیں۔ ہمیں یقین ہے کہ انسان جس میں کام کرنے کی صلاحیت اور فہم و شعور اسی کو ان مخلوقات سے ممتاز کرتے ہیں جو اُس جیسے دکھاؤ دیتے ہیں زمین پر ایک خاص قابل لحاظ تاریخ

۱۷ کلیمنٹ کے لقب سے چودہ پوپ ہوئے ہیں۔ کلیمنٹ ہشتم جن کا اصل نام آلدو برادینی تھا ۱۵۳۶ء میں پیدا ہوئے اور ۱۶۰۵ء میں انھوں نے وفات پائی ان کا دور پاپائیت ۱۵۹۲ء تا ۱۶۰۵ء ہے وہ نہایت مقدس اور عالم و فاضل انسان تھے۔ ان کے حکم سے ۱۵۹۲ء میں بائبل کے لاطینی ترجمہ پر نظر ثانی کی گئی اور اسی سال یہ نظر ثانی شدہ نسخہ شائع ہوا۔ رومن کیتھولک چرچ کے لئے یہ نسخہ تقریباً ۳۰۰ سال تک مستند سمجھا جاتا رہا۔ مصنف کتاب ہذا کے پیش نظر اسی ترجمہ کا وہ ایڈیشن تھا جو ۱۶۲۱ء میں شائع ہوا تھا یہاں اسی کی جانب اشارہ ہے۔ مترجم

۱۷ بریان والٹن (م ۱۶۶۱ء) انگلستان کے بائبل کے ایک بڑے عالم تھے۔ انھوں نے دوسرے فضلا کی مدد سے (۱۶۵۷ء تا ۱۶۶۵ء) میں سات مشرقی زبانوں میں بائبل کا ایک نسخہ مرتب کر کے شائع کیا جو ۶ مجلدات پر مشتمل تھا۔ والٹن صاحب ۱۶۶۰ء میں چیسٹر کے بشپ رہے۔

کے بعد وجود میں آیا۔ تاہم کوئی شخص بھی یہ نہیں بتا سکتا کہ وہ صحیح تاریخ کو نسی تھی جس کو اس کا ظہور ہوا۔ اس وقت ہم صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایسی مخلوق کے جو انسانی خیالات اور عمل کی حامل تھی ایسے باقیات دستیاب ہوئے ہیں جن کے زمانہ کا حساب لاکھوں سال میں لگایا جاسکتا ہے۔

قریبی تاریخ کا یہ تصور ماقبل تاریخی انسان کی طرف اشارہ کرتا ہے جس میں سے تھوڑے ہی عرصہ پہلے جس کی دریافت ہوئی ہے وہ کرومیگن نسل کا انسان ہے۔ فی الحقیقت دنیا بھر میں اور بھی کئی ایسی باقیات دستیاب ہوئی ہیں جن کا تعلق نوع انسانی سے ہے ان سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کم ترقی یافتہ انواع تھیں اور ان کا زمانہ کہیں لاکھوں سال پر محیط ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا وہ واقعی نوع بشر کہلائے جاسکتے ہیں؟

جواب کچھ بھی ہو، سائنسی اعداد کرومیگن نسل کے انسان کی طرح کی ماقبل تاریخی انواع کے سلسلہ میں بڑی حد تک صحیح ہیں اور اس دور سے جو کتاب پیدائش میں پہلے انسان کے لئے مقرر کیا گیا ہے۔ یہ اعداد زمانہ کو وسعت دے کر اس کا تعین بہت پہلے کرتے ہیں۔ لہذا اگر ارض پر ظہور آدم کے سلسلہ میں ہمیں کتاب پیدائش سے جو اعداد و شمار دستیاب ہوتے ہیں اور جدید سائنسی معلومات کے مسلمہ حقائق میں واضح اور بہت نمایاں نامطابقت ہے۔

طوفان عالمگیر

چھٹے، ساتویں اور آٹھویں ابواب کو طوفان عالمگیر کے تذکرے کے لئے وقف کیا گیا ہے۔ سچ پوچھئے تو یہ دو بیانات ہیں۔ لیکن ان کو برابر برابر نہیں رکھا گیا ہے بلکہ وہ پوری تحریر میں بکھرے ہوئے ہیں جہازوں کو آپس میں اس طرح ملا دیا گیا ہے کہ وہ مختلف حادثات کا ایک مربوط سلسلہ معلوم ہونے لگے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ان تین ابواب میں نہایت بھوٹے قسم کے تضادات ہیں۔ پھر اس کی وضاحت بھی دو قطعاً مختلف ماخذوں کو سامنے رکھ کر کرنی پڑتی ہے۔ وہ ماخذ ہیں ہیووی اور مرشدانہ تین۔

یہ بات پہلے ہی بتائی جا چکی ہے کہ وہ (ماخذ) مختلف النوع مواد سے متشکل ہوئے تھے۔ ہر ابتدائی متن پیروں یا فقروں میں بانٹ دیا گیا ہے۔ جس کی وجہ سے ایک ماخذ کے اجزاء یکے بعد دیگرے دوسرے کے اجزاء کے ساتھ مل گئے ہیں۔ یہاں تک کہ مکمل بیان کے دوران ہمیں انگریزی متن کی مشکل

لے کرومیگن، فرانس میں ایک کبھا (کھوہ) ہے۔ وہاں ۱۸۶۸ء میں ماقبل تاریخی انسان کی نسل کا ایک ڈھانچہ ملا تھا۔ اسی کی نسبت سے اس دور کے انسان کو کرومیگن نسل کا انسان کہا جانے لگا۔ ان انسانوں کے بارے میں قیاس کیا جاتا ہے کہ وہ آجکل کے انسان کے مقابلہ میں قد آور تھے۔ نیز ان میں کافی فنی مہارت تھی۔ مترجم

سے سو سطروں میں ایک ماخذ سے دوسرے ماخذ کی جانب سترہ مرتبہ لوٹنا پڑتا ہے۔
مجموعی طور پر کہانی اس طرح چلتی ہے۔

”انسان کی پیدائشی عالمگیر شکل اختیار کر گئی تھی۔ لہذا خداوند قدوس نے اس کو مع دیگر ذی روح مخلوقات کے فنا کر دینے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے حضرت نوحؑ کو اپنے اس فیصلہ سے مطلع کر دیا اور ان کو ایک ایسی کشتی بنانے کا حکم دیا جس میں وہ اپنی زوجہ، اپنے تین بیٹوں اور ان کی بیویوں مع دیگر ذی روح مخلوقات کے لے جاسکیں۔ مؤخر الذکر کے بارے میں دونوں ماخذوں میں اختلاف ہے۔ ایک تحریر مشدانہ کا بیان ہے کہ حضرت نوحؑ کو ہر نوع کا ایک ایک جوڑا لینا تھا۔ پھر اس عبارت میں جو اس کے بعد آئی ہے (یہودی) یہ بیان کیا جاتا ہے کہ خداوند کریم نے ان کو حکم دیا تھا کہ نام نہاں فاصل جانوروں کے انواع میں سے ہر ایک کے ساتھ تندر اور سات مادائیں اور غیر خالص اقسام میں سے صرف ایک جوڑا لیا جائے۔ لیکن آگے چل کر بیان کیا گیا ہے کہ حضرت نوحؑ نے حقیقتاً ہر جانور کا ایک ایک جوڑا لے لیا۔ ماہرین خصوصی مثل فادر دوو کا بیان ہے کہ عبارت زیر بحث یہودی بیان میں ایک نوع کا تصرف ہے۔

ایک عبارت (یہودی) میں طوفان کا سبب بارش کے پانی کو قرار دیا گیا ہے۔ لیکن دوسری عبارت (مشدانہ) میں طوفان کے دو اسباب بیان کئے گئے ہیں: بارش کا پانی اور پانی جو زمین سے اُبلتا۔ زمین پر اس قدر پانی ہو گیا کہ نہ صرف پہاڑوں کی چوٹیاں ڈوب گئیں بلکہ ان سے اوپر تک پانی چلا گیا۔ حیات کلیتہً فنا ہو گئی۔ ایک سال بعد جب پانی اتر گیا، حضرت نوحؑ کشتی سے جو کوہ اراراط سے جا لگی تھی باہر آئے۔

کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ جو ماخذ کام میں لایا گیا ہے اس کے مطابق طوفان کے جاری رہنے کی مدت مختلف ہے۔ یہودی متن کے مطابق یہ مدت چالیس دن ہے اور مشدانہ متن کے اعتبار سے ڈیڑھ سو دن قرار پائی ہے۔

یہودی متن سے ہمیں یہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ واقعہ حضرت نوحؑ کی زندگی میں کب رونما ہوا۔ لیکن مشدانہ متن سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت ان کی عمر چھ سو سال تھی۔ مؤخر الذکر سے ہی یہ معلومات بھی مہیا ہوتی ہے جو ان نسب ناموں کے ذیل میں درج ہے جہاں حضرت آدمؑ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ان کا رشتہ جوڑا گیا ہے۔ اگر ہم اس معلومات سے جو کتاب پیدائش میں درج ہے حساب لگائیں تو پتہ چلتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام حضرت آدمؑ سے ۱۰۵۶ سال بعد پیدا ہوئے (حضرت ابراہیمؑ کا شجرہ نسب ملاحظہ ہو) لہذا طوفان تخلیق آدمؑ کے ۱۶۵۶ سال بعد آیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالہ

سے کتاب پیدائش طوفان کا زمانہ ان نبی کی ولادت سے ۲۹۲ سال پہلے بتاتی ہے۔

کتاب پیدائش کے بموجب طوفان کی زد میں جملہ نبی نوع انسان آئی اور سطح ارض پر خدا کی پیدا کی ہوئی تمام ذمی روح مخلوق فنا ہو گئی۔ نسل انسانی کا آغاز پھر حضرت نوح علیہ السلام کے تین بیٹوں اور ان کی بیویوں سے ہوا۔ چنانچہ تقریباً تین صدیوں کے بعد حضرت ابراہیم کی ولادت ہوئی تو انہیں ایک ایسی نسل دکھائی دی جو پہلے ہی سے مختلف قوموں میں بٹی ہوئی تھی۔ اس قدر قلیل مدت میں یہ تنظیم کیسے وجود میں آگئی؟ یہ سادہ سا جائزہ اس واقعہ کو صحت سے کلیتہً معرثاً ثابت کر دیتا ہے۔

مزید برآں تاریخی مواد جدید معلومات سے اس کی نامطابقت کو ظاہر کر دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ ۱۸۰۰ اور ۱۸۵۰ ق۔م کے درمیان قرار دیا جاتا ہے اب اگر جیسا کہ کتاب پیدائش میں مندرج ناموں کے ذیل میں دیا گیا ہے۔ طوفان حضرت ابراہیم علیہ السلام سے تقریباً تین صدی پیشتر ظہور پذیر ہوا تو ہمیں اس کے زمانہ کا تعین ۲۱ سو سے ۲۲ سو ق۔م کے لگ بھگ کہیں کرنا ہوگا۔ جدید تاریخی معلومات سے یہ امر باریہ ثبوت کو پہنچ چکا ہے کہ اس وقت تمدن دنیا کے کئی حصوں میں پیدا ہو چکا تھا۔ چنانچہ اس کی باقیات آئندہ نسلوں کے لئے محفوظ رہ گئی ہیں۔

مثال کے طور پر مصر کو لے لیجئے۔ جو باقیات سلطنت وسطیٰ (۲۱۰۰ ق۔م) سے پہلے کے دور سے مطابقت رکھتی ہیں وہ تقریباً گیارہویں خاندان سے قبل کے عہد متوسط کے زمانہ کو ظاہر کرتی ہیں۔ سرزمین بابل میں یہ زمانہ اُر کے تیسرے خاندان کی حکومت کا تھا۔ یہ بات ہم یقین سے جانتے ہیں کہ ان تہذیبوں میں کوئی انقطاع واقع نہیں ہوا۔ لہذا ایسی کوئی تباہی رونما نہیں ہو سکتی تھی جو جملہ نبی نوع انسان کو متاثر کرتی جیسا کہ بابل سے ظاہر ہوتا ہے۔

بنا بریں ہم یہ خیال نہیں کر سکتے کہ بابل کے یہ تینوں بیانات انسان کو واقعات کا ایک ایسا خاکہ فراہم کرتے ہیں جو صداقت سے مطابقت رکھتا ہو۔ ہم یہ ماننے پر مجبور ہیں کہ اگر معروفی طریقہ پر جائزہ لیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ جو متون ہم تک پہنچے ہیں وہ حقیقت حال کو ظاہر نہیں کرتے ہم خود سے یہ سوال کر سکتے ہیں کہ کیا یہ ممکنات میں سے ہے کہ خدا صداقت کے علاوہ کوئی اور بات بھی ظاہر کرے۔ اس تصور کو ذہن میں جگہ دینا از بس مشکل ہے کہ خدا نے انسان کو ایسی باتیں سکھائیں جو من گھڑت ہونے کے ساتھ ساتھ متضاد بھی ہوں۔ لہذا ہم قدرتی طور پر یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ واقعات میں غلط بیانی کو کام میں لایا گیا ہے جس کی ذمہ داری خود انسان پر ہے یا پھر یہ بات ان روایات سے پیدا ہوئی ہے جو

اس علاقہ کے لئے زیادہ موزوں نام سمیریہ معلوم ہوتا ہے کیونکہ اس وقت تک بابل کی حیثیت بھی ایک شہری حکومت کی سی تھی اور اس نے ایسی وسعت حاصل نہیں کی تھی کہ یہ سارا علاقہ سرزمین بابل کہلایا جائے۔ (مترجم)

ایک نسل سے دوسری نسل کو زبانی منتقل ہوتی چلی آئی۔ یا پھر ان روایات کے ایسے متون سے نقل ہوتی رہیں جو کبھی تحریر کا جامہ پہن چکے تھے۔ جب کسی شخص کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ کتاب پیدائش جیسے صحیفہ میں تین صدیوں سے بھی کم مدت میں کم از کم دو مرتبہ تبدیلی کی گئی ہے تو ناممکن باتوں کو دیکھ کر یا ایسے بیانات کو پڑھ کر جو حقیقت سے مطابقت نہیں رکھتے۔ اُسے ذرا بھی حیرت نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ انسان کے علم میں جو ترقی ہوئی ہے اُس نے ہمیں اس قابل کر دیا ہے کہ اگر ہر بات کو نہیں تو کم از کم بعض واقعات کو ہم کافی حد تک جان گئے ہیں جس سے اپنی معلومات اور ان کے بارے میں قدیم بیانات کے مابین مطابقت کے درجہ کا تعین کر سکتے ہیں۔ اس سے زیادہ منطقی بات کوئی نہیں ہو سکتی کہ بائبل کے تسامحات کی اس تعبیر کو صحیح سمجھیں کیونکہ اس میں صرف انسان خود متہم گردانا جاتا ہے لیکن یہ انتہائی قابل افسوس بات ہے کہ شارحین و مفسرین کی اکثریت جن میں یہودی اور عیسائی دونوں شامل ہیں اس نقطہ نظر کو اختیار نہیں کرتے۔ اس کے باوجود جو دلائل وہ کام میں لاتے ہیں ان پر پوری طرح توجہ کرنے کی ضرورت ہے



ایک تنقیدی جائزہ

ان جمع شدہ تسامحات، ناممکنات اور تضادات کے وجود کے سلسلہ میں عیسائی مفسرین کا رد عمل جس رنگارنگی اور پوٹلمونی کا مظہر ہے وہ خود تہایت حیران کن ہے بعض مفسرین تو ان میں سے کچھ کو تسلیم کرتے ہیں اور ان پیچیدہ مسائل کو اپنی تحریروں میں سلجھانے کے لئے ہچکچاتے نہیں لیکن بعض وہ حضرات ہیں جو غیر تسلیم شدہ بیانات سے تو سرسری طور پر گزر جاتے ہیں اور متن کے لفظ لفظ کا دفاع کرنے میں کافی شدت برتتے ہیں مگر الذکر جماعت کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ معذرتی اندازہ بیان اختیار کر کے لوگوں کو مطمئن کر دے۔ ان کے بیانات میں ایسے دلائل کی بھرمار ہوتی ہے جو اکثر غیر متوقع ہوتے ہیں۔ یہ اس امید میں پیش کئے جاتے ہیں کہ جو بات منطقی اعتبار سے ناقابل قبول ہوگی وہ جلدی ہی ذہن سے فراموش ہو جائے گی۔

فادر دو۔ کتاب پیدائش کے ابتدائیہ میں تنقیدی دلائل کے وجود کو تسلیم کرتے ہیں اور ان کی معقولیت کی صراحت بھی کرتے ہیں۔ اس کے باوجود ان کے نزدیک ماضی کے واقعات کی معروضی طریقہ پر ترتیب نو ضروری نہیں ہے جیسا کہ وہ حواشی میں تحریر کرتے ہیں۔ یہ واقعہ کہ بائبل ”دجلہ اور فرات کی وادیوں کے ایک دو تباہ کن سیلابوں کے تذکرہ کو دہراتی ہے اور روایت اس کو ترقی دے کر ایک عالمگیر تباہی کی شکل دیدیتی ہے“ غیر اہم ہے۔ البتہ ضروری بات جو دیکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ لائق احترام مصنف نے اس یادگار میں انسان کے گناہ کے لئے خداوند قدوس کے عدل اور رحم اور دینداروں کے لئے نجات کی ابدی تعلیم کو سمودیا ہے۔

اس طریقہ سے ایک عوامی کہانی کو ایک دینی اور زبانی واقعہ کی شکل اختیار کرنے کے لئے جو از پیدا ہو جاتا ہے اور اس حیثیت سے روایت کو انسان کا عقیدہ بنا کر پیش کر دیا جاتا ہے۔ جس کے لئے اس اصول کو کام میں لایا جاتا ہے کہ فلاں مصنف نے اس واقعہ کو مذہبی تعلیمات کے لئے بیان کیا ہے اس نوع کا معذرتی نقطہ نظر اس آزادی کے لئے جو از پیدا کر دیتا ہے جو ان تحریروں میں اختیار کی گئی ہے جن کو مقدس اور خدا کا کلام سمجھا جاتا ہے۔ اگر الہامی اور ربانی باتوں میں انسان کی اس طرح کی مداخلت کو

جائزہ سمجھ لیا جائے تو بائبل کے متون میں انسانی تحریفات و تصرفات کے لئے توجیہات کر لی جائیں گی۔ اگر اس سے کچھ دینی مقاصد حاصل کرنا ہیں تب تو تمام تحریفات جائز ہو جاتی ہیں۔ چنانچہ ”مرشدانہ“ متن کے چھٹی صدی کے مصنفین کے تمام تصرفات کے لئے جواز نکل آتا ہے جن میں وہ ضابطہ پرست حسن ظن بھی شامل ہو جاتے ہیں جو ان فرضی بیانات کی شکل اختیار کر لیتے ہیں جو ہم پہلے دیکھ چکے ہیں۔

عیسائی شارحین و مفسرین کی ایک کثیر تعداد ایسی ہے جس نے بائبل کے بیانات میں رونما ہونے والی غلطیوں، ناممکن باتوں اور تضادات کی صراحت کرنے کے لئے یہ عذر پیش کرنا بہتر سمجھا کہ بائبل کے مصنفین نے ایک مختلف تہذیب یا ذہنیت کے معاشرتی عوامل کے مطابق اپنے خیالات کا اظہار کیا اسی سے انفرادی ”ادبی انداز“ کی تعریف وجود میں آئی جو شارحین و مفسرین کے دقیق مابعد الطبیعیاتی مسائل میں اختیار کیا گیا جس کی وجہ سے تمام مشکلات پیدا ہوئیں۔ جہاں دونوں متنوں میں کچھ تضادات دکھائی دیتے ہیں یہ صراحت کر دی گئی کہ ہر مصنف نے اپنے مخصوص ادبی انداز میں اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے اس لئے یہ فرق رونما ہو گیا۔ حقیقت میں یہ دلیل ایسی ہے جس کو ہر کوئی تسلیم نہیں کر سکتا کیونکہ اس میں کوئی وزن نہیں ہے۔ لیکن یہ طریقہ آج بھی کلیتہً متروک نہیں ہوا چنانچہ ہم دیکھیں گے کہ عہد نامہ جدید میں اناجیل کے شدید اختلافات کی توضیح و تشریح میں اس کو نہایت فراخ دلی سے برتنا گیا ہے۔

جب کسی متنازع فیہ عبارت کے متعلق کوئی ایسی بات کہنی ہو جو منطقی اعتبار سے مسترد ہو جائے تو اس کو قابل قبول بنانے کے لئے دوسرا طریقہ یہ کام میں لایا جاتا ہے کہ زیر غور عبارت کو معذرتی غور و نحو میں الجھا دیا جاتا ہے۔ قاری کی توجہ کو عبارت کے صداقت کے فیصلہ کن مسئلہ سے ہٹا کر دوسرے مسائل کی جانب موڑ دیا جاتا ہے۔

کارڈینال دینیو کے طوفان عالمگیر پر تاثرات میں بھی طرز اظہار اختیار کیا گیا ہے۔ یہ تاثرات ”زندہ خدا“ (خداے حئی و قیوم) کے ریویو میں ”طوفان عالمگیر، بپتسما، حشر،“ کے عنوان کے تحت ظاہر ہوئے ہیں وہاں وہ رقمطراز ہیں۔ ”کلیسا کی قدیم ترین روایت سے طوفان کے دینی تصور میں حضرت عیسیٰ اور کلیسا کی شبیہ دکھائی دیتی ہے“ یہ ایک بڑی اہمیت کا واقعہ ہے۔ . . . ”ایک ایسا فیصلہ جس سے تمام نسل انسانی متاثر ہوئی“ اپنے ”حزقیل کے خطبات“ میں نقل کر کے وہ بیان کرتے ہیں۔ ”پوری دنیا کے تباہ شدہ جہاز نے کشتی نوح میں امان پائی“ کارڈینال دینیو آٹھ کے عدد کی اہمیت پر زور دیتے ہیں جس سے ان افراد کی تعداد بتاتے ہیں جو کشتی نوح میں محفوظ رہے (یعنی حضرت نوح، آپ کی اہلیہ، تین فرزند اور ان کی بیویاں) وہ اپنے مکالمہ میں جسٹن کی تحریروں کو کام میں لاتے ہوئے رقمطراز ہیں۔ ”وہ اس آٹھویں دن کی علامت کو ظاہر کرتے ہیں۔ جب حضرت عیسیٰ مردوں کے درمیان

سے اٹھائے گئے؛ اور حضرت نوحؑ، ایک نئی مخلوق کے اولین مولد، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک عکس ہیں چنانچہ جس کام کو حضرت نوحؑ نے بطور تمثیل پیش کیا تھا وہ حضرت عیسیٰؑ کو بعد میں انجام دینا پڑا وہ ایک طرف حضرت نوحؑ کے جو لکڑی کی بنی ہوئی کشتی اور اس پانی سے جو اس کے تیرنے کا موجب بنا محفوظ رہے (طوفان کا پانی جس سے ایک نئی نسل انسانی وجود میں آئی) اور دوسری طرف لکڑی کی بنی ہوئی صلیب کے درمیان موازنہ کو جاری رکھتے ہیں۔ وہ اس علامتی انداز کی قدر و قیمت پر زور دیتے ہیں اور طوفان کے باطنی پہلو کی روحانی اور اعتقادی اہمیت کو بنیاد قرار دے کر بحث کو ختم کر دیتے ہیں۔

اس قسم کے معذرتی تقابل کے بارے میں کہنے کے لئے بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ ہمیں ہمیشہ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہ ایک ایسے واقع سے متعلق توضیح و تشریح ہے جس کی حقیقت و اصلیت کا دفاع ممکن نہیں نہ تو عالمگیر پیمانہ پر اور نہ اس زمانہ کے اعتبار سے جب بائبل کے بیان کے مطابق وہ رونما ہوا۔ اگر ہم کارڈینال دینیلو کی اس تشریح کو سامنے رکھیں تو ہم قرون وسطیٰ میں چاڑھتے ہیں۔ جہاں تین کو اسی طرح تسلیم کر لیا جاتا تھا اور کلیسا سے باہر کسی بحث کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔

اس کے باوجود یہ بات اطمینان بخش ہے کہ کلیسا کے اس غلبہ اور تسلط کے دور سے قبل نہایت شدید منطقی طرز عمل اختیار کیا گیا تھا۔ اس سلسلہ میں سینٹ اگسٹائن کے طرز عمل کا حوالہ دیا جاسکتا ہے جو نتیجہ تھا ان کے اس طرز فکر کا جو اس دور سے کہیں آگے تھا جس میں وہ زندگی گزار رہے تھے۔ ابتدائی پانچ صدیوں کے عیسائی مصنفین کے زمانہ میں تین پر تنقید کے مسائل کھڑے ہوئے۔ کیونکہ سینٹ اگسٹائن نے ان کو اپنے خط نمبر ۸۲ میں اٹھایا ہے۔ ان میں سے مندرجہ ذیل عبارت سب سے زیادہ مثالی ہے:

”صرف ان صحیفوں کے بارے میں جن کو مستند کہا گیا ہے مجھے یہ عقیدہ رکھنے کی تعلیم دی گئی کہ ان کے مصنفین نے ان کو لکھتے وقت کسی غلطی کا ارتکاب نہیں کیا۔ جب میں ان کتابوں میں بھی ایک ایسے بیان سے دوچار ہوتا ہوں جو حقیقت کی تردید کرتا، ہوا معلوم ہوتا ہے تو مجھے یہ سمجھنے میں کوئی شک و شبہ نہیں رہتا کہ یا تو میری کتاب کے نسخہ کا متن ناقص ہے یا مترجم نے اصل کی پوری پوری پیروی نہیں کی ہے اور یا میری فہم کا قصور ہے۔“

سینٹ اگسٹائن کے لئے یہ بات ناقابل تصور بھی ہے کہ کسی مقدس تحریر میں کوئی غلطی ہو۔ سینٹ اگسٹائن نے نہایت صفائی سے خطا سے مبرا ہونے کا یہ عقیدہ اس وقت پیش کیا جب ان

کے سامنے ایک ایسی عبارت آئی جو صداقت کی تردید کرتی ہوئی معلوم ہوتی تھی۔ انہوں نے اس کا سبب معلوم کرنے کی طرف توجہ کی لیکن اس میں سے خطائے بشری کے نظریہ کو خارج کر دیا۔ تنقیدی نظر رکھتے ہوئے بھی ایک عقیدتمند کا یہ طرز عمل ہوتا ہے۔ سینٹ اگسٹائن کے زمانہ میں بائبل کے متن اور سائنس کے درمیان مقابلہ کا کوئی امکان نہیں تھا۔ آجکل کا ان جیسا کشادہ دل انسان بائبل کے بعض متون کی سائنسی معلومات کے مقابلہ میں پیدا ہونے والی بہت سی مشکلات کو حذف کر دیتا ہے۔

اس کے برعکس آجکل کے ماہرین خصوصی، بائبل کے متن کو کسی غلطی کے الزام سے بچانے کے لئے بڑی مشقت برداشت کرتے ہیں۔ چنانچہ فادر و اپنے مقالہ ”کتاب پیدائش کے افتتاحیہ“ میں ان اسباب کی صراحت کرتے ہیں جو انہیں متن کے دفاع پر مجبور کرتے ہیں خواہ وہ تاریخی یا سائنسی اعتبار سے قطعی طور پر ناقابل قبول ہو۔ وہ یہیں بتاتے ہیں کہ بائبل کی تاریخ کو یوں نہ دیکھئے ”جس طرح کہ مطالعہ تاریخ کے اصولوں کو آجکل کے لوگ برتتے ہیں“ گویا تاریخ نویسی کے بہت سے مختلف طریقوں کا امکان بھی ہو سکتا ہے۔ تاریخ (جیسا کہ ہر شخص تسلیم کرے گا) جب غلط طریقہ پر بیان کی جاتی ہے تو وہ ایک تاریخی ناول کا روپ اختیار کر لیتی ہے۔ لیکن یہاں ان معیاروں کو کام میں نہیں لایا جاتا جو ہمارے تصورات کے مطابق قائم کئے گئے ہیں۔ بائبل کے شارحین بائبل کے بیانات کی کسی تصدیق کو مسترد کر دیتے ہیں جو علم الارض علم رکاز یا ماقبل تاریخ کے فراہم کردہ مواد کی بنیاد پر پیش کی جاتی ہے۔ ”بائبل ان بیانات میں سے کسی کے لئے جواب نہیں ہے۔ اور اگر کوئی شخص اس کو اس مواد کے مقابلہ میں لائے جو ان سائنسوں سے حاصل ہوتا ہے تو وہ ایک غیر حقیقی مخالفت کی جانب لے جائے گا یا ایک مصنوعی قسم کی مناسبت کی طرف راہنمائی کرے گا۔ یہ کہا جاسکتا ہے کہ یہ تاثرات کتاب پیدائش میں ایسی بنیاد پر قائم کئے جاتے ہیں جو جدید سائنسی مواد کے ساتھ کسی طرح بھی ہم آہنگ نہیں ہے۔ اس معاملہ میں پہلے گیارہ ابواب ہیں لیکن جب دور جدید میں چند بیانات کی مکمل طور پر تصدیق کی جائے۔ مثال کے طور پر بیہوں کے دور کے بعض واقعات، تو مصنف موجودہ معلومات کے معاملہ میں بائبل کی صداقت کی حمایت کرنے سے نہیں چو کے گا۔ ان بیانات پر جو شبہ وارد ہو اس کو اس موافق شہادت سے دور کر دیتا چاہئے جو تاریخ اور مشرقی اثریات فراہم کرتی ہیں۔“ بالفاظ دیگر اگر سائنس، بائبل کے بیان کی توثیق کرتے ہیں مفید ثابت ہوتی ہے تو اس کی شہادت کو مان لیا جائے لیکن اگر یہ مؤخر الذکر کو باطل قرار دیتی ہے تو پھر اس حوالے کی ضرورت اور اجازت نہیں ہے۔

تیسری امور کے درمیان توافق پیدا کرنا۔ یعنی بعض غلط قسم کے واقعات جو عہد نامہ قدیم کے بیانات

میں پیش کئے گئے ہیں ان کے ساتھ بائبل کی صداقت کے نظریہ کو ہم آہنگ کرنے کے لئے دور جدید کے ماہرین دینیات نے صداقت کے کلاسیکی تصورات کو بدلنے پر اپنی کوششوں کو لگا دیا ہے۔ یہ بات اس کتاب کی حدود سے باہر ہے کہ ان خیالات کی حقیقت کو تفصیل سے بیان کیا جائے جو ایسی کتابوں میں پوری تفصیل اور وضاحت سے بیان کر دی گئی ہے۔ جن میں بائبل کی صداقت ہی سے بحث کی گئی ہے۔ مثلاً او۔ لورٹیز کی کتاب (۱۹۷۲ء) بائبل کی صداقت کیا ہے؟ (کیل لے لاویریتے دلا بائبل) سائنس سے متعلق یہ فیصلہ کافی وشافی ہوگا۔

مصنف کا کہنا ہے کہ دوسری ویلیکن کونسل نے "بائبل کے تسامح اور صداقت کے درمیان امتیاز کرنے کے لئے اصولی قواعد وضع کرنے سے احتراز کیا ہے۔ بنیادی غور و تامل سے اس بات کا اظہار ہوتا ہے کہ یہ امر ناممکن ہے کیونکہ کلیسا صداقت یا سائنسی طریقوں کا اس طور پر تعین نہیں کر سکتا کہ وہ اصولی طور پر یا ایک عمومی سطح پر صحیفوں کی صداقت کے سوال کو طے کر دے۔" یہ بات واضح ہے کہ کلیسا اس حالت میں نہیں ہے کہ وہ سائنسی طریقہ کی قدر و قیمت کا اعلان حصول علم کے ذریعہ کی حیثیت سے کرے۔ یہاں مسئلہ قطعاً مختلف ہے۔ یہ نظریات کا سوال نہیں ہے بلکہ مسلمہ طور پر ثابت شدہ حقائق کا ہے۔ ہمارے زمانہ اور عہد میں یہ بات جاننے کے لئے متبحر عالم ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ دنیا کی تخلیق ۳۷ یا ۳۸ صدی قبل مسیح تھی۔ یہیں معلوم ہے کہ انسان کا ظہور اُس وقت نہیں ہوا تھا اور بائبل کے نسب نامے جن پر اس اندازے اور تخمینہ کا انحصار ہے بغیر کسی شک و شبہ کے غلط ثابت ہو گئے ہیں۔ جس مصنف کا یہاں حوالہ دیا گیا ہے وہ اس سے باخبر ہے۔ سائنس پر اس کے بیانات صرف مسئلہ کو بتاتے وقت ضمناً آگئے ہیں اس لئے وہ اس سے اس طور پر بحث نہیں کرتا جس طرح کہ اس کو کرنا چاہیے۔

ان مختلف قسم کے طرز عمل کی طرف توجہ مبذول کرانے کا کام جو عیسائی مصنفین اُس وقت کرتے رہے جب انھیں بائبل کے متون میں تمام سائنسی اعلیٰ طے سے سابقہ پڑا اس بے چینی و اطمینانی کی ایک اچھی مثال ہے جو ان میں پیدا ہوئی ہے ان کو انسانی اختراع سمجھنے کے سوا کوئی منطقی استدلال قائم کرنا ناممکن ہے اور یہ بات بھی محال ہے کہ ان کو الہام کا کوئی جز مانا جائے۔

وہ بے اطمینانی جو عیسائی حلقوں میں وحی کے بارے میں پائی جاتی ہے دوسری ویلیکن کونسل کے موقع پر (۱۹۶۲-۱۹۶۵) واضح ہو گئی تھی جہاں اس کے کم از کم پانچ مسودے پیش ہوئے بیشتر اس کے کہ تین سال کی بحث و تمحیص کے بعد آخری متن پر اتفاق ہوا۔ یہ بھی اس وقت ہوا کہ "یہ تکلیف دہ

۱۵ مطبوعہ سینٹوریوں۔ پاری (پیرس)۔

کینیت جو کونسل میں ایک رخصت پیدا کرنے کا خطرہ بن رہی تھی، اختتام کو پہنچی۔ یہ وہ عبارت ہے جو ڈپوک دیبر نے الہام کے موضوع پر کلیسائی دستاویز نمبر ۴ کے ابتدائیہ میں استعمال کی تھی۔
 عہد نامہ قدیم سے متعلق اس دستاویز کے دو جملے (باب چہارم صفحہ ۵۳) بعض متون کے ادھورے اور ان کے متروک ہونے کو اس طریقے سے بیان کرتے ہیں کہ ان پر دو قدرح نہیں کی جاسکتی۔
 ”حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نجات پانے سے قبل نوع انسانی کی جو کیفیت تھی اس کے پیش نظر عہد نامہ قدیم کے صحیفوں سے ہر شخص کو یہ جاننے میں مدد ملتی ہے کہ خدا کون ہے اور انسان کون ہے اور ان سے وہ طریقہ بھی معلوم ہو جاتا ہے جس طریقہ سے خداوند کریم اپنے عدل اور رحمت سے انسانوں کے ساتھ سلوک کرتا ہے۔ یہ صحیفے باوجودیکہ ان میں ناقص اور متروک مواد شامل ہے پھر بھی وہ حقیقی طور پر ربانی تعلیمات کی شہادت پیش کرتے ہیں۔“

جس بیان میں متون کے بعض حصوں کے لئے ناقص اور متروک کی صفتیں استعمال کی گئی ہیں۔ اس سے بہتر بیان اس بات کے بتانے کے لئے کوئی نہیں ہو سکتا کہ مؤخر الذکر پر تنقید کرنے کا دروازہ کھلا ہوا ہے اور یہ کہ ان حصوں کو ترک بھی کیا جاسکتا ہے۔ گویا اس اصول کو صاف طور پر بیان لیا گیا ہے۔ یہ عبارت ایک عام اعلان کا جز ہے جو چھپنے کے مقابلوں میں ۲۳۶۶ دوٹوں سے فیصلہ کن طور پر نافذ کر دیا گیا تھا۔ پھر بھی اس کے تقریباً مکمل طور پر اتفاق رائے ہونے پر سوال کیا جاسکتا ہے حقیقت یہ ہے کہ اس سرکاری دستاویز کی جس پر ڈپوک و سپرنے دستخط کئے تھے تشریحات میں خصوصیت سے ایک فقرہ ایسا ہے جو بعض متون کے متروک ہونے سے متعلق کونسل کے باضابطہ تصدیق نامہ کی صاف صاف لفظوں میں تصحیح کرتا ہے: ”یہودی بائبل کے بعض صحیفے ایسے ہیں جو عارضی نوعیت کے ہیں اور ان میں کچھ ناقص حصہ ہے!“

”متروک“؛ کا لفظ جو سرکاری اعلان میں استعمال ہوتا ہے مشکل سے شارح کے استعمال کئے ہوئے فقرے ”عارضی نوعیت“ کی مترادف ہو سکتا ہے جہاں تک یہودی کی صفت کا تعلق ہے جو مؤخر الذکر نے حیرت خیز طریقے سے ایزا کی ہے اس سے اس بات کا اشارہ ملتا ہے کہ ”کلیسائی دستاویز“ نے صرف عبرانی متن پر تنقید کی ہے۔ معاملہ صرف اس حد تک نہیں ہے، حقیقت یہ ہے کہ کونسل میں تنہا عیسائی عہد نامہ قدیم تھا۔ جس پر فیصلہ ہوا اور جس کے بعض حصوں کو ناقص اور متروک قرار دیا گیا۔



اختتامیہ


بائبل کے صحیفوں کا جائزہ اس طرح لینا چاہیے کہ مصنوعی طور پر ان کو ایسی خوبیوں سے جو کسی کے خیال و گمان کے مطابق ان میں ہوتی چاہیے تھیں منصف نہ کیا جائے۔ ان کو معروضی طور پر اسی رنگ میں دیکھنا چاہیے جیسے وہ ہیں۔ اس بات کا اطلاق محض ان کے متون کی واقفیت پر ہی نہیں ہوتا۔ مؤخر الذکر سے ان حالات کے بارے میں بھی رائے قائم کرنا ممکن ہوگا جن کی بدولت کئی صدیوں تک متن میں رد و بدل ہوتی رہی۔ اور بے شمار حک و افسانہ جات کے ساتھ اس وقت جو مجموعہ ہمارے پاس موجود ہے۔ تدریج اس کی تشکیل ہوئی۔

متذکرہ بالا بیان سے یہ یقین کرنا عین ممکن ہے کہ عہد نامہ قدیم میں ایک ہی بیان کے مختلف طرق ہیں۔ نیز ان میں تضادات تاریخی تصامحات، ناممکن باتیں اور مسلمہ سائنسی معلومات کے خلاف بیانات شامل ہو سکتے ہیں۔ جن کاموں کو اس قدر طویل مدت تک انسانوں نے انجام دیا ہو ان میں اس قسم کی باتوں کا صدور بالکل قدرتی امر ہے۔ جن حالات میں بائبل کا متن ترتیب دیا گیا ہے ان حالات میں جو کتابیں بھی لکھی جائیں ان میں لازماً یہی باتیں ہوں گی۔

کسی ایسے زمانہ میں کہ ہنوز سائنسی نوعیت کے سوالات کرنا ممکن نہیں تھا اور ناممکن باتوں یا تضادات کو دیکھ کر ہی کوئی فیہ کہہ لیا جاسکتا تھا۔ ایک صحیح الحس انسان جیسے سینٹ اگسٹائن نے اس بات پر غور کیا کہ خداوند کریم انسان کو ایسی باتیں کیسے سکھا سکتا ہے جو حقیقت و اصلیت سے مطابقت نہ رکھتی ہوں۔ اسی بنا پر انھوں نے یہ اصول پیش کیا کہ جو بیان صداقت کے خلاف ہو اس کا ریانی اور الہامی ہونا ممکن نہیں۔ اور اسی وجہ سے جو چیز بھی ان کو خارج کر دیے جانے کے قابل محسوس ہوئی اس کو وہ تمام مقدس صحیفوں سے نکال دینے پر آمادہ تھے۔

بعد میں ایک زمانہ ایسا آیا کہ بائبل کے بعض بیانات کی جدید معلومات سے بغیر آہنگی کو لوگوں نے محسوس تو کر لیا لیکن انھوں نے اس طرز عمل کو اختیار نہیں کیا۔ پھر اس اصول کو نہ مانتے پر اس درجہ اصرار ہے کہ صرف اس غرض سے نہایت وسیع لٹریچر تخلیق کیا جا رہا ہے کہ تمام مخالفت کے علی الرغم اس بات کو حق بجانب ثابت کیا جائے کہ جن عبارتوں کے بائبل میں قائم رکھنے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔

وہ صحیح بنا کر قائم رکھی گئی ہیں۔
 دوسری ٹیکنیک کونسل ۱۹۶۲ء - ۱۹۶۵ء نے "عہد نامہ قدیم کی ان کتابوں" کے متعلق جن
 میں ناقص اور متروک قسم کا مواد شامل ہے "حق مخصوص" کا اصول وضع کر کے عظیم مفاہمت کو بہت کم
 کر دیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ محض ایک نیک تمنا ہو کر رہ جائے گی یا اس پر بائبل کی کتابوں
 میں شامل اس مواد میں تبدیلی کی طرف قدم بڑھایا جائے جو اس بیسویں صدی میں قابل قبول نہیں
 ہے۔ حقیقی طور پر سوائے ان تحریفات کے جو انسانوں نے کی ہیں مؤخر الذکر (بائبل کے صحیفوں) کا
 مقصد اس تعلیم و ہدایت کو پیش کرنا ہے جو منزل من اللہ ہے۔



باب اول

اناجیل (اول)

ابتدائیہ

اناجیل کے بہت سے قاری جب بعض بیانات کے معنی و مفہوم پر غور و تامل سے کام لیتے ہیں تو وہ نہ صرف پریشان و ششدر رہ جاتے ہیں بلکہ منفعل و خجل بھی ہوتے ہیں۔ یہی بات اُس وقت بھی صادق آتی ہے جب وہ مختلف اناجیل میں ایک ہی واقعہ کی مختلف روایتوں کے درمیان مقابلہ کرتے ہیں۔ قادر روگے نے بھی اپنی کتاب ”اناجیل کا تعارف“، (انی سیاسیوں ایوانٹریبل) میں یہی خیال ظاہر کیا ہے۔ جب اٹھیں ”کیتھولک مذہب کے ایک ہفت روزہ“ پر چھ مئی کئی سال تک پریشان خیال قارئین کے سوالوں کے جوابات دینے پڑے تو اٹھیں اس بات کا وسیع تجربہ اور صحیح اندازہ کرنے کا موقع ملا کہ جو کچھ ان قارئین نے پڑھا اس سے وُکس درجہ پریشان ہیں۔ اُن سے سوالات کرنے والوں کا تعلق نہایت وسیع معاشرتی اور تہذیبی حلقوں سے ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ توضیح و تشریح کے لئے ان کی درخواستوں کا تعلق ایسی عبارتوں سے ہے جو دقیق۔ ناقابل فہم خیال کی جاتی ہیں اُن سے نہیں جو مفہوم۔ نامعقول یا اہانت آمیز ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر اناجیل کا مکمل طور پر مطالعہ کیا جائے تو وہ عیسائیوں کو بدرجہ فائت انتشار میں مبتلا کر دے۔

یہ رائے حال ہی کی ہے۔ قادر روگے کی کتاب ۱۹۷۳ء میں شائع ہوئی تھی۔ کچھ بہت زیادہ عرصہ نہیں ہوا جب عیسائیوں کی بڑی تعداد ایسی تھی جس کو اناجیل کے محض منتخب حصوں سے واقفیت تھی اور یہ حصے بھی وہ ہوتے تھے جو مواظظ کے دوران پڑھے جاتے تھے یا اُن پر تنقید کی جاتی تھی پروٹیسٹنٹوں کے ماسوا، اناجیل کا پورے طور پر مطالعہ کرنے کا رواج عیسائیوں میں نہیں تھا۔ دینی تعلیمات سے متعلق کتابوں میں صرف اقتباسات ہوتے تھے۔ مفصل طور سے متن مشکل ہی عوام تک پہنچتا تھا۔ ایک رومن کیتھولک اسکول میں میں تے درجیل اور افلاطون کی تصانیف کے نسخے تو دیکھے تھے لیکن عمد نامہ جدید مجھے وہاں نہیں ملا۔ اس کے باوجود یونانی متن بیحد مفید ہوتا ہے۔ یہ بات مجھے بہت بعد میں محسوس ہوئی کہ ہمارے لئے عیسائیت کی مقدس تحریروں کے تراجم کیوں نہیں کئے گئے۔

۱۹۷۳ء مطبوعہ۔ سیوں کے ایڈیشن۔ پیرس ۱۹۷۳ء

اس سے یہ ہوتا کہ ان ترجموں کو پڑھ کر ہم اپنے معلوموں سے ایسے سوالات کر بیٹھتے جن کے جواب دینے سے وہ قاصر رہتے۔

اگر کسی نے اناجیل کے مطالعہ کے دوران اس پر تنقیدی نظر ڈالی ہے تو اس کے نتیجہ میں جو تحقیقات کی جائیں ان کے لئے کلیسا قارئین کی اس طرح مدد کرتا ہے کہ وہ ان کی حیرت پر غلبہ پا جائے۔

فادر روگے کا بیان ہے کہ بہت سے عیسائی ایسے ہیں جن کو اناجیل کے مطالعہ کا طریقہ سیکھنے کی ضرورت ہے۔ وہ جو تشریحات کرتے ہیں ان سے خواہ کسی کو اتفاق ہو یا نہ ہوتا ہم اس سے مصنف کو یہ فائدہ ضرور مل جاتا ہے کہ وہ حقیقی طور پر ان نازک مسائل کو حل کر لیتا ہے۔ عیسائی مذہب سے متعلق وحی پر جو تحریریں ہیں ان میں سے بہت سی ایسی ہیں جن کے ساتھ ہمیشہ یہ معاملہ نہیں ہوتا۔

بائبل کے جو ایڈیشن کثیرا شاعت کے لئے نکالے جاتے ہیں ان میں تمہیدی نوٹ اکثر ایسے خیالات کا مجموعہ ہوتے ہیں جن سے قاری کو یہ تاثر ملتا ہے کہ اناجیل مختلف کتابوں کے مصنفین کی شخصیتوں کے بارے میں متون کے مہدفہ ہونے کے سلسلہ میں یا بیان کی صحت و صداقت کے متعلق مشکل ہی سے کوئی مسئلہ اٹھاتی ہیں۔ اس حقیقت کے باوصف کو مصنفین کے بارے میں جن کی شخصیت کا ہمیں قطعاً کوئی یقینی علم نہیں ہے اور جن میں سے بہت سے نامعلوم ہیں پھر بھی اس قسم کے تمہیدی نوٹوں میں بہت سی صحیح معلومات مل جاتی ہے۔ اکثر وہ ایسی بات کو جو خالص مفروضہ ہوتی ہے یقین کا درجہ دے کر پیش کرتے ہیں یا ان کا بیان ہوتا ہے کہ فلاں مبلغ انجیل ان واقعات کے حتم دید گواہ ہیں جبکہ خصوصی تحریریں اس کا الٹ پیش کرتی ہیں جو مدت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کے اختتام اور متون کے منصفہ شہود پر آنے کے مابین پڑتی ہے اس کو نہایت مبالغہ غیر طریقہ پر مختصر کر دیا جاتا ہے۔ وہ یہ یقین دلاتے ہیں کہ ان کو ایک ایسے شخص نے تحریر کیا تھا جس کو وہ روایت زبانی ملی تھی۔ جبکہ حقیقت میں ماہرین خصوصی نے متون میں تحریفیات و تصرفات کی نشان دہی کی ہے بیشک کہیں کہیں توضیح و تشریح کی بعض مشکلات کا ذکر کیا گیا ہے لیکن جہاں ایسے واضح تضادات ہوتے ہیں جن کو کوئی بھی ایسا شخص محسوس کر لیتا ہے جو ذرا غور و فکر سے کام لیتا ہے وہاں بھی وہ نہایت قطعیت سے گفتگو کرتے ہیں۔ ان مختصر فرہنگوں میں جو ایک اطمینان بخش دیباچہ کے تکمیلی ضمیمہ جات میں ملتی ہیں یہ بات دکھاتی دے جاتی ہے کہ ناممکنات، تضادات یا نہایت واضح اغلاط کو کس خوبصورتی سے چھپایا گیا ہے یا ایک معذرت خواہانہ قسم کے دلائل میں ہوشیاری سے چھپا دیا گیا ہے ان الجھن میں ڈالنے والے امور سے ایسی تفاسیر کی گمراہ کن نوعیت کا اندازہ ہو جاتا ہے۔

آئندہ صفحات میں جو خیالات پیش کئے جا رہے ہیں وہ بے شبہ ان قارئین کو جو ہنوز ان مسائل سے

تا واقف ہیں ورنہ حیرت میں ڈال دیں گے۔ لیکن تفصیل میں جانے سے پیشتر میں اپنے خیالات کی قریب القوم تشریح ایک ایسی مثال سے پیش کرتا ہوں جو مجھے قطعاً تصفیہ کن معلوم ہوتی ہے۔

نہ متی نے اور نہ یوحنا نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھاتے جانے کا ذکر کیا ہے۔ لوتھانے اپنی انجیل میں اُس کا تعین روز محشر کے لئے کیا ہے اور رسولوں کے اعمال "میں جس کا انھیں مصنف کہا جاتا ہے اُس کو چالیس دن بعد کا وقوع قرار دیا ہے۔ مرقس (تاریخ کا تعین کئے بغیر) ایک ایسے اختتامیہ میں اُس کا تذکرہ کرتا ہے جو آج غیر مستند سمجھا جاتا ہے لہذا رفع مسیح کی الہامی اعتبار سے کوئی ٹھوس بنیاد نہیں ہے۔ شارحین اس کے باوجود اس اہم مسئلہ سے حیرت انگیز طور پر نہایت سرسری طریقہ سے گذر جاتے ہیں۔

اے۔ ٹرائی کوٹ اپنی تصنیف "ہمد نامہ جدید کی مختصر لغت" میں تپینی و کیونیر ڈونواوے تیتاماں (جو کہ مین بائبل ۱۹۶۰ء کے ایڈیشن میں شامل ہے اور جو عام اشاعت کے لئے نکالی گئی ہے) "رفع مسیح" کے لئے کوئی اندراج نہیں کرتے۔ اناجیل اربعہ کا خلاصہ (سنولیس وے کیتراوانٹریل) مصنفہ فادرس بنولے اور لوامار جویروشلم کے بائبلک اسکول میں مدرس ہیں (۱۹۷۲ء کے ایڈیشن) جلد دوم صفحات ۴۵۱ اور ۴۵۲ پر اس امر سے آگاہ کرتے ہیں کہ لوتھانے انجیل اور رسولوں کے اعمال میں جو تضاد ہے اُس کی تشریح ایک ادنیٰ ترکیب کو کام میں لا کر کی جاسکتی ہے: کم سے کم جو بات کہی جاسکتی ہے وہ یہ کہ اُس کو سمجھنا مشکل ہے۔"

نتیجہً وفادر روگے اپنی تصنیف "انجیل کا ابتدائیہ" ۱۹۷۳ء میں (صفحہ ۱۸۷) مذکورہ بالا دلیل سے مطمئن نہیں ہو سکے۔ وہ جو توضیح و تشریح پیش کرتے ہیں وہ عجیب و غریب ہے۔

یہاں جیسا کہ اسی طرح کے دیگر معاملات میں ہوتا ہے مسئلہ ناقابل فہم ہو جاتا ہے کہ بائبل کے بیانات کو حقیقی معنوں میں لیا جائے اور ان کی دینی اہمیت کو فراموش کر دیا جائے۔ یہ ایک واقعاتی صداقت کو ایسی علامت کی شکل میں تحلیل کرنے کا معاملہ نہیں ہے جو بے میل ہے بلکہ ان دینی مقاصد کو تلاش کرنا ہے جو ان راز ہائے سرسبہ کو ایسے حقائق فراہم کر کے ہم پر منکشف کرتے ہیں جن کو ہم اپنے احساسات اور ایسی علامات سے سمجھ لیتے ہیں جو ہماری روح مجسم کے لئے ہوزون وضاحت ہیں۔ اس قسم کی تاویلات سے مطمئن ہونا کیسے ممکن ہے۔ صرف وہی شخص جس نے ہر بات کو بے چون و چرا تسلیم کر لیا ہے اس طرح معذرت آمیز گھڑے گھڑاتے فقروں کو قبول کر سکتا ہے۔

فادر روگے کی تفسیر کا ایک اور دلچسپ پہلو ان کا یہ اقرار ہے کہ "اسی طرح کے اور بہت سے معاملات ہیں۔ یعنی جیسا کہ اناجیل میں رفع مسیح کا معاملہ۔ لہذا اس مسئلہ کو معروضی طریقے سے اور گہرائی

میں اتر کر بحیثیت مجموعی لینا ہے یہ بات معمولی معلوم ہوتی ہے کہ اناجیل کی تحریر کے موقع پر جو حالات تھے یا اُس زمانہ میں جو مذہبی فضا چھائی ہوئی تھی اس کا مطالعہ کر کے اس کی تشریح و توضیح کی جائے۔ جب زبانی روایات سے اخذ شدہ ابتدائی تحریرات میں تحریف کی جانب اشارہ کیا جاتا ہے اور ہمیں اُس طریقہ کا پتہ چلتا ہے جس طریقہ سے وہ متون جو ہم تک پہنچے ہیں ان میں تصرف کیا گیا ہے۔ تو مبہم، ناقابل فہم، متضاد، ناممکن اور یہاں تک کہ نامعقول عباراتوں پر ہمیں زیادہ حیرت نہیں ہوتی۔ یہی بات ان متون کے بارے میں کہی جاسکتی ہے جو آجکل کی ثابت شدہ حقیقتوں سے مطابقت نہیں رکھتے ان حقائق کے لئے ہم سائنسی ترقی کے مرہون منت ہیں۔ اس نوع کے مشاہدات اس عنصر کی نشان دہی کرتے ہیں جو متون کی تحریر اور ترمیم میں انسان کی شرکت سے شامل ہو گیا ہے۔

گذشتہ چندہ سالوں میں صحیفوں پر معروضی نوعیت کی تحقیق مسلحہ طور پر خصوصی توجہ کا مرکز رہی ہے۔ حال ہی کی ایک کتاب "قیامت بر عقیدہ، عقیدہ کا یوم نشور"۔ (فوائین لاریسرس کیسوں ریسرکسیوں ولا فوائین) میں فادر کینن ٹری ایسے جو پیرس کے ایک کیتھولک ادارے کے پروفیسر میں اس زبردست تبدیلی کو حسب ذیل الفاظ میں پیش کرتے ہیں۔ "دیندار لوگ مشکل سے اس امر سے واقف ہیں کہ بائبل دوازدہم کے زمانہ سے بائبل کی تاویلات کے طریقوں میں ایک انقلاب رونما ہو چکا ہے" لہذا جس انقلاب کا تذکرہ مصنف موصوف کرتے ہیں وہ حال ہی کا ہے دیندار لوگوں میں اس کی تعلیم کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ کم از کم وہ چند ماہرین خصوصی اس پر عملدرآمد کر رہے جو انقلاب کی روح سے سرشار ہیں۔ "مصنف موصوف رقمطراز ہیں" استغنی روایت کے انتہائی یقینی پہلوؤں کی تسبیح اس انقلاب سے تاویل کے ان طریقوں میں کم و بیش شروع ہو گئی ہے۔"

فادر کینن ٹری ایسے اس بات پر متنبہ کرتے ہیں کہ "اناجیل میں حضرت یسوع مسیح کے متعلق جو واقعات بیان کئے جاتے ہیں ان کو لفظی طور پر نہیں لیتا چاہیے کیونکہ وہ کسی خاص موقع یا مناظرے سے مناسبت رکھنے والی تحریریں ہیں جن کے مصنفین حضرت عیسیٰ کے بارے میں اپنی قومی روایات کو ضبط تحریر میں لارہے ہیں۔ جہاں تک کہ حضرت عیسیٰ کے قبر سے اٹھانے جانے کا تعلق ہے جو اس کتاب کا موضوع ہے اس کے سلسلہ میں وہ اس بات پر زور دیتے ہیں کہ اناجیل کے مصنفین میں سے کوئی بھی اس واقعہ کا بغیبی شاہد نہیں ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ جہاں تک حضرت عیسیٰ کی قومی زندگی

۱۵ اصل نام "یوگنیو پیچیلے" ہے۔ ان کی ولادت ۱۸۷۶ء میں روم میں ہوئی ۱۹۱۷ء سے ۱۹۲۰ء تک یویریا اور جرمینی میں پوپ کے مفسر رہے۔ ۱۹۱۷ء میں سارڈی کے آرچ بشپ بنائے گئے۔ ۱۹۲۹ء میں کارڈنیل ہوئے۔ ۱۹۳۲ء سے ۱۹۳۸ء تک پاپائیت کے مختلف مشنوں پر بھیجے گئے۔ ۱۹۳۹-۱۹۴۰ء اسقف اعظم کے سیکرٹری اور ۱۹۳۹ء تا ۱۹۵۸ء پاپا اعظم رہے ۱۹۵۸ء میں فوت ہوئے۔ (مترجمہ)

کا تعلق ہے یہی بات صحیح ہونی چاہیے کیونکہ انابیل کے مطابق یہودہ اس کرپوتی کے سوا کوئی بھی حواری
ایسا نہیں تھا جس نے حضرت عیسیٰ کو اُس وقت سے جب وہ پہلے پہل آپ کی صحبت میں داخل ہوا
آپ کے عالم آپ وگل میں آخری ظہور کے وقت تک چھوڑا ہو۔

ہم اس روایتی حالت سے بہت دور ہٹ گئے ہیں جس کو دس سال کی ہی تو بات ہے جب
دوسری وٹیکن کونسل نے ایک بار پھر باضابطہ طور پر تسلیم کیا تھا۔ یہ بات عام ترویج کی ان جدید
کتا یوں کے ذریعہ سے پھر شروع کی جا رہی ہے جو مذہب کے ماننے والوں کے مطالعہ کے لئے مکھی
گئی ہیں۔ بہر حال رفتہ رفتہ حقیقت سامنے آرہی ہے۔

اس معاملہ کو سمجھ لینا آسان نہیں ہے کیونکہ فی الحقیقت اس قدر سختی سے محفوظ کی ہوئی روایت کا
وزن بہت زیادہ ہوتا ہے خود کو اس سے آزاد کرنے کے لئے ضروری ہے کہ مسئلہ کی بحر بنیاد کو کھودا جائے
یعنی پہلے اُن حالات کا جائزہ لیا جائے جو عیسائیت کی تخلیق کا موجب ہوئے۔



تاریخی یاد دہانی

یہودی عیسائیت

اور سینٹ پال

عیسائیوں کی اکثریت اس بات پر یقین رکھتی ہے کہ اناجیل براہ راست ان لوگوں نے لکھی تھیں جو حضرت عیسیٰ کی حیات کے عینی شاہد تھے اور اس لئے وہ ان کی زندگی اور تعلیمات کے اہم واقعات سے متعلق ناقابل تردید شہادت پر مشتمل ہیں۔ اس قدر استناد کی یقین دہانیوں کی موجودگی میں اس امکان پر اتنی حیرت ہوتی ہے۔ جب ان پر انخوش شدہ تعلیمات پر بحث کرنے یا کلیسا کی معقولیت پر اس لحاظ سے شبہ کا اظہار کرنے میں پیدا ہوتا ہے کہ یہ وہی تعلیم دینے والا ادارہ ہے جو یسوع مسیح نے خود ہی تھی آجکل کے اناجیل کے عام ایڈیشنوں میں وہ تشریحات شامل ہوتی ہیں۔ جن کا مقصد عوام الناس میں ان خیالات کی اشاعت ہوتا ہے۔

اناجیل کے مصنفین کی حیثیت بلحاظ عینی شاہدوں کے مذہب کے ماننے والے لوگوں کے سامنے ہمیشہ اصول موضوعہ کے طور پر پیش کی گئی ہے۔ بایں ہمہ دوسری صدی کے وسط میں سینٹ جسن نے اناجیل کو حواریوں کے تذکرے کہا تھا۔ علاوہ ازیں مصنفین کے بارے میں اتنی بہت سی تفصیلات ہیں کہ ان کی صحت پر کبھی شبہ کرنا ممکن نہیں معلوم ہوتا۔ متی ایک مشہور و معروف کردار تھے جو چنگی کے نام کے پر پال کیفرناؤم کے محصول خانہ میں افسر کی حیثیت سے ملازم تھے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ آرامی اور یونانی زبانیں بولتے تھے۔ مرقس کو بھی پطرس کے رفیق کار کی حیثیت سے باسانی پہچانا جاسکتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ بھی ایک عینی شاہد تھے۔ یوحنا کے بارے پال کا کہنا ہے کہ ایک ہر دل عزیز طبیعت تھے۔ ان کے متعلق معلومات نہایت صحیح ملتی ہیں۔ یوحنا وہ حواری ہیں جو ہمیشہ یسوع مسیح کے قریب رہے وہ بحیرہ گیلیلی کے ماہی گیر زبیری کے صاحبزادے تھے۔

عیسائیت کے آغاز پر اس وقت جو تحقیقات ہو رہی ہیں ان سے ظاہر ہوتا ہے کہ واقعات کو پیش کرنے کا یہ طریقہ حقیقت سے مطابقت نہیں رکھتا۔ ہم دیکھیں گے کہ اناجیل کے مصنفین اصل میں کون تھے۔ یسوع مسیح کے عہد رسالت سے متصل جو وہ سالے گذرے جہاں تک ان کا تعلق ہے تو یہ سمجھ لینا چاہئے کہ واقعات قطعاً اس نہج پر رونما نہیں ہوئے جس نہج پر بتایا جاتا ہے اور یہ کہ پطرس کی روم میں آمد

سے کلیسا کی بنیاد نہیں رکھی گئی۔ اس کے برخلاف اُس وقت سے جو مسیح نے خاکدانِ عالم کو خیر باد کہا دوسری صدی کے دوسرے نصف میں دو فرقوں کے مابین آویزش ہوئی۔ ایک فرقہ وہ تھا جس کو پولوی عیسائیت کہہ سکتے ہیں اور دوسرا فرقہ یہودی عیسائیت کا تھا۔ یہ عمل نہایت سست رفتاری سے ہوا کہ اول الذکر نے موخر الذکر کو بے دخل کیا۔ اور پولوی عیسائیت نے یہودی عیسائیت پر غلبہ حاصل کیا۔

حال کی بہت سی کتابوں کی بنیاد عیسائیت سے متعلق عصری تحقیقات پر ہے ان میں ہمیں کارڈینال ڈینیلو کا نام ملتا ہے۔ دسمبر ۱۹۶۷ء میں انھوں نے تبصرہ مطالعات (ایٹود) میں ایک مضمون شائع کرایا تھا جس کا عنوان تھا "عیسائیت کے آغاز کا ایک جدید نمائندہ۔ یہودی عیسائیت"۔ ایوان وٹزیوں نوویل دے اور می تراں کرپنٹال لوتز و دیو کرستیانام) اس میں وہ گزشتہ تصانیف پر تبصرہ کرتے ہیں اُس کی تاریخ کو دہراتے ہیں اور ایک بالکل ہی مختلف سیاق و سباق میں ہمارے لئے یہ امکان پیدا کر دیتے ہیں کہ ہم اناجیل کے ظہور میں آنے کا تعین کر سکیں۔ یہ سیاق و سباق اس سے قطعاً الگ ہے جو عام مطالعہ کے لئے شائع ہونے والی کتابوں کے مطالعہ سے اُبھرتا ہے اُن کے مضمون میں جو ضروری نکات پیدا کئے گئے ہیں اُس سے اُن نکات کا ایک بھداسا ترجمہ سامنے آتا ہے جس میں اُس کے بہت سے اقتباسات بھی شامل کر دیئے گئے ہیں۔

یسوع مسیح کی رحلت کے بعد "تواریوں کی مختصر جماعت، نے یہودیوں کا ایک ایسا جٹھا بنا یا جو عبادت کے اس طریقہ پر قائم رہا جو معابد میں جاری تھا۔ لیکن جب لادینوں کی جماعت سے تبدیل مذہب کرنے والوں کے رسوم و رواج اُن میں شامل ہو گئے تو ایک مخصوص قسم کا نظام اُن کے سامنے آیا ۱۹۰۹ء میں منعقد ہونے والی یروشلم کی کونسل نے انھیں ختنہ اور یہودی رسوم و رواج سے مستثنیٰ قرار دے دیا۔" بہت سے یہودی عیسائیوں نے اس رحلت کو مسترد کر دیا۔ یہ گروہ پال کی جماعت سے بالکل الگ تھا۔ اس سے بڑھ کر یہ کہ پال اور یہودی عیسائیوں کے مابین اُن لادینوں کے سوال پر تنازعہ تھا جو مذہب تبدیل کر کے عیسائیت میں آ گئے تھے۔ (انطاکیہ کا واقعہ ۱۹۰۹ء) پال کے لئے ختنہ کی رسم، سبت کا حکم اور عبادت گاہ میں رائج عبادت کا طریقہ اُس وقت سے خود یہودیوں کے لئے بھی پرانے ہو گئے تھے۔ عیسائیت کے لئے ضروری تھا کہ وہ خود کو یہودیت سے سیاسی و مذہبی طور پر چسپیدگی سے آزاد کر لے اور اپنے دروازے غیر یہود کے لئے کھول دے۔

ان "یہودی عیسائیوں کے لئے جو وفادار یہودی رہے پولس کی حیثیت ایک غدار کی سی تھی۔ یہودی عیسائیت کی تحریروں میں اُن کو دشمن کہا جاتا ہے۔ اور اُن کو "عیارانہ دوغلی" کا الزام دیا

جاتا ہے۔۔۔۔۔ "لغایتہ سنہ کلیسیا میں یہودی عیسائیت کی ہی اکثریت رہی۔ اور پولس کی حیثیت اکل کھرے کی سی ہے۔ اس زمانہ میں عیسائی فرقہ کے سربراہ جیمس تھے جن کی یسوع مسیح سے قرابتداری تھی۔ (شروع میں) پطرس اور یوحنا بھی ان کے ساتھ رہے۔" جیمس کو یہودی عیسائیت کے جتھے کا نمائندہ سمجھا جاسکتا ہے جو پالومی عیسائیت کے مقابلہ میں دائستہ طور پر یہودیت سے چپکارا ہا۔" یسوع مسیح کے خالوادہ کو یروشلم کے یہودی عیسائیت کلیسیا میں نہایت ہی اہم مقام حاصل ہے۔ جیمس کے چالیسین شمعون بن کلیوپس ہوئے جو یسوع مسیح کے ایک چچیرے بھائی تھے۔

کارڈینل ڈینیلو اس جگہ یہودی عیسائیت کی ان کتابوں سے حوالے دیتے ہیں جو اس فرقہ کے یسوع مسیح کے بارے میں نظریات کو پیش کرتی ہیں اور یہ فرقہ ابتداءً حواریوں پر مشتمل تھا۔ یہ کتابیں تھیں عبرانی کی اناجیل (جو ایک یہودی عیسائی فرقہ کے ذریعہ مصر میں آئیں) ان میں کلیمنٹ کی تحریریں مواعظ اور مکاشفات، جیمس کا دوسرا الہام اور طامس کی انجیل شامل ہیں۔

کارڈینل ڈینیلو تفصیل سے ان کا تذکرہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں "عیسائیت سے متعلق لٹریچر کی قدیم ترین تحریریں جن کا حوالہ دیا جاسکتا ہے وہ یہودی عیسائی فرقہ کی ہیں۔

"جو یہودی عیسائیت پہلی صدی عیسوی میں غالب رہی وہ عین یروشلم اور فلسطین میں ہی نہیں تھی۔ یہودی عیسائیت کی تبلیغ، پالومی تبلیغ سے قبل ہر جگہ پر و ان چڑھتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ یہی بات اس حقیقت کو واضح کرتی ہے کہ پولوس کے خطوط ایک آویزش کی جانب اشارہ کرتے ہیں۔" یہی وہ مخالفین تھے جن سے اُس کو ہر جگہ نمٹنا پڑا۔ غلطیہ میں، کورنتھ میں، کولوسی میں، روم میں اور انطاکیہ میں۔

غزہ سے انطاکیہ تک شامی فلسطینی ساحل پر یہودی عیسائیت کا غلبہ تھا۔" جیسا کہ رسولوں کے اعمال اور کلیمنتی تحریروں سے شہادت ملتی ہے۔" ایشیا تے کوچک میں یہودی عیسائیت کا وجود جیسا کہ سینٹ پال کے خطوط بنام گلپتوں اور کلسیوں سے ظاہر ہوتا ہے۔ پاپائی تحریروں میں فرجیہ میں یہودی عیسائیت کے بارے میں معلومات حاصل ہوتی ہیں۔ یونان میں پال کے کوٹھبوں کے نام پہلے خط میں یہودی عیسائیت کا حوالہ ملتا ہے۔ خصوصاً اپالوس کے مقام پر۔ کلیمنٹ کے خط اور شیفرڈ ہرسی کے بموجب روم ایک اہم مرکز تھا۔ سوٹینیس اور ٹیلیسی کے نزدیک عیسائی،

۱۵ یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ یہ تمام تحریریں بعد میں اسفار محرفہ کے درجہ میں شامل کر دی گئیں۔ یعنی ان کو تاح کلیسا نے چھپا

دیا۔ جو پال کی کامیابی سمجھی گئی۔ اس کلیسا نے انجیلی لٹریچر میں قطع و برید کا کام کیا اور صرف چار قانونی انجیلیں باقی رکھی

گئیں۔

ایک یہودی فرقہ کی نمائندگی کرتے تھے۔ کارڈینال دینیلو کاجیال سے کہ افریقہ میں سب سے پہلے یہودی عیسائیت ہی عیسائی مذہب کی شکل میں نمودار ہوتی۔ عبرانی کی انجیل اور کلیمینٹ اسکندری کی تحریروں کا اس سے رابطہ قائم ہوتا ہے۔

ان حقائق کا جتنا لازمی ہے تاکہ ان قوموں کے درمیان آویزش سمجھ میں آسکے جس سے وہ پس منظر تیار ہوا جس کی وجہ سے اناجیل لکھی گئیں۔ وہ متون جو اصل ماخذوں میں متعدد تصرفات کے بعد اس وقت موجود ہیں۔ سترہ کے لگ بھگ وجود میں آنے شروع ہوئے تھے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب دونوں حریت قومیں ایک شدید قسم کی آویزش میں مشغول تھیں۔ جن میں یہودی عیسائیت کو اس وقت بھی غلبہ حاصل تھا۔ جنگ یہود اور سترہ میں سقوط یروشلم کے ساتھ ہی حالت الٹ گئی تھی۔ یہی وہ باتیں ہیں جن کی روشنی میں کارڈینال دینیلو انحطاط کی تشریح کرتے ہیں۔

”یہودیوں کے حدود سلطنت میں غیر معتبر قرار دیئے جانے کے بعد عیسائی خود کو ان سے علیحدہ کرنے کی طرف مائل ہوتے۔ عیسائی فرقہ کے یونانی التسلسل افراد کو اس وقت غلبہ حاصل ہو گیا۔ پال کو مرنے کے بعد کامیابی نصیب ہوئی۔ عیسائیت نے خود کو سیاسی اور عمرانی اعتبار سے یہودیت سے الگ کر لیا۔ یہ ایک تیسری قوم بن گئی۔ پھر بھی سترہ میں یہودی بغاوت تک یہودی عیسائیت تہذیبی طور پر برتری حاصل کئے رہی۔“

سترہ سے لگا کر سترہ سے کچھ پہلے تک کی مدت میں مرقس، متی، لوقا اور یوحنا کی انجیلیں وجود میں آگئیں۔ ان میں ابتدائی دور کی عیسوی تحریری دستاویزات شامل نہیں ہیں۔ پال کے خطوط ان سے کافی پہلے زمانہ کے ہیں۔ اور کلمان کے کہنے کے بموجب پال نے تھیسالویوں کو جو خط لکھا تھا وہ غالباً سترہ کا ہے۔ غالب گمان ہے کہ وہ مرقس کی انجیل کی تکمیل سے بہت سال پہلے راہ عدم کو چا چکا تھا۔

عیسائیت میں پال کی شخصیت سب سے زیادہ ممتاز ہے۔ حضرت یسوع مسیح کے خانوادے کے لوگ اور وہ حواری جو تیس کے حلقہ میں رہتے ہوئے یروشلم میں مقیم رہے اس کو یسوع مسیح کے خیالات سے غداری کرنے والا قرار دیتے ہیں۔ پال نے ان لوگوں کی تذلیل کر کے جن کو حضرت یسوع مسیح نے اپنی تعلیمات کی اشاعت کے لئے اپنے گرد جمع کیا تھا۔ عیسائیت کو جنم دیا وہ یسوع مسیح سے ان کی حیات میں واقف تک نہیں تھا۔ اس نے اپنے مشن کی حقانیت کو اس اعلان کے ساتھ ثابت کیا کہ جب وہ دمشق جا رہا تھا تو یسوع مسیح، متوفی لوگوں میں سے زندہ ہو کر اس پر ظاہر ہوئے تھے یہ سوال کرنا نہایت معقول ہے کہ پال نہ ہوتا تو عیسائیت کی شکل کیا ہوتی؟ اس موضوع پر بلاشبہ ہر طرح

کے نظریات قائم کئے جاسکتے ہیں۔ لیکن جہاں تک اناجیل کا تعلق ہے یہ امر بالکل یقینی ہے کہ اگر فرقوں کے مابین آویزش کی یہ فضا نہ ہوتی تو وہ تحریریں بھی موجود نہ ہوتیں جو آج ہمارے پاس ہیں۔ یہ تحریریں دو فرقوں کے مابین سخت آویزش کے دوران ظہور پذیر ہوئیں۔ یہ مناظرانہ تحریریں۔ جیسا کہ فادر کینین تزی ایسے نے اُن کے متعلق کہا ہے۔ یسوع مسیح پر لکھی جانے والی کتابوں کے ایک انبار میں سے پیدا ہوئی ہیں۔ یہ اُس وقت ظہور پذیر ہوئیں۔ جب پال کے طرز عیسائیت نے واضح کامیابی حاصل کر لی اور اُس نے اپنے سرکاری متون کے مجموعے مرتب کر لئے۔ یہی متون اناجیل کی اُس مسلمہ شکل پر مشتمل ہیں جس نے کسی بھی ایسی تحریروں کو مستند عقیدے کے خلاف قرار دے کر رد اور خارج کر دیا ہے جو اُن اصولوں کے مطابق نہیں ہیں جن کو کلیسا نے اختیار کیا ہے۔

یہودوی عیسائیت ایک بااثر فرقہ کی حیثیت سے اب معدوم ہو چکی ہے۔ لیکن اب بھی لوگ اس فرقہ کے ماننے والوں کے بارے میں ایک عام اصطلاح "یہودی صفت" کے تحت گفتگو کرتے سُنے جاتے ہیں۔ ان لوگوں کے غائب ہو جانے کے بارے میں کارڈینل دینیلو کا بیان یہ ہے۔ "جب اُن کا تعلق کلیسا اعظم سے منقطع ہو گیا جس نے خود کو رفتہ رفتہ یہودوی بندھنوں سے آزاد کر لیا تھا۔ تو وہ مغرب میں نہایت تیزی سے ختم ہو گئے۔ لیکن مشرق میں ممکن ہے تیسری اور چوتھی صدی عیسوی میں اُن کے کچھ نشانات مل سکیں۔ خصوصیت سے فلسطین، عرب، ماورائے اردن، شام اور سیسیل پوٹامیہ میں۔ باقی حضرات نے کلیسائے اعظم میں شمولیت اختیار کر لی، ساتھ ہی سامی تمدن کے اثرات کو محفوظ رکھا۔ ان میں سے کچھ ہنوز جھٹشہ اور خالدیہ کے کلیساؤں میں باقی ہیں۔"



اناجیل اربع

ماخذ اور تاریخ

اُن تحریروں میں جو عیسائیت کے ابتدائی ادوار سے ہم تک پہنچی ہیں اناجیل کا سینٹ پال کی کتابوں کے کافی عرصہ بعد تک کہیں ذکر نہیں ملتا۔ دوسری صدی عیسوی کے وسط تک اور زیادہ صحت کے ساتھ کہا جائے تو سنہ ۱۴۰ء کے بعد تک عیسائی تحریروں کے مجموعوں کے متعلق بیانات منظر عام پر آنے شروع نہیں ہوئے اس کے باوجود دوسری صدی عیسوی کے شروع میں بہت سے عیسائی مصنفین صاف طور پر اس امر کا اظہار کرتے ہیں کہ انجیل پال کے بہت سے خطوط کا علم تھا۔ یہ بیانات بائبل کے عالمی ترجمہ عہد نامہ جدید کے ابتدائیہ میں پیش کئے گئے ہیں۔ (سنہ ۱۹۷۲ء) وہ بالکل ابتداء ہی میں ذکر کر دیتے جانے کے قابل ہیں۔ اور ان کی یہاں نشاندہی کر دینا مفید ہوگا کہ جس تحریر کا حوالہ دیا جا رہا ہے۔ وہ ایک اجتماعی کوشش کا نتیجہ ہے جس میں سو سے زیادہ کیتھولک اور پروٹسٹنٹ ماہرین خصوصی باہم مجتمع ہوئے تھے۔

اناجیل جو بعد میں چل کر سرکاری یعنی شرعی حیثیت اختیار کر گئیں۔ کافی عرصہ بعد تک علم میں نہیں آئیں حالانکہ وہ دوسری صدی عیسوی کے شروع میں مکمل کی جا چکی تھیں۔ عالمی ترجمہ کے مطابق ان سے متعلق کہانیاں دوسری صدی عیسوی کے وسط میں بیان کی جانے لگی تھیں۔ اس کے باوجود یہ بات طے کرنی تقریباً ہمیشہ مشکل رہی ہے۔ کہ ان کے اقتباسات، تحریری متون سے حاصل کئے گئے جو مصنفین کے پاس ان کے علاوہ تھے یا مؤخر الذکر زبانی روایت کے ٹکڑوں اور فقروں کی یاد کو قائم رکھنے پر قانع رہے۔“

”سنہ سے قبل“ بائبل کے اس ترجمہ میں شامل تبصروں میں ہم پڑھتے ہیں کہ ”کسی حالت میں بھی کوئی ایسا بیان موجود نہیں تھا جس سے کوئی شخص انجیل سے متعلق تحریروں کے کسی مجموعہ کے بارے میں تیز کر سکتا۔“ یہ بیان اُس تحریر کے خلاف ہے جو اے۔ ٹری کوٹ نے عہد نامہ جدید کے اپنے ترجمہ میں تبصرہ کرتے ہوئے دی تھی۔ (۱۹۶۰ء) ”دوسری صدی عیسوی کے شروع ہونے سے بہت پہلے“ انجیل کا لفظ استعمال کرنا ایک عادت بن گیا تھا۔ جن سے مراد وہ کتابیں تھیں جن کو سینٹ جسٹن نے سنہ ۱۵۰ء کے لگ بھگ حواریوں کی یادداشتیں قرار دیا تھا۔ بد قسمتی سے اس قسم کے بیانات پبلک کے لئے اناجیل کی تاریخ کے بارے میں خیال قائم کرنے کے سلسلہ میں کافی عام ہیں۔

جو غلط ہیں۔“

اناجیل ”بہت پہلے“ ایک مکمل مجموعہ کی شکل میں ظہور پذیر نہیں ہوئیں۔ یہ وقوعہ یسوع مسیح کے تبلیغی مشن کے اختتام کے ایک صدی سے بھی زیادہ بعد میں رونما ہوا۔ بائبل کا عالمی ترجمہ، اُس تاریخ کا جس میں چاروں انجیلوں نے شرعی لٹریچر کا درجہ حاصل کیا۔ تعین شدہ کے لگ بھگ کا کرتا ہے۔ جسٹن کا وہ بیان بھی جس میں مصنفین کو ”حواری“ کہا گیا ہے۔ آئندہ معلوم ہو جائے گا کہ قابل قبول

نہیں ہے۔

جہاں تک کہ اُس تاریخ کا تعلق ہے جس میں اناجیل لکھی گئیں۔ اے۔ ٹری کوٹ کا کہنا ہے کہ متی کی مرقس کی اور لوقا کی انجیلیں سترہ سے پہلے لکھی گئیں۔ لیکن یہ بات قابل قبول نہیں ہے سوائے مرقس کی انجیل کے۔ بہت سے اور مصنفین کی پیروی کرتے ہوئے یہ شارح بھی اپنی راہ سے یہ بتانے میں دوہٹ جاتا ہے کہ اناجیل کے مصنفین رسول یا حضرت عیسیٰ کے حواری تھے۔ اسی وجہ سے وہ اُن کے تحریر کئے جانے کی اُن تاریخوں کا تعین کرتا ہے جو حضرت عیسیٰ کی حیات کے قریبی زمانہ سے تعلق رکھتی ہیں۔ جہاں تک یوحنا کا تعلق ہے اُن کے بارے میں اے۔ ٹری کوٹ ہمیں یقین دلاتا ہے کہ وہ تقریباً سترہ تک زندہ رہے۔ عیسائی اس بات کے عادی رہے ہیں کہ وہ اُن کو حضرت عیسیٰ کے بہت قریب کے زمانہ میں بتائیں۔ لیکن یہ اعتراف کرنا نہایت دشوار ہے کہ وہ اس انجیل کے مصنف ہیں جو ان کے نام سے منسوب ہے۔ دوسرے شارحین کی طرح اے۔ ٹری کوٹ کے نزدیک یوحنا حواری (متی کی طرح) اُن حقائق کے جو وہ بیان کرتے ہیں قانونی حیثیت سے شاہد تھے۔ اگرچہ ناقدین کی اکثریت اس نظر پر یہ کی حمایت نہیں کرتی کہ انھوں نے ہی چوتھی انجیل کو تحریر کی شکل دی۔

لیکن اگر چاروں انجیلیں جو زیر بحث ہیں دلائل سے رسولوں یا حضرت عیسیٰ کے حواریوں کی یادداشتیں قرار نہیں پاسکتیں تو پھر یہ سوال اٹھتا ہے کہ وہ آئیں کہاں سے؟

اور کولمان اپنی تصنیف ”عہد نامہ جدید“ میں اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ انجیلوں کے مرتبین محض ”ابتدائی دور“ میں عیسائی فرقہ کے ترجمان تھے۔ جس نے زبانی روایتوں کو تحریر کیا۔ پچاس چالیس سال تک انجیل قریب قریب محض زبانی روایت کی شکل میں موجود رہی۔ اور زبانی روایت نے صرف اقوال کو آئندہ کے لئے منتقل کیا اور بیانات کو اُن سے علیحدہ کر دیا۔ اناجیل اربع کے مصنفین نے اُن کو ہام مرلوب کیا۔ ہر ایک نے اپنے مزاج کی افتاد اور سابقہ دینی رجحان کے مطابق اپنا جداگانہ طریقہ اختیار کیا۔ مشہور روایتوں کی روشنی میں جو بیانات اور اقوال اُن تک پہنچے تھے اُن کو آپس میں ملا دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ارشادات کو یکجا کرنے اور اسی طرح روایتوں کی ترتیب دینے کا کام

مبہم فقروں مثلاً "اس کے بعد جب ایسا ہوا" وغیرہ کے ذریعہ ملا کر کیا گیا ہے۔ بہ الفاظ دیگر کتب متفقہ
 دہتی، مرقس اور یوحنا کی انجیلیں جن کی ترتیب یکساں ہے، کا ڈھانچہ خالص ادبی ترتیب پر ہے اور
 اس کی بنیاد تاریخ پر نہیں۔

وہی مصنف بیان جاری رکھتے ہوئے کہتا ہے۔

"یہ بات قابل لحاظ ہے کہ تبلیغ، عبادت اور تعلیم کی اہمیت سوانحی بیانات سے زیادہ ہے
 اور یہی وہ ضرورتیں تھیں جنہوں نے ابتدائی اقوام کی اس وقت رہبری کی جب انہوں نے حضرت عیسیٰ
 کی حیات سے متعلق روایت کو قلمبند کیا۔ حواریں نے حضرت عیسیٰ کی زندگی کے واقعات بیان کرنے
 کے سلسلہ میں عقیدہ کی سچائی کو ظاہر کیا ہے۔ ان کے مواعظ وہ ہیں جو ان بیانات کو ضبط تحریر میں
 لانے کا موجب ہوئے حضرت عیسیٰ کے ارشادات خصوصیت سے ابتدائی دور کے کلیسا کے سوال
 جواب نامہ کی شکل میں منتقل کئے گئے۔"

ٹھیک یہی وہ طریقہ ہے جس سے بائبل کے عالمی ترجمہ کے شارحین، اناجیل کی تحریر کو بیان کرتے
 ہیں۔ حضرت عیسیٰ کے پیروکاروں اور دیگر مبلغین کی تبلیغ سے متاثر زبانی روایت کی تشکیل اس مواد
 کا تبلیغ کے ذریعہ محفوظ رکھنے کا عمل جو اناجیل میں فی الحقیقت پایا جاتا ہے۔ اور دین عیسوی کے
 ماننے والوں کی تبلیغ، عبادت کے دوران دعائیں مانگنے کا طریقہ اور تعلیم کسی قدر ضعیف امکان کے
 ساتھ وہ مرنی شکل جو دین کے چند احکامات کے تحریر میں آجانے سے بنی، حضرت عیسیٰ کے ارشادات
 مثلاً مصائب مسیح کے جو صلیب پر اپنے برداشت کئے بیانات۔ یہ حقیقت کہ انجیلوں کے مرتبین کا
 مدار مختلف تحریری شکلوں پر بھی رہا۔ وہ مواد ہے جو زبانی روایت میں شامل ہے۔ وہ لوگ ان متون
 کی تخلیق میں ان چیزوں پر انحصار کرتے ہیں جو مختلف حلقوں کے لئے موزوں ہیں۔ جو کلیسا کی ضرورتوں
 کو پورا کرتے ہیں، صحیفوں کے فقروں کی توضیح و تشریح کرتے ہیں، غلطیوں کی تصحیح کرتے ہیں اور موقع بموقع
 مخالفین کے اعتراضات کا جواب بھی پیش کر دیتے ہیں۔ اس طرح انجیلوں کے مرتبین میں سے ہر ایک نے
 اپنے نقطہ نظر سے اس مواد کو جو اٹھیں زبانی روایت سے ملا جمع کیا اور ترتیب دیا ہے۔

یہ صورت ایک سو سے زیادہ ماہرین نے مجموعی طور پر عہد نامہ جدید کی تفسیر کے سلسلہ میں اختیار
 کی ہے اور اس میں کینٹھوک اور پرنٹسٹ دوٹوں ہی شامل ہیں۔ اس میں اس روش سے زبردست اختلاف
 کیا گیا ہے جو دوسری ویکن کونسل نے وحی والہام پر ۱۹۶۲ء اور ۱۹۶۶ء کے مابین اپنے اصولی آئین
 میں قائم کی ہے۔ اس مشاورتی دستاویز کا حوالہ ایک مرتبہ پہلے دیا جا چکا ہے جب عہد نامہ قدیم پر
 گفتگو کی جا رہی تھی۔ مؤخر الذکر کے بارے میں کونسل یہ اعلان کر سکی کہ جن کتابوں میں اس کو ترتیب دیا

گیا ہے۔ اُن میں وہ مراد شامل ہے جو نامکمل اور متردک ہے۔ لیکن اُس نے یہی پابندیاں اناجیل کے بارے میں ظاہر نہیں کی ہیں۔ اس کے برخلاف جیسا کہ ہم ذیل میں پڑھتے ہیں۔

”کوئی شخص بھی اس حقیقت کو نظر انداز نہیں کر سکتا کہ تمام صحیفوں میں یہاں تک کہ عہد نامہ جدید میں بھی اناجیل کو ایک اعلیٰ و برتر مقام حاصل ہے۔ یہ بات اس حقیقت کے لحاظ سے ہے کہ اُن میں کلمۃ اللہ یعنی ہمارے نجات دہندہ کی حیات اور تعلیمات کی انتہائی فائق و برتر شہادت ملتی ہے۔ تمام زمانوں میں اور تمام مقامات پر کلیسا نے چاروں انجیلوں کی پیغمبرانہ حیثیت کو برقرار رکھا ہے اور ہنوز برقرار رکھے ہوئے ہے۔ حضرت عیسیٰ کے احکام کی رسولوں نے حقیقت میں جو تبلیغ کی اُس کو انھوں نے اور اُن کے متبعین و مقلدین نے روحانی کیفیت سے سرشار ہو کر اُن تحریروں میں آئندہ نسلوں کو منتقل کیا جو عقیدہ کی بنیاد ہیں یعنی اناجیل اربعہ جو متی، مرقس، لوقا اور یوحنا سے مردی ہیں۔“

”ہماری ماور مقدسہ یعنی کلیسا نے نہایت مستحکم طریقہ پر اس بات کو برقرار رکھا ہے اور انتہائی استقامت کے ساتھ برقرار رکھے ہوئے ہے کہ یہ چاروں انجیلیں، جن کو یہ بلا جھجک تاریخی اعتبار سے مستندانہ ہے، ویاننداری سے بالکل وہی کام اور وہی کلام ہیں جو حضرت عیسیٰ ابن اللہ نے لوگوں کے درمیان رہتے ہوئے اپنی حیات میں اُن کی دائمی نجات کے لئے اُس دن تک کے جب اُن کو (حضرت عیسیٰ کو) آسمان پر اٹھایا گیا۔۔۔۔۔ لہذا ان مقدس و برگزیدہ مصنفین نے اناجیل اربعہ کو اس طریقہ سے مرتب کیا کہ اُن سے حضرت یسوع مسیح کی حیات سے متعلق صحیح اور واضح معلومات ملتی رہے۔“

یہ اس صحت کا ایک غیر مبہم اقرار ہے جس سے اناجیل حضرت یسوع مسیح کے اعمال اور اقوال کو منتقل کرتی ہیں۔

کونسل کے بیان میں اور جو کچھ مذکورہ بالا مصنفین دعویٰ کرتے ہیں اُس میں مشکل ہی کوئی مطابقت دکھائی دیتی ہے۔ خصوصیت سے حسب ذیل بیان میں۔

اناجیل کو ”لفظی اعتبار سے نہیں لینا چاہیے“ وہ ”موقع اور محل کی مناسبت سے تحریریں“ یا ”مناظراتی تحریریں“ ہیں۔ اُن کے مصنفین حضرت عیسیٰ سے متعلق خود اپنی قوم کی روایات کو ضبط تحریر میں لا رہے ہیں۔ (ٹاور کینین جی سے)۔

اناجیل ایسے متن ہیں جو ”مختلف حلقوں کے لئے موزوں ہیں۔ کلیسا کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں صحیفوں کے متعلق بیانات کی توضیح و تشریح کرتے ہیں۔ غلطیوں کی اصلاح کرتے ہیں اور یہاں تک کہ موقع پڑنے پر مخالفین کے اعتراضات کا جواب بھی دے دیتے ہیں۔ اس طرح انجیلوں کے مرتبین میں سے ہر ایک نے اپنے نقطہ نظر سے اُس مواد کو جو زبانی روایت سے اُس کو ملا جمع کیا اور ترتیب

یہ بات بالکل واضح ہے کہ یہاں ہمیں متضاد بیانات ملتے ہیں۔ کونسل کا اعلان ایک طرف ہے اور نہایت جدید دور کا اختیار کیا ہوا موقف دوسری طرف۔ دوسری ٹیکن کونسل کے بیان کے مطابق حضرت عیسیٰ کے افعال و اقوال کا ایک صحیح بیان اناجیل میں ملتے ہیں لیکن اس کی مطابقت تضادات اور ناممکنات پر مشتمل ان تحریروں کے ساتھ پیدا کرنا ناممکن ہے جو ایسی چیزیں ہیں کہ معنوی اعتبار سے غیر ممکن ہیں یا ایسے بیانات ہیں جو پورے طور پر تسلیم شدہ حقیقت کے منافی ہیں۔

اگر دوسری طرف کوئی شخص اناجیل کو ایسی تحریریں مان لے جو ان لوگوں کے نقطہ نظر کو پیش کرتی ہیں جنہوں نے مختلف فرقوں کی زبانی روایتوں کو جمع کیا۔ یا ایسی تحریریں سمجھ لے جو موقع کے مناسب یا مناظراتی تحریریں تھیں تو اناجیل میں کوتاہیوں کا بار پانا کوئی تعجب خیز امر نہیں رہ جاتا۔ یہ تمام کوتاہیاں علامت ہیں اس بات کی کہ لوگوں نے ان کو ان حالات میں تحریر کیا۔ اس کے باوجود کہ مصنفین نے واقعات کو ان کی عدم صحت پر شبہ کے بغیر ان کو لکھ دیا پھر بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے کام میں پوری طرح مخلص ہوں۔ ان سے ہمیں ایسی تحریریں دستیاب ہوتی ہیں۔ جو دوسرے مصنفین کے بیانات کی تردید کرتی ہیں۔ یا وہ مختلف فرقوں کے ماہرین ہونے والے مذہبی مناقشات کے دلائل سے متاثر ہیں۔ لہذا وہ حضرت عیسیٰ کی حیات سے متعلق ایسے قصے بیان کرتے ہیں جو ان کے مخالفین کے زاویہ نظر سے بالکل مختلف ہیں۔

یہ بات پہلے ہی ظاہر کی جا چکی ہے کہ اناجیل سے متعلق دوسرا موقف کس طرح تاریخی سیاق سے مطابقت رکھتا ہے۔ متون سے متعلق ہمارے پاس جو مواد موجود ہے وہ اس بات کی پوری طرح توثیق و تصدیق کرتا ہے۔

متی کی انجیل

عہد نامہ جدید میں موجود اناجیل اربعہ میں متی سب سے پہلے آتے ہیں۔ ان کا یہ مقام اس حقیقت کی روشنی میں بالکل حق بجانب ہے کہ یہ عہد نامہ قدیم ہی کا ایک بڑھا ہوا حصہ ہے۔ یہ انجیل اس بات کے اظہار کے لئے لکھی گئی تھی کہ "حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسرائیل کی تاریخ کی تکمیل کی، جیسا کہ بائبل کے عالمی ترجمہ کے شارحین لکھتے ہیں اور جس کو ہم تفصیل سے بیان کریں گے۔ اس مقصد کے لئے

۱۔ کا پورناؤم کے مقام پر محمول وصول کرنے پر تعینات تھے۔ حضرت عیسیٰ کے ظہور پر ان کے پیروں میں شامل ہوئے۔ بارہ حواریوں میں شمار کئے جاتے ہیں۔ عام طور پر لیوی کے نام سے پہچانے جاتے ہیں۔ روایت کے موجب پہلی انجیل کے مرتب ہیں۔ (مترجم)

متی برابر عہد نامہ قدیم سے ایسے حوالے دیئے جاتے ہیں جن سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہی عمل کرتے رہے جو وہ مسیح کرتے جن کا یہودی انتظار کر رہے تھے۔

یہ انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نسب نامے سے شروع ہوتی ہے۔ متی نے اس کو حضرت داؤد علیہ السلام کے واسطے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام تک پہنچایا ہے۔ ہم ابھی متن میں اس کو تاہی کی نشاندہی کریں گے جو بیشتر شارحین خاموشی سے نظر انداز کر دیتے ہیں۔ تاہم متی کا مقصد یہ سلسلہ نسب پیش کرنے سے اپنے کام کے عمومی انداز کو ظاہر کرنا تھا۔ مصنف موصوف یہودی شریعت کے بارے حضرت عیسیٰ کے موقف کو برابر سامنے لا کر اپنے اس خیال کے سلسلہ کو جاری رکھتے ہیں۔ اس شریعت کے خاص اصول (نماز۔ روزہ، اور زکوٰۃ کی ادائیگی) یہاں مختصراً بیان کئے جاتے ہیں۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی تعلیمات کی اشاعت سب سے پہلے اپنے لوگوں میں کرتے ہیں۔ یہ طریقہ ہے جس سے آپ اپنے پارہ حواریوں سے گفتگو فرماتے ہیں۔

”غیر قوموں کی طرف نہ جانا اور سامریوں کے کسی شہر میں داخل نہ ہونا بلکہ اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیتروں کے پاس جانا (متی ۱۰ : ۵-۶)“ میں اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیتروں کے پاس اور کسی کے پاس نہیں بھیجا گیا (متی ۱۵ : ۲۴) انجیل کے اخیر میں ایک دوسری جگہ متی یسوع مسیح کے پہلے شاگردوں کے تبلیغی مشن کو تمام اقوام تک وسیع کر دیتے ہیں۔ وہ حضرت عیسیٰ سے حسب ذیل حکم دلاتے ہیں ”پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ“ (متی ۲۸ : ۱۹) لیکن مقصد اولین اسرائیل کا گھرانہ ہونا چاہیے۔ اے۔ ٹری کوٹ کا اس انجیل کے بارے میں کہنا ہے کہ ”اس کے یونانی لباصے کے نیچے اس کتاب کے گوشت و استخوان یہودی ہیں۔ اور یہی اس کی روح ہے : اس میں یہودی احساس جاری و ساری ہے اور اس کی اپنی امتیازی علامات ہیں۔“

”صرف ان ہی مشاہدات کی بنیاد پر متی کی انجیل کے ماخذ یہودی۔ عیسائی فرقہ کی روایت میں قائم کئے جاسکتے ہیں۔ او۔ کلمان کے بموجب یہ فرقہ ”یہودیت سے رستے تڑانے کی کوشش کر رہا تھا۔ لیکن ساتھ ہی عہد نامہ قدیم کے تسلسل کو قائم رکھے ہوئے تھا۔ اس انجیل کے پہلے کے مخصوص عقائد اور اس کا عمومی انداز ایک تناؤ کی کیفیت کی جانب اشارہ کرتا ہے۔“

متن میں سیاسی اجزاء بھی پاتے جاتے ہیں۔ فلسطین پر رومیوں کے قبضہ نے قدرتی طور پر اس ملک کی حصول آزادی کی خواہش کو بہت بڑھا دیا تھا۔ وہ لوگ خدا سے دعا کرتے تھے کہ جن لوگوں کو اُس نے دوسرے تمام لوگوں میں منتخب کیا ہے ان کی نصرت فرمائے اور بادشاہ علی الاطلاق کی طرف جو نوع بشر کے امور میں براہ راست مدد کر سکتا ہے ان کی مدد کرے۔ جس طرح اُس نے تاریخی ادوار

میں بارہا مدد کی ہے۔

متی کس قسم کے بزرگ تھے؟ ہم بر ملا یہ بات کہتے ہیں کہ وہ اب ہرگز بھی حضرت عیسیٰ کے حواریوں میں شمار نہیں کئے جاتے۔ تاہم اے۔ ٹری کوٹ عہد نامہ جدید کے ترجمہ پر اپنے تبصرہ میں اُن کو حواریوں میں شمار کرتے ہیں۔ (۱۹۶۰ء) ”متی المعروف پہ لیوسی اُس زمانہ میں جب حضرت یسوع مسیح نے اُس کو اپنی شاگردی میں لیا اُس وقت کا پرنائوم کے مقام پر تاکہ پریاکسٹم ہاؤس میں بحیثیت کسٹم افسر کے ملازم تھا۔“ یہ کلیسہ کے فادر اور گین، جیروم اور ایپی فینس کی راتے ہے۔ اس راتے کو آجکل قطعاً تسلیم نہیں کیا جاتا ایک نکتہ جو غیر اختلافی ہے یہ ہے کہ مصنف لکھ رہا ہے ”اُن لوگوں کے لئے جو یونانی زبان بولتے ہیں۔ لیکن پھر بھی یہودیوں کے طور طریقوں اور آرامی زبان سے واقف ہے۔“

اس بات کا پتہ چل جائے گا کہ عالمی ترجمہ کے شارحین کے نزدیک اس انجیل کے ماخذ حسب ذیل ہیں۔

”یہ عام طور پر خیال کیا جاتا ہے کہ اس کی تحریر کا کام شام میں اور غالباً انطاکیہ کے مقام پر (.....) یا قسطنطنیہ میں ہوا ہے۔ کیونکہ ان ممالک میں بے شمار یہودی آباد تھے (.....) ہمیں عبادت گاہ کی کٹر یہودیت اور فریسیوں کے خلاف ایک ایسے ہی مناظرے کے شواہد ملتے ہیں جس طرح کے جامنا کے مقام پر مشنہ کے قریب صیہونیتی اسمبلی میں رونما ہوئے تھے۔“ ان حالات میں ایسے بہت سے مصنفین ہیں جو انانجیل میں سب سے پہلی کا تعین ۸۰-۹۰ کے لگ بھگ کرتے ہیں۔ بلکہ غالباً اس سے بھی کچھ پہلے کا۔ اس کے بارے میں قطعیت کے ساتھ کچھ کہنا ممکن نہیں ہے۔۔۔۔۔ اس لئے کہ ہمیں مصنف کا صحیح نام معلوم نہیں ہے۔ لہذا ہمیں اُن چند خاکوں پر مطمئن ہو جانا پڑے گا جو خود انجیل میں دیئے گئے ہیں۔ مصنف کو اُس کے پیشہ سے پہچانا جا سکتا ہے۔ وہ یہودی تحریرات اور روایات کا ماہر ہے۔ وہ اپنے لوگوں میں کے مذہبی رہنماؤں کو جانتا، اُن کی عزت کرتا، لیکن سختی سے اُن کو چیلنج کرتا ہے۔ وہ تعلم و تلقین کے فن میں مہارت رکھتا ہے اور اپنے سامعین کے لئے یسوع مسیح کی باتوں کو قابل فہم بنانے کا اُس کو ملکہ ہے۔ وہ اپنی تعلیمات کے عملی نتائج پر ہمیشہ زور دیتا ہے۔ وہ ایک پڑھے لکھے یہودی کے جس نے عیسائیت قبول کر لی ہو واقعات کو نہایت خوبی سے منضبط کر دیتا ہے۔ جیسا کہ متی کا بیان ہے ”گھر کا مالک“ جو اپنے خزانہ میں سے نئی اور پرانی چیزیں نکالتا ہے“ (۱۳ : ۵۲) یہ کا پورنوم کے اس سول ملازم سے نہایت بعید بات ہے۔ جس کو مرقس اور لوقا، یوسی کے نام سے موسوم کرتے ہیں اور جو بارہ حواریوں میں شامل ہو چکا ہے۔“

ہر شخص اس خیال سے متفق ہے کہ متی نے اُن ہی ماتخذوں کو کام میں لا کر انجیل لکھی جن کو مرقس اور
لوقا کام میں لائے۔ اُن کا بیان جیسا کہ ہم دیکھیں گے کئی ضروری نکات میں مختلف ہے۔ اس کے باوجود
متی نے مرقس کی انجیل سے بہت کچھ مستعار لیا ہے حالانکہ متوخر الذکر یسوع مسیح کے حواریوں میں سے
تھیں تھے (او کو لمان)۔

متی تن کے سلسلہ میں بے انتہاء آزادی کو کام میں لاتے ہیں۔ اس بات کو ہم اُس وقت دیکھیں
گے جب ہم یسوع مسیح کے نسب نامہ کے سلسلہ میں عہد نامہ قدیم پر بحث کریں گے جو اُن کی انجیل میں
شروع ہی میں مذکور ہے وہ اپنی کتاب میں ایسے بیانات درج کرتے ہیں جو لفظاً قطعاً ناقابل یقین ہیں۔
یہ وہ صفت ہے جو اس کتاب میں استعمال کی گئی ہے جس کا حوالہ صدر میں فادر کینن جسے نے اُس موقع
پر دیا ہے جب وہ رفع مسیح کے سلسلہ میں ایک حواری کا تذکرہ کر رہے تھے۔ یہ محافظ دستہ کے حواری
تھے۔ وہ اُس قصہ کے ناممکن ہونے کو بتا رہے تھے جس میں مقبرہ پر متعین فوجی محافظین کا تذکرہ کیا گیا ہے۔
”یہ غیر بھرتی شدہ سپاہی، جو اپنے مذہبی سرداروں کو نہیں بلکہ اُن اعلیٰ پادریوں کو رپورٹ دیتے ہیں جو
اُن کو کذب بیانی کا معاوضہ ادا کرتے ہیں“ لیکن وہ یہ بھی بتا دیتے ہیں ”کسی کو اُن پر ہنسنا نہیں چاہیے۔ کیونکہ
متی کا مقصد انتہائی سنجیدگی پر مبنی تھا۔ وہ زبانی روایت سے قدیم مواد لے کر اپنی تحریر میں داخل کر لیتے ہیں
تاہم یہ مخلوط عبارت یسوع مسیح کے شایان شان ہے“

ہمیں یہ بات نہ بھولنی چاہیے کہ متی کے بارے میں یہ ایک مشہور عالم دین کی شہادت ہے جو پیرس
کے کیتھولک عقیدہ کے ایک ادارے میں تدریس کے فرائض انجام دے رہے تھے (انسی تو کا تھولیک وپاری)
متی اپنے بیان میں اُن واقعات کا ذکر کرتے ہیں جو حضرت عیسیٰ کی رحلت کے ساٹھ روز نما ہوئے۔
یہ اُن کے قیاس کی ایک اور مثال ہے۔

”اور دیکھو۔ مقدس پردہ اوپر سے نیچے تک پھٹ کر دو ٹکڑے ہو گیا اور زمین لرزی اور چٹانیں
ترک گئیں اور قبریں کھل گئیں اور بہت سے جسم اُن مقدسوں کے جو سو گئے تھے جی اٹھے۔ اور اُس کے
جی اٹھنے کے بعد قبروں سے نکل کر مقدس شہر میں گئے اور بہتوں کو دکھائی دیتے“

متی کی انجیل سے یہ اقتباس (۲۷ : ۵۱ - ۵۳) ایسا ہے جس کا متناظر ٹکڑا کسی دوسری انجیل
میں موجود نہیں ہے یہ بات سمجھنا مشکل ہے کہ زیر بحث سینٹس کی جماعت حضرت عیسیٰ کی رحلت کے
ٹھیک بعد سے کیسے وجود میں آگئی (اناجیل کے بموجب یہ واقعہ سبت کے موقع پر رونما ہوا) اور
رفع مسیح کے بعد وہ اپنے مقبروں سے ابھرے (اُسی ماتخذ کے مطابق یہ واقعہ سبت کے اگلے دن ہوا)
سب سے زیادہ قابل غور ناممکن بات غالباً متی کے ہاں دکھائی دیتی ہے۔ اُن تمام باتوں کی

توجیہ کرنا جو انجیل کے مصنفین کے دعویٰ کے بموجب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہیں تقریباً دشوار ہے۔
وہ باب ۱۲، کی آیات ۳۸-۴۰ میں یوحنا کی علامت کے بارے میں واقعہ کو بیان کرتے ہیں۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام اُس وقت اُن کا ہوں اور فریسیوں کے درمیان موجود تھے۔ جب
ان لوگوں نے آپ کو مندرجہ ذیل الفاظ میں مخاطب کیا۔

”اے استاد ہم تجھ سے ایک نشان دیکھنا چاہتے ہیں،“ اُس نے جواب دیکر اُن سے کہا ” اس
زمانہ کے بڑے اور زتا کار لوگ نشان طلب کرتے ہیں۔ لیکن یوناہ نبی (حضرت یونس علیہ السلام) کے
نشان کے سوا کوئی اور نشان اُن کو نہ دیا جائے گا۔ کیونکہ یوناہ تین دن اور تین رات مچھلی کے پیٹ میں
رہا ویسے ہی ابن آدم تین دن اور تین رات زمین کے اندر رہے گا۔“

لہذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ اعلان فرماتے ہیں کہ وہ تین دن اور تین رات زمین کے اندر
رہیں گے۔ چنانچہ متی، لوقا اور مرقس کی ہمنوائی میں حضرت عیسیٰ کی رحلت اور تدفین کو سبت کی شام
میں ہوتا قرار دیتے ہیں۔ اس سے وہ وقت جو زمین کے اندر گزارا یقیناً تین دن ہوتا ہے (یونانی متن
میں ”ترے ایس ایمراس) لیکن یہ مدت صرف دو راتوں پر مشتمل ہو سکتی ہے نہ کہ تین پر (یونانی متن میں
ترے ایس نو کتا س ہے)۔

انجیل کے شارحین اکثر اس واقعہ کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ تاہم قادر روگے اس غیر امکانی بات
کی نشاندہی کرتے ہیں جب وہ یہ بات بتاتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ ”قبر میں رہے تین دن (اُن میں سے
ایک چیز مکمل) اور دو راتیں“ لیکن وہ اس بات کا اضافہ کرتے ہیں۔ ”یہ ایک بندھاٹکا محاورہ ہے اور
اس کا مطلب حقیقتاً تین یوم ہوتا ہے۔“ یہ بات دیکھ کر پریشانی ہوتی ہے کہ شارحین ایسے دلائل پیش کرنے
پر اتر آتے ہیں جن کا کوئی مثبت مفہوم نہیں ہوتا۔ عقلی اعتبار سے یہ کہنا زیادہ اطمینان بخش ہوگا کہ اس قسم
کا ایک واضح سہو کسی کاتب کی غلطی کا نتیجہ ہے۔

ان ناممکنات سے ہٹ کر جو چیز متی کی انجیل کو سب سے زیادہ ممتاز کرتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ
انجیل ایک یہودی عیسائی فرقہ کی تحریر ہے جو اُس دوران وجود میں آئی جب یہ فرقہ عہد نامہ قدیم کے

لے اس انجیل کے اور حصہ میں متی پھر اس واقعہ کا حوالہ دیتے ہیں لیکن زمانہ کے بارے میں صحیح تعین نہیں کرتے (۱۷، ۱۸)۔

یہی بات لوقا کے بارے میں صحیح ہے (۱۱، ۲۹-۳۲) ہم بعد میں دیکھیں گے کہ کس طرح مرقس (کی انجیل) میں یسوع کو یہ

اعلان کرتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ اس نسل کو کوئی نشان نہیں دیا جائے گا (مرقس ۸، ۱۱، ۱۲) اصل عبارت یہ ہے۔

”پھر فریسی نکل کر اُس سے بحث کرنے لگے اور اُسے اُزمانے کے لئے اُس سے کوئی آسمانی نشان طلب کیا۔ اُس نے اپنی روح

میں آہ کھینچ کر کہا ”اس زمانہ کے لوگ کیوں نشان طلب کرتے ہیں؟ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اس زمانہ کے لوگوں کوئی نشان نہیں دیا جائے گا۔“

ساتھ وابستہ رہ کر یہودیت سے رستے تڑپا رہا تھا۔ یہودی عیسائی تاریخ کے نقطہ نظر سے اس کی بڑی اہمیت ہے۔

مرقس کی انجیل

انجیل اربعہ میں یہ سب سے محقر ہے۔ یہ قدیم ترین بھی ہے لیکن اس کے باوجود یہ حواری کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے زیادہ سے زیادہ اس کو ایک حواری کے شاگرد نے قلمبند کیا ہے۔ اوکھان نے لکھا ہے کہ میں مرقس کو یسوع کا شاگرد نہیں سمجھتا۔ اس اعتراف کے باوجود مصنف ان لوگوں کو بتاتا ہے جو اس انجیل کا انتساب مرقس حواری سے کرنے کی غلطی کرتے ہیں کہ ”متی اور لوقا اس انجیل کو اُس طور پر کام میں نہ لاتے جس طرح وہ اس کو کام میں لاتے ہیں۔ اگر ان کو یہ معلوم نہ ہوتا کہ وہ حقیقتاً ایک حواری کی تعلیمات پر مبنی ہے۔“ یہ استدلال کسی طرح بھی فیصلہ کن نہیں ہے۔ او۔ اوکھان ان تحفظات کی حمایت میں جو وہ یہ کہہ کر کرتے ہیں کہ میں عہد نامہ جدید سے اکثر اوقات کسی ایک شخص یوحنا المعروف بہ مرقس کے اقوال کا حوالہ دیتا ہوں۔ لیکن یہ اقتباسات انجیل کے کسی مصنف کے نام کا حوالہ نہیں پیش کرتے اور مرقس کا متن خود بھی کسی مصنف کا نام نہیں ظاہر کرتا۔ اس نکتہ پر معلومات کا فقدان شارحین کو ان تفصیلات کے بیان کرنے کی طرف لے گیا کہ جو قدرے نامعقول معلوم ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر یہ عذر پیش کر کے کہ مرقس ہی تنہا مصائب مسیح کے تذکرہ میں اُس نوجوان کا قصہ بیان نہیں کرتے جس کے جسم پر ململ کے ایک کپڑے کے سوا اور کچھ بھی نہیں تھا۔ اور جب وہ پکڑا گیا تو ململ کا وہ کپڑا بھی وہیں چھوڑا اور برہنہ ہی فرار ہو گیا (مرقس ۱۴، ۵۲-۱۵) وہ یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ وہ نوجوان یقیناً مرقس ہی ہوگا وہ تا بعد از شاگرد جس نے اپنے استاد کی اتباع کرنے کی کوشش کی، (عالمی ترجمہ) دوسرے شارحین اس ”ذاتی یادداشت کو اس استاد کی ایک علامت اور ایک نامعلوم نشان“ محسوس کرتے ہیں اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ وہ ایک عینی شاہد تھا“ (او۔ اوکھان)

اور اوکھان کا خیال ہے کہ ”ترکیب الفاظ کی کافی الٹ پھیر سے اس کلیہ کی تصدیق ہو جاتی ہے کہ مصنف ایک یہودی تھا“ لیکن لاطینی کی عبارتوں سے اس بات کی نشاندہی ہو سکتی ہے کہ اُس نے اپنی

۱۵ پورا نام جان مارک ہے۔ اُن کا شمار انجیل کے مرتبین میں ہوتا ہے۔ پال یا پولوس کے رفیق کا تھے۔ پہلی صدی عیسوی کے دوسرے ربع میں موجود تھے۔ روایت ہے کہ انھوں نے دوسرے نمبر کی انجیل مرتب کی تھی۔ (مترجم)

انجیل روم میں بیٹھ کر تحریر کی تھی۔ اس کے علاوہ وہ ان عیسائیوں سے خطاب کرتا ہے جو فلسطین میں نہیں رہ رہے ہیں اور اس بات کی احتیاط رکھتا ہے کہ جو آرمی عبارتیں وہ استعمال کرتا ہے ان کی تشریح کر دے۔ روایت کافی الحقیقت یہ رجحان ہے کہ وہ مرقس کو روم کے مقام پر پطرس کے ساتھیوں میں بتائے۔ اس کی بنیاد پطرس کے پہلے خط کے آخری حصہ پر ہے (ہمیشہ اس بات کو ملحوظ رکھتے ہوئے کہ وہ واقعی مصنف تھا) پطرس نے اپنے خط میں تحریر کیا۔ بابل کے مقام پر موجود فرقہ جو اسی طرح انتخاب کیا ہوا ہے تمہیں مبارکباد دیتا ہے اور اسی طرح میرا بیٹا مرقس بھی تبریک پیش کرتا ہے۔ "بابل نے جس سے غالباً روم مراد ہے" ہم عالمی ترجمہ کی شرح میں پڑھتے ہیں اس سے اس وقت شارحین یہ نتیجہ اخذ کرنے میں خود کو حق بجانب خیال کرتے ہیں کہ مرقس جس کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ پطرس کے ساتھ روم میں تھا وہی انجیل کا مرتب تھا۔۔۔۔۔ یہ امر موجب حیرت ہے کہ استدلال کا یہ انداز تو نہیں ہے جو ہیراپولس کے بپتسمہ پر آپس کو ستائش کے لگ بھگ اس انجیل کو پطرس کے ترجمان اور پال کے امکانی شریک کار مرقس سے منسوب کرنے کی جانب راجع ہوا تھا۔

اس نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو مرقس کی انجیل کی تدوین کے کام کو پطرس کی وفات کے بعد قرار دیا جاسکتا ہے جو عالمی ترجمہ کے مطابق ۶۲ء اور ۶۳ء کے درمیان کا۔ اور اورکلیمان کے بموجب ۶۳ء کے لگ بھگ کا زمانہ ہے۔

خود متن سے واضح طور پر ایک بڑی کوتاہی کی نشاندہی ہوتی ہے۔ یہ تاریخی ترتیب کو قطعاً نظر انداز کرتے ہوئے لکھی گئی ہے۔ اسی لئے مرقس اپنی تحریر کے شروع میں (۱: ۱۶-۲۰) ان چار ماہی گیروں کے واقعہ کو حین کو یسوع مسیح اپنے اتباع پر آمادہ کرتے ہیں۔ محض اتنا کہہ کر ختم کر دیتے ہیں۔ "میں تمہیں انسانوں کو قابو میں کرنے والا بناؤں گا" حالانکہ وہ لوگ ان کو (حضرت یسوع مسیح کو) جانتے تک نہیں انجیل کا مرتب دوسری باتوں کے ساتھ بظاہر معقولیت کے مکمل فقدان کو ظاہر کرتا ہے۔

جیسا کہ فادر روگے نے کہا ہے "مرقس ایک بے سلیقہ مصنف ہے۔ انجیل کے مرتبین میں کمزور ترین ہے اسے یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ کسی بیان کو کسی طرح قلمبند کیا جاتے۔ یہ شارح اپنے اس جائزہ کو ایک عبارت دے کر تقویت پہنچاتا ہے۔ یہ عبارت اس بارے میں ہے کہ بارہ حواریوں کا انتخاب کیسے عمل میں لایا گیا۔ یہاں ایک لفظی ترجمہ پیش کیا جاتا ہے۔

"اور پھر وہ پہاڑ پر چڑھ گیا اور حین کو وہ آپ چاہتا تھا ان کو پاس بلایا اور وہ اس کے پاس چلے آئے اور اس نے بارہ کو مقرر کیا تاکہ وہ اس کے ساتھ رہیں اور وہ ان کو بھیجے کہ تبلیغ کریں اور یہ روحوں کو لکانے کا اختیار رکھیں۔ اور اس نے بارہ کو بتایا اور شمعون کا نام پطرس رکھا" [مرقس ۳: ۱۳]

[۱۳-۱۶]

وہ متی اور لوقا کی تردید کرتا ہے جیسا کہ صدر میں پہلے ہی یونس (یوناہ) کے نشان کے سلسلے میں دیکھا جا چکا ہے۔ نشانوں کے موضوع پر جو یسوع نے اپنے مشن کے سلسلہ میں لوگوں کو دیتے تھے مرقس [۸: ۱۱]۔

[۱۳] ایک ایسا واقعہ بیان کرتا ہے جو مشکل ہی قابل یقین کہا جاسکتا ہے۔
 ”پھر فرسی نکل کر اس سے بحث کرنے لگے اور اس کو آزمانے کے لئے اس سے کوئی آسمانی نشان طلب کیا۔ اس نے اپنی روح میں آہ کھینچ کر کہا اس زمانے میں لوگ کیوں نشان طلب کرتے ہیں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں۔ اس زمانہ کے لوگوں کو کوئی نشان نہیں دیا جائے گا۔ اور وہ ان کو چھوڑ کر پھرتی میں بیٹھا اور پار چلا گیا۔“

اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ اقرار خود حضرت یسوع مسیح کی جانب سے اپنے اس عزم و ارادہ کے سلسلہ میں ہوا ہے کہ آپ کسی ایسے عمل کا وعدہ کریں جو فوق الفطرت اور اعجاز ہو۔ اس لئے عالمی ترجمہ کے شارحین جو اس بات پر حیرت زدہ ہیں کہ لوقا تو کہتے ہیں کہ یسوع مسیح صرف ایک نشان دیں گے (وہ نشان یونس یا یوناہ کا ہے، دیکھتے متی کی انجیل وہ اس بات کو متناقض قرار دیتے ہیں کہ مرقس یہ کہیں اس زمانے کے لوگوں کو کوئی نشان نہیں دیا جائے گا۔ اسی کے ساتھ وہ یہ بھی دیکھتے ہیں حضرت یسوع مسیح خود بطور نشان معجزات پیش کرتے ہیں [لوقا ۷-۲۰ اور ۱۱-۲۰]۔

مرقس کی انجیل کو مجموعی طور پر قانونی حیثیت سے تسلیم کر لیا گیا ہے۔ پھر بھی مرقس کی انجیل کے آخری حصے [۱۶: ۱۹-۲۰] کے بارے میں جدید مصنفین کی رائے ہے کہ یہ اصل کتاب میں الحاق کیا گیا ہے۔ عالمی ترجمہ اس کے بارے میں بالکل صریح اور واضح ہے۔

یہ آخری خبر انجیل کے دو قدیم ترین مکمل مخطوطات میں شامل نہیں ہے۔ یہ مخطوطہ ویلیکن اور مخطوطہ سینٹی کس جن کا زمانہ چوتھی صدی عیسوی کا ہے۔ اور کلمان اس موضوع کے بارے میں بیان کرتے ہیں ”زیادہ جدید یونانی مخطوطات اور اس نقطہ پر بعض اختلافات نے ظہور سے متعلق ایک ایسے نتیجہ کا اضافہ کر دیا جو مرقس کی انجیل سے نہیں بلکہ دوسری انجیل سے اخذ کیا گیا ہے۔ حقیقت میں آخری اضافوں کے یہ متون نہایت کثیر ہیں۔ متون میں طویل و فصیح عبارتیں (دونوں بائبل۔ نظر ثانی شدہ معیاری اشاعت ۱۹۵۲ء۔ میں دہرائی گئی ہیں۔ بعض اوقات طویل عبارت میں کچھ اضافی مواد ہے۔

فادر کینن جی اسے خاتمہ کتاب پر حسب ذیل تبصرہ کرتے ہیں ”آخری آیتیں اس وقت دہادی گئی

۱۷ اسی گھڑی اس نے بہتوں کو بیماریوں اور آفتوں اور بڑی روجوں سے نجات بخشی اور بہت سے اندھوں کو بینائی عطا کی۔

۱۸ میں بد روجوں کو لیلز بون کی مدد سے نکالتا ہوں۔ تو خدا کی بادشاہی تمہارے پاس آئیگی۔

ہوں گی جب کہ اس کے کام کو (یا اس کے عمومی نسخے کو) سرکاری طور پر اس فرقہ نے قبول کیا جس نے اس کی صداقت و حقیقت کی ضمانت دی۔ نہ متی نے، نہ لوقا نے اور نہ یوحنا نے اس گمشدہ حصہ کو دیکھا۔ تاہم یہ خلا ناقابل قبول رہا۔ ایک طویل مدت کے بعد جب متی، لوقا اور یوحنا کی تحریریں جو تمام کی تمام اسی جیسی تھیں اشاعت پذیر ہوئیں اس وقت مرقس کی انجیل میں ایک موزوں خاتمہ کا اضافہ کر دیا گیا۔ اس کے اجزاء ان ماخذوں سے لئے گئے جو دوسری انجیلوں میں موجود تھے۔ مرقس کی انجیل کا جائزہ لے کر ان تمام اجزاء کو بہ آسانی شناخت کیا جاسکتا ہے۔ (۱۶: ۹ - ۲۰) اس سے بھی زیادہ واضح تصور اس آزاد طریقہ کا جس میں انجیلوں کے مضمون کے بیان کرنے کا یہ ادبی طرز دوسری صدی عیسوی کے آغاز سے چل کر آیا تھا حاصل کیا جاسکتا ہے۔

یہاں ہمارے لئے اس بات کا کتنا کھلا اعتراف موجود ہے کہ ایک عظیم ماہر دینیات کے خیال میں صحیفوں کے متن میں انسانوں کی کی ہوئی قطع و برید موجود ہے۔

لوقا کی انجیل

اور کلماں کے نزدیک لوقا کی حیثیت ایک وقائع نگار کی ہے اور قادر کنن جی اسے کے بقول ان کی حیثیت ایک حقیقی ناول نگار کی ہے۔ تمہید میں تھیوکلوس کو مخاطب کر کے لوقا اس امر سے آگاہ کرتے ہیں کہ میں خود ان دوسرے حضرات کی پیروی کرتے ہوئے جنہوں نے یسوع مسیح کے بارے میں واقعات قلمبند کئے ہیں ان حقائق کا بیان ضبط تحریر میں لا رہا ہوں جس میں عینی شاہدوں کے بیانات اور ان کی فراہم کردہ معلومات کو کام میں لایا جا رہا ہے۔ یہ اشارہ دیتے ہوئے کہ میں خود عینی شاہدوں میں نہیں ہوں۔ اس میں وہ معلومات بھی شامل ہیں جو رسولوں کے مواعظ سے حاصل ہوئی ہیں لہذا یہ ایک باقاعدہ ادب پارہ ہے جس کو وہ خود حسب ذیل انداز میں پیش کرتے ہیں۔

”چونکہ بہت سے لوگوں نے اس امر پر کرباندھی ہے کہ جو باتیں ہمارے درمیان واقع ہوئیں ان کو ترتیب وار بیان کریں۔ جیسا کہ انہوں نے جو شروع سے خود دیکھنے والے اور کلام کے سننے والے تھے ان کو ہم تک پہنچایا اس لئے معزز تھیوفیلیس میں نے بھی مناسب جانا کہ سب باتوں کا سلسلہ شروع سے ٹھیک ٹھیک دریافت

لے سینٹ لوقا۔ انجیل کے مرتب ایک فرانسیسی اور سینٹ پال کے حواری و ادبی طور پر میسرے انجیل انہوں نے مرتب کی۔ اس کے علاوہ سوڈا کے اعمال کے مرتب بھی وہی خیال کئے جاتے ہیں۔ (مترجم)

کر کے اُن کو تیرے لئے ترتیب سے سکھوں۔ تاکہ جن باتوں کی تو نے تعلیم پائی ہے اُن کی سختی تجھے معلوم ہو جائے۔“

پہلی ہی سطر سے وہ تمام باتیں معلوم کی جاسکتی ہیں جو لوقا کو ”روئی دھکنے والے“ مرقس سے جدا کرتی ہیں جس کی کتاب کا ہم ابھی ابھی حوالہ دے چکے ہیں۔ لوقا کی انجیل مسلسل طور پر ایک ادبی تحریر ہے جو نیم وحشی انداز سے ہٹ کر کلاسیکی یونانی میں لکھی گئی ہے۔

لوقا ایک مہذب صابی تھے جو تبدیل مذہب کر کے عیسائیت میں داخل ہوئے۔ یہودیوں کے ساتھ اُن کا بتاؤ پوری طرح واضح ہے۔ جیسا کہ اوکلمان اشارہ کرتے ہیں۔ لوقا، مرقس کی انتہائی یہودی آیتوں کو ترک کر دیتے ہیں اور حضرت عیسیٰ مسیح کے الفاظ پر یہودیوں کی بے اعتقادی کو نمایاں کر کے پیش کرتے ہیں۔ اور سامریوں کے ساتھ جن کو یہودی ذلیل سمجھتے تھے اپنے اچھے تعلقات کو ظاہر کرتے ہیں۔ دوسری طرف متی، یسوع مسیح کی زبانی حواریوں کو یہ ہدایت کرتے ہیں کہ وہ ان سے گریز اختیار کریں۔ یہ اُن بہت واضح مثالوں میں سے ایک ہے جن سے یہ حقیقت آشکارہ ہوتی ہے کہ انجیل کے مرتبین حضرت عیسیٰ سے وہی بات کہلاتے ہیں جو ان کے اپنے ذاتی نظریہ کے مطابق ہوتی ہے۔ وہ غالباً خلوص نیت سے ایسا کرتے تھے۔ وہ حضرت عیسیٰ کے الفاظ کا وہی مفہوم ہمیں بتاتے ہیں جو ان کے فرقہ کے نقطہ نظر سے مطابقت رکھتا ہے۔ اس شہادت کی موجودگی میں اس بات سے کیسے انکار کیا جاسکتا ہے کہ انجیل میں مناظراتی تحریریں ہیں یا ایسی تحریریں ہیں جو کسی موقع اور محل کی مناسبت سے وجود میں لائی گئی ہیں۔ جیسا کہ پہلے ہی ذکر کیا جا چکا ہے۔ لوقا کی انجیل اور متی کی انجیل کے عام لہجہ کے درمیان موازنہ اس اعتبار سے ایک اچھا ثبوت ہے۔

لوقا کون تھے؟ اُن کو اسی نام کے اُن طبیب سے جن کا سینٹ پال نے اپنے کئی خطوط میں حوالہ دیا ہے ملانے کی کوشش کی گئی ہے۔ عمومی ترجمہ میں بتایا گیا ہے کہ بہت سے شارحین کے نزدیک اس انجیل کے مصنف کے پیشہ طبابت کی تصدیق اس بات سے ہوتی ہے کہ وہ بیماریوں کے متعلق صحت اور طبیعت سے گفتگو کرتا ہے۔ یہ شخص فی الحقیقت انتہا سے زیادہ مبالغہ آمیز ہے۔ لوقا کے بارے میں سچ پوچھئے تو وہ اس لوح کی باتیں بیان نہیں کرتے۔ ”جو الفاظ و اصطلاحات وہ استعمال کرتے ہیں وہ ایسی ہیں جو اُس زمانہ کا کوئی بھی مہذب آدمی استعمال کرتا تھا“ ایک لوقا وہ بھی تھا جو سینٹ پال کا شریک سفر رہا لیکن کیا یہ لوقا وہی شخص ہے؟ اوکلمان کا خیال ہے کہ یہ وہی ہے۔

لوقا کی انجیل کے زمانہ کا اندازہ کئی عوامل سے لگایا جاسکتا ہے۔ لوقا نے مرقس اور متی کی انجیلوں سے کام لیا ہے۔ ہم جو کچھ عالمی ترجمہ میں پڑھتے ہیں اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ انھوں نے سن ۶۰ء میں ٹیس

۱۵ پوراٹامس فلادیس سالی نس ویسیانوس تھا۔ ۴۰ (۶۹) - ۸۱ء) رومہ اکیبری کا دوسرا فلادی شہنشاہ تھا۔ اپنے باپ کے دور حکومت میں سن ۶۰ء میں یروشلم کا محاصرہ کیا اور اُس پر قبضہ کر لیا۔ اُس کا دور حکومت رعایا کی خوشحالی کا دور سمجھا جاتا ہے (منترجم)

کی فوجوں کے ہاتھوں پر وشلیم کے محاصرہ اور اس کی تباہی کا منظر اپنی آنکھ سے دیکھا تھا۔ انجیل کا زمانہ غالباً اس سنہ کے بعد کا ہے۔ آجکل کے نام اس زمانہ کا تعین اس طرح کرتے ہیں کہ یہ تقریباً ۹۰-۸۰ء میں لکھی گئی۔ لیکن بعض حضرات زمانہ کا تعین اس سے بھی قبل کا کرتے ہیں۔

لوقا کی انجیل کا موازنہ جیب ان کے پیشروؤں سے کرتے ہیں تو بہت سے بیانات میں اہم اختلافات دکھائی دیتے ہیں۔ اس چیز کا ایک خاکہ پیشگی دیا جا چکا ہے۔ عمومی ترجمہ میں ان اختلافات کو صفحات ۱۸۱ وغیرہ پر ظاہر کیا گیا ہے۔ اوکلمان اپنی کتاب "عہد نامہ جدید (لوقا کے تیسرے تیسرے) صفحہ ۸ پر لوقا کی انجیل سے وہ تحریریں نقل کرتے ہیں جو کسی دوسری جگہ دکھائی نہیں دیتیں۔ اور وہ غیر وسیع جزوی نکات سے متعلق نہیں ہیں۔ یسوع مسیح کے بچپن کے حالات لوقا کی انجیل میں عجیب و غریب ہیں۔ متی یسوع مسیح کے بچپن کو لوقا سے مختلف طریقہ پر بیان کرتے ہیں اور مرقس اس کا بالکل ہی ذکر نہیں کرتے۔

متی اور لوقا دونوں یسوع مسیح کے نسب نامے ایک دوسرے سے مختلف بتاتے ہیں۔ اور سائنسی نقطہ نظر سے اختلافات اتنے زیادہ اور ناممکنات کا احاطہ اس قدر وسیع ہے کہ اس کتاب کا ایک مخصوص باب اسی موضوع کے لئے وقف کر دیا گیا ہے۔ اس بات کی تشریح کرنا تو آسان ہے کہ متی جن کا مخاطب یہودیوں سے تھا۔ وہ نسب نامہ کی ابتداء حضرت ابراہیم سے کرتے اور حضرت داؤد کو اس میں شامل کرتے اور یہ کہ لوقا چونکہ ایک نو عیسائی صابی تھے انہیں اس سے پہلے سے شروع کرنا چاہیے تھا۔ لیکن ہم دیکھیں گے کہ دونوں نسب نامے حضرت داؤد سے آگے چل کر بھی ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ حضرت یسوع مسیح کے مشن کو لوقا، متی اور مرقس نے بہت سے مقامات پر ایک دوسرے سے مختلف بتایا ہے۔

عیسائیوں کے نقطہ نظر سے اس قدر اہمیت کا ایک واقعہ جیسا کہ عشتائے ربانی کا قانون ہے لوقا اور باقی دو انجیلوں کے مرتبین کے درمیان اختلافی دکھائی دیتا ہے۔ فادر روگے اپنی کتاب "انجیل کے لئے ابتدائیہ" (انی تیسریوں آلیوانثرلی) میں صفحہ ۷۶ پر بیان کرتے ہیں کہ عشتائے ربانی کی رسم میں جو الفاظ استعمال کئے جاتے ہیں وہ متی کی انجیل (۲۶ : ۲۶-۲۹) کے الفاظ سے لوقا کے یہاں مختلف

۱۵ یوحنا کے ساتھ مقابلہ کرنا ممکن نہیں ہے۔ کیونکہ وہ مصائب مسیح کے قبل آخری کھانے کے دوران عشتائے ربانی کی رسم کا کوئی حوالہ نہیں دیتے۔

۱۶ اس نے اس سے کہا تو نے خود کہہ دیا۔ جیب وہ کھا رہے تھے تو یسوع نے روٹی لی اور برکت دے کر توڑی اور شاگردوں کو دے کر کہا لو کھاؤ۔ یہ میرا بدن ہے۔ پھر پیالہ لے کر شکر کیا اور ان کو دے کر کہا تم سب اس میں سے پو کیونکہ یہ میرا وہ عہد کا خون ہے جو بہتیروں کے لئے گناہوں کی معافی کے واسطے بہایا جاتا ہے۔ (متی کی انجیل ۲۶ : ۲۶-۲۹)۔

طریقہ پر بیان کئے گئے ہیں۔ (۲۲ : ۱۹ - ۲۴) اور مرقس کے یہاں (۱۴ : ۲۲ - ۲۴) تقریباً وہی ہیں وہ لکھتے ہیں۔ اس کے برخلاف لوقا سے جو الفاظ منتقل ہو کر آئے وہ بعینہ وہی ہیں جو سینٹ پال نے ادا کئے تھے (کو رنتھوں کے نام پہلا خط ۱۱ : ۲۳ - ۲۵)۔

جیسا کہ ہم نے دیکھا ہے لوقا نے اپنی انجیل میں رفع مسیح کے موضوع پر جن خیالات کا اظہار کیا ہے وہ ان سے مختلف ہے جو وہ رسولوں کے اعمال میں بیان کرتے ہیں۔ لوقا کو ان اعمال کا مصنف سمجھا جاتا ہے اور یہ عہد نامہ جدید کا جزو لاینفک ہے۔ انجیل میں رفع مسیح کے واقعہ کو ایسٹر کے دن قرار دیتے ہیں اور اعمال میں چالیس دن بعد ہم پہلے ہی دیکھ چکے ہیں کہ اس تضاد اور اختلاف نے عیسائی ماہرین کو تشریحات و تفاسیر میں کیسی عجیب تاویلات کرنے کی طرف مائل کیا ہے۔

شاعرین جو معروفی طریقہ اختیار کرتے کے خواہشمند تھے جیسے کہ بائبل کے عالمی ترجمہ کے شاعرین وہ ایک عام اصول کے طور پر یہ حقیقت تسلیم کرتے پر مجبور ہوئے ہیں۔ کہ لوقا کے لئے "خاص کام یہ نہیں تھا کہ وہ حقائق کو پوری صحت کے ساتھ بیان کریں،" جب قادر کینن جی اسے رسولوں کے اعمال کے بیانات کا جو خود لوقا نے تحریر کئے ہیں۔ یسوع کے بارے میں اسی قسم کے رفع مسیح کے واقعات کے بیان سے جو پال کا مرتبہ ہے مقابلہ کرتے ہیں تو وہ لوقا کے بارے میں حسب ذیل رائے کا اظہار کرتے ہیں۔ "لوقا چاروں انجیلوں کے مرتبین میں سب سے زیادہ حساس اور ادبی ذوق رکھنے والے ہیں اور ان میں ایک حقیقی ناول نویس کی جملہ خصوصیات پائی جاتی ہیں۔"

۱۵ پھر اس نے روٹی لی اور شکر کر کے توڑی اور یہ کہہ کر ان کو دی کہ یہ میرا بدن ہے جو تمہارے واسطے دیا جاتا ہے۔ میری یادگاری کے لئے یہی کیا کرو اور اسی طرح کھانے کے بعد پیالہ یہ کہہ کر دیا کہ یہ پیالہ میرے اس خون میں نیا عہد ہے جو تمہارے واسطے بہایا جاتا ہے۔ مگر دیکھو میرے پکڑوانے والے کا ہاتھ میرے ساتھ میز پر ہے کیونکہ ابن آدم تو جیسا اس کے واسطے مقرر ہے جاتا ہے۔ مگر اس شخص پر افسوس ہے جس کے وسیلہ وہ پکڑوا یا جاتا ہے۔ اس پردہ آپس میں پوچھنے لگے کہ ہم میں سے کون ہے جو یہ کام کریگا۔ اور ان میں یہ تکرار بھی ہوئی کہ ہم سے کون بڑا سمجھا جاتا ہے۔ (لوقا کی انجیل ۲۲ : ۱۹ - ۲۴)۔

۱۶ اور وہ کھا ہی رہے تھے کہ اس نے روٹی لی اور برکت دے کر توڑی اور ان کو دی اور کہا میرا یہ بدن ہے پھر اس نے پیالہ لے کر شکر کیا اور ان کو دیا اور ان سبھوں نے اس میں سے پیا۔ (مرقس کی انجیل ۱۴ : ۲۲ - ۲۴)۔

۱۷ کیونکہ یہ بات مجھے خداوند سے پہنچی اور میں نے تم کو بھی پہنچا دی کہ خداوند یسوع نے جس رات کو وہ پکڑوا یا گیا روٹی لی اور شکر کر کے توڑی اور کہا میرا بدن ہے اور تمہارے لئے ہے میری یادگاری کے واسطے یہی کیا کرو اسی طرح اس نے کھانے کے بعد پیالہ بھی لیا اور کہا "یہ پیالہ میرے خون میں نیا عہد ہے جب کبھی ہو

میری یادگاری کے لئے یہی کیا کرو۔" (۱۱ : ۲۲ - ۲۵)

یوحنا کی انجیل

یوحنا کی انجیل بنیادی طور پر باقی تین سے بالکل مختلف ہے یہ اختلاف حقیقت میں اس حد تک ہے کہ قادر روگے اپنی کتاب "انجیل کا ابتدائیہ" میں باقی تین پر تبصرہ کرنے کے فوراً بعد چوتھی انجیل کے لئے ایک چوتھا دینے والا بیان پیش کرتے ہیں۔ وہ اس کو "ایک مختلف دنیا قرار دیتے ہیں۔ واقعی یہ ایک منفرد کتاب ہے۔ ترتیب میں مختلف، موضوع کے انتخاب میں مختلف، بیان اور زبان میں مختلف، طرز بیان۔ جغرافیہ، نسب نامہ میں مختلف یہاں تک کہ دینی تصورات و نظریات میں بھی اختلافات موجود ہیں (او کلیمان)۔ چنانچہ یوحنا نے یسوع مسیح کے الفاظ کو بھی دیگر انجیل کے مرتبین سے مختلف طریقہ پر درج کیا ہے۔ اس معاملہ میں قادر روگے کا بیان ہے کہ جہاں پہلے تین مرتبین انجیل (سنو پیکس) یسوع کے الفاظ کو ایسے انداز میں پیش کرتے ہیں جو جازب توجہ اور روایتی طرز سے قریب تر ہے وہیں یوحنا کے ہاں سب کچھ تخیلی ہے۔ اس حد تک ترغیب و تحریص دینے والا کہ "بعض اوقات ایک شخص اچھے میں پڑ جاتا ہے کہ کیا یسوع اب بھی ہم کلام ہو رہے ہیں یا ان کے خیالات غیر محسوس طور پر انجیل کے مرتب کے اپنے خیالات کے ذریعہ توسیع تو نہیں پا گئے ہیں مصنف کون تھا؟ یہ ایک نہایت اہم سوال ہے اور اس موضوع پر انتہائی مختلف رائیں پیش کی گئی ہیں۔"

اے ٹریسٹ اور قادر روگے ایک ایسی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں جن کو اس بارہ میں ذرہ بھر شک و شبہ نہیں ہے کہ یوحنا کی انجیل ایک عینی شاہد کا کام ہے اس کے مصنف یوحنا بن زبیری ہیں جو جیمس کے بھائی تھے۔ اس حواری کے بارے میں بہت سی تفصیلات معلوم ہیں۔ اور کتابوں میں عام اشاعت کے لئے درج کی گئی ہیں۔ عام تھا ویر میں انھیں یسوع کے بہت قریب دکھایا جاتا ہے جیسا کہ دور ابتلا سے قبل آخری دعوت کے موقع پر اس بات کا کون تصور کر سکتا ہے کہ یوحنا کی انجیل ان یوحنا حواری کی تصنیف نہیں ہے جو اس قدر مانوس شخصیت کے مالک ہیں۔

۱۵ انجیل کے مرتب، زبیری کے بیٹے اور بارہ حواریوں میں سے تھے۔ وہ چوتھی انجیل کے مرتب سمجھے جاتے ہیں۔ کتاب وحی بھی ان ہی سے منسوب کی جاتی ہے۔ (مترجم)

۱۶ کتب متفقہ یعنی متی، مرقس اور لوقا کی انجیلیں جن کی ترتیب یکساں ہے یہ خلاف یوحنا کی انجیل کے جو ان سے کسی قدر مختلف ہے۔ (مترجم)

یہ حقیقت کہ چوتھی انجیل اس قدر تاخیر سے لکھی گئی اس رائے کے خلاف ایک اہم دلیل نہیں ہے اس کا فیصلہ کن نسخہ غالباً پانچویں صدی عیسوی کے اختتام کے لگ بھگ لکھا گیا۔ وقت کا یہ تعین کرتا کہ یہ یسوع سے ساٹھ سال بعد تحریر کیا گیا اس امر کو مستلزم ہے کہ وہ حواری حضرت یسوع کے وقت میں نہایت تو عمر تھے اور ان کا سن تقریباً سو سال کا ہوا۔

فادر کینن جی اسے اپنی تصنیف "رفع مسیح کا مطالعہ" میں اس نتیجہ پر پہنچتے ہیں کہ عہد نامہ جدید کے مصنفین میں سے سوائے پال کے اور کوئی بھی رفع مسیح کے عینی شاہد ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ تاہم یوحنا نے ظہور کے متعلق کئی حواریوں کے ایک مجمع کو جس کا غالباً وہ ایک رکن تھا۔ طامس کی غیر حاضری میں بتایا (۲۰: ۱۹-۲۲)۔ پھر آٹھ دن بعد حواریوں کے مکمل اجتماع کے سامنے بیان کیا (۲۰: ۲۵-۲۹)۔

اوکلمان اپنی تصنیف "عہد نامہ جدید" میں اس نظریہ کی حمایت نہیں کرتے۔ بائبل کے عالمی ترجمہ سے پتہ چلتا ہے کہ ناقدین کی اکثریت اس مفروضہ کو تسلیم نہیں کرتی کہ انجیل یوحنا نے تحریر کی ہے۔ اگرچہ امکان کو کلیتہً مسترد نہیں کیا جاسکتا۔ غرض ہر چیز اس حقیقت کی نشاندہی کرتی ہے کہ چوتھں اس وقت ہمارے علم میں ہے اس کے کئی مصنفین ہیں۔ غالب گمان ہے کہ انجیل جس شکل میں یہ آج ہے مصنف کے شاگردوں کے درمیان چکر لگاتی رہی ہو جنہوں نے باب ۲۱ اور اسی طرح کئی امکانی تحفے (یعنی ۲۰: ۲ اور ۱۰: ۴)؛ ۲۴: ۲۴؛ ۳۷: ۳۷؛ ۲۰: ۱۱؛ ۲۵: ۱۹) کا اضافہ کیا ہو۔ جہاں تک کہ بدکار عورت کا تعلق ہے (۵۸۰-۱۱۰۸) ہر شخص اس بات پر متفق ہے کہ یہ ایک ایسا ٹکڑا ہے جس کا ماخذ نامعلوم ہے اور بعد میں داخل کیا گیا ہے (لیکن پھر بھی مستند صحیفہ سے تعلق رکھتا ہے۔ پارہ ۱۹: ۳۵ ایک عینی شاہد کے دستخط کے طور پر دکھائی دیتا ہے) جو یوحنا کی تمام انجیل میں صرف ایک ہی علیحدہ دستخط ہیں۔ لیکن شارحین کو یقین ہے کہ یہ بعد میں ایزا د کئے گئے ہیں۔

اوکلمان کا خیال ہے کہ اس انجیل میں بعد کے اضافے بالکل ظاہر ہیں۔ جیسے باب ۲۱ جو غالباً حواری کے کسی ایک شاگرد کا کام ہے جس نے انجیل کے اصل متن میں خفیف سی تبدیلیاں خاصی تعداد میں کی ہیں۔

ان تمام نظریات و مفروضات کا حوالہ دینا ضروری نہیں ہے جو ماہرین نے تفسیروں میں بتائے ہیں جو مارک عیسائی مذہب کے نہایت سزبر آوردہ مصنفین نے چوتھی انجیل کے مرتب کے سوالات پر کئے ہیں اور جو یہاں درج کئے جا چکے ہیں وہ یہ بات بتانے کے لئے کافی ہیں کہ اس کی ترتیب

ذالیف کے موضوع کے سلسلہ میں کس قدر الجھن پائی جاتی ہے۔

یوحنا کے بیان کردہ قصوں کی تاریخی قدر و قیمت بڑی حد تک بحث اور نزاع کا موضوع بن چکی ہے ان قصوں اور دوسری تین انجیلوں میں تناقض قطعاً بدیہی ہے۔ اوکلمان اس کے لئے ایک وضاحت پیش کرتے ہیں۔ وہ یوحنا کے یہاں دوسری انجیلوں کے مصنفین سے مذہب کا ایک مختلف نظریہ بتاتے ہیں۔ یہ مقاصد قصوں کے انتخاب کو ان الفاظ سے مختلف کر دیتے ہیں۔ جو درج کئے گئے ہیں۔ نیز اس طریقہ سے پھیر دیتے ہیں جس میں وہ بیان کئے گئے ہیں اس طرح مصنف اکثر ان خطوط کو طول دے دیتا اور تاریخی یسوع سے وہی کچھ کہلواتا ہے جو روح القدس نے خود ان پر القا کئے تھے، تفسیر زیر غور کے لئے یہ وہ دلیل ہے جو تضاد کے سلسلہ میں پیش کی گئی ہے۔

یہ امر یقیناً قابل فہم ہے کہ یوحنا نے جنہوں نے دوسری انجیلوں کے مصنفین کے بعد لکھنا شروع کیا اپنے لئے بعض ایسے قصے منتخب کر لئے تھے جو ان کے نظریات کی وضاحت کے لئے موزوں و مناسب تھے۔ یہ امر تعجب خیز نہیں ہونا چاہیے کہ بعض بیانات جو دوسری انجیلوں میں شامل ہیں یوحنا کی انجیل میں موجود نہیں۔ عالمی ترجمہ نے ایسی چند مثالوں کی نشان دہی کی ہے (صفحہ ۲۸۲)۔ لیکن بعض خلاہ مشکل قابل فہم نظر آتے ہیں۔ مثلاً یہ واقعہ کہ عشاء پانی کی رسم کا ذکر نہیں کیا گیا ہے۔ یہ بات ناقابل تصور ہے کہ ایک ایسا واقعہ جو عیسائیت کے لئے اس قدر بنیادی حیثیت رکھتا ہو یعنی ماس کی رسم اس کا ذکر یوحنا جو انجیل کے مصنفین میں اس قدر مستند سمجھے جاتے ہیں بالکل نہ کریں۔ واقعہ یہ ہے کہ دور ابتدا سے قیل کی دعوت طعام کے ذکر میں وہ خود کو محض حواریوں کے پاؤں دھلانے کے تذکرہ یہودہ کی غداری اور پطرس کے انکار تک ہی محدود رکھتے ہیں۔

اس کے مقابلہ میں ایسے قصے موجود ہیں جن میں یوحنا متفرد ہیں۔ اور جو دوسرے تین حضرات کے یہاں نہیں پائے جاتے عالمی ترجمہ میں ان کا ذکر کیا گیا ہے (صفحہ ۲۸۲) یہاں پھر اس بات پر نظر کی جاسکتی ہے کہ تین مصنفین نے ان قصوں کی وہ اہمیت نہیں سمجھی جو یوحنا نے سمجھی تھی۔ لیکن یہ امر مشکل ہے کہ کوئی شخص اس صورت میں چونکہ نہ پڑے جب وہ یوحنا کے یہاں یسوع کے ظہور کا تذکرہ دیکھے کہ کیونکر وہ بحیرہ طبریہ کے قریب اپنے حواریوں کے سامنے مردوں میں سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے (یوحنا ۲۱، ۱-۱۲)۔ یہ بیان کسی طرح بھی مچھلیاں پکڑنے کے اس معجزہ سے کم

۱۔ فلسطین کا جنوبی حصہ جو یہودہ کے بعد ایرانی، یونانی اور رومی سلطنتوں میں شامل رہا۔ مغرب میں یہ علاقہ بحیرہ روم تک پھیلا ہوا تھا۔ پومپی کی فتح کے بعد یہ علاقہ سلطنت رومہ کا ایک حصہ بن گیا۔ (مترجم)

نہیں ہے (جس میں متعدد اضافی تفصیلات موجود ہیں) جو لوقا (۶ : ۱۰ - ۱۱) ایک قصہ کے طور پر جو یسوع کی زندگی میں واقع ہوا تھا پیش کرتے ہیں۔ اپنے بیان میں لوقا یوحنا حواری کی موجودگی کا حوالہ دیتے ہیں۔ جو روایت کے بموجب انجیل کے ایک مرتب تھے۔ چونکہ یوحنا کی انجیل میں یہ تذکرہ باب ۲۱ کا ایک حصہ ہے جس پر سب کا اتفاق ہے کہ بعد کا اضافہ ہے اس لئے یہ بات آسانی سے سمجھی جاسکتی ہے کہ لوقا کے ہاں یوحنا کا حوالہ چوتھی انجیل میں اس کے مصنوعی اضافہ کی دلیل ہے۔ یسوع کی زندگی ایک نامعلوم تذکرہ کی شکل میں ایک بیان کو ڈھالنے کی ضرورت کسی طرح بھی انجیل کے مصنف کی عبارت کو تحریف سے نہیں بچا سکتی تھی۔

ایک اور اہم نکتہ جس پر یوحنا کی انجیل میں باقی تین سے اختلاف پایا جاتا ہے وہ ہے یسوع کے مشن کی مدت مرقس، متی اور لوقا اس مدت کو ایک سال بتاتے ہیں۔ یوحنا اس کو دو سال پر بھیل دیتے ہیں۔ اوکلمان اس حقیقت کو نوٹ کرتے ہیں۔ اس موضوع پر عالمی ترجمہ کا بیان حسب ذیل ہے۔

”مرقس اور لوقا کی انجیلیں جیل (گیلیلی) کے مقام پر قیام کو طویل بتاتی ہیں۔ جس کے بعد کوچ ہوتا ہے۔ جو کم و بیش جو دس کی جانب ممتد ہوتا چلا جاتا ہے اور آخر کار یروشلم میں ایک مختصر قیام ہوتا ہے۔ اس کے برخلاف یوحنا ایک علاقہ سے دوسرے علاقہ کی جانب اکثر اسفار کا تذکرہ کرتے ہیں اور جو دس کے مقام پر قیام کو طویل بتاتے ہیں۔ خصوصاً یروشلم میں (۱ : ۱۹ - ۶۱ : ۲) : ۱۰، ۱ : ۵ - ۱۲، ۱۲ : ۲۰ - ۲۱) وہ کئی عید مسیح کی تقریبات کا بھی ذکر کرتے ہیں (۲ : ۱۹، ۵ : ۱، ۶ : ۴، ۱۱ : ۵۶) اور اس طرح ایک دور وزارت قرار دیتے ہیں جو دو سال سے زیادہ مدت تک قائم رہا۔

ان میں سے کس ایک پر کوئی یقین کرے — مرقس پر، متی پر، لوقا پر یا یوحنا پر

انجیلوں کے ماخذ

انجیلوں کا یہ عمومی خاکہ جو یہاں دیا گیا ہے اور جو متون کے تنقیدی جائزہ سے اٹھتا ہے کسی فرد کو بھی ایک ایسے لٹریچر کے بارے میں سوچنے کی جانب مائل کرتا ہے جو ایک ایسے پلان کے ساتھ کاٹا گیا ہے جس میں تسلسل کی کمی ہے اور بظاہر ناقابل عبور تناقض پایا جاتا ہے۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو اس فیصلہ میں استعمال ہوئے ہیں جو بائبل کے عالمی ترجمہ کے شارحین نے ان پر نافذ کیا ہے۔ ان کی سند پر غور کرنا ضروری ہے کیونکہ اس مضمون کی بیاچ پڑتال کے نتائج نہایت

شدید اور اہم ہیں۔ یہ بات پہلے ہی دیکھی جا چکی ہے کہ جس زمانہ میں انجیلیں لکھی گئی تھیں اُس وقت کی مذہبی تاریخ سے متعلق بعض تصورات نے کس طرح اس ادب کے کچھ بدحواس کرنے والے پہلوؤں کی تشریح کرنے میں غور و فکر کرنے والے قاری کو مدد دی تھی۔ تاہم ضروری ہے کہ اس بات کو جاری رکھتے ہوئے اس امر کا پتہ لگائیں کہ موجودہ زمانہ کی کتابیں ان ماخذوں کے بارے میں کیا اطلاع دیتی ہیں جو اپنے متنوں کو تحریر کرتے وقت انجیلوں کے مرتبین کام میں لائے تھے۔ یہ جانتا بھی دلچسپ ہو گا کہ آیا متون کی اس وقت کی تاریخ جب وہ قائم کئے گئے تھے بعض ان پہلوؤں کی تشریح میں مدد و معاون ثابت ہو سکتی ہے۔ جو یہ متون موجودہ زمانہ میں پیش کر رہے ہیں۔

کلیسا کو قائم کرنے والوں کے زمانہ میں ماخذوں کے مسئلہ تک رسائی نہایت سیدھے سادے انداز میں ہوئی تھی۔ عیسائیت کی ابتدائی صدیوں میں وہ واحد ماخذ جو دستیاب تھا انجیل تھی جس کا مکمل مخطوطہ پہلے پہل پیش کیا گیا تھا۔ یعنی متی کی انجیل۔ ماخذ کا مسئلہ بھی صرف مرقس اور لوقا سے متعلق تھا اس لئے کہ یوحنا کا معاملہ تو بالکل ہی جداگانہ تھا۔ سینٹ آگسٹائن کا کہنا ہے کہ مرقس جو روایتی ترتیب میں دوسرے نمبر پر آتے ہیں متی سے متاثر ہوئے تھے اور انھوں نے ان ہی کی کتاب کی تلخیص کر دی تھی۔ انھوں نے مزید بتایا کہ لوقا نے جو مخطوطات کے اعتبار سے تیسرے درجے پر آتے ہیں۔ ان دونوں سے مواد حاصل کیا۔ ان کا ابتدائیہ اس امر کی نشاندہی کرتا ہے اور اس پر پہلے ہی بحث کی جا چکی ہے۔

اُس زمانہ کی تفسیر میں بیان کرنے والے ماہرین اس بات کا اندازہ لگانے کی اتنی ہی صلاحیت رکھتے ہیں جتنی ہم کہ منون اور دو یا تین کتب متفقہ کی مشترک آیات کی کثیر تعداد کے ماہرین کس درجہ مطابقت ہے۔ اسیکل یا نیل کے عالمی ترجمہ کے شارحین مندرجہ ذیل اعداد فراہم کرتے ہیں۔

مرقس، لوقا اور متی کی تینوں انجیلوں کی مشترک آیات	۳۳۰
مرقس اور متی کی مشترک آیات	۱۷۸
مرقس اور لوقا کی مشترک آیات	۱۰۰
متی اور لوقا کی مشترک آیات	۲۳۰

پہلی تین انجیلوں میں سے ہر ایک کے ساتھ منفرد آیات کی تعداد حسب ذیل ہے:۔ متی ۳۳۰، مرقس ۵۳ اور لوقا ۵۰۰

ابتدائی دور کے عیسائی مصنفین (فادرس آف دی چرچ) کے زمانہ سے لگا کر اٹھارویں

صدی عیسوی کے اختتام تک ڈیڑھ ہزار سال کی مدت گزر گئی اور کوئی مسئلہ کھڑا نہیں ہوا کہ انجیلوں کے مرتبین کے ماتخذوں کا پتہ چلا یا جائے۔ لوگ روایت پر چلتے رہے۔ ازمنہ جدید میں جا کر ان اعداد کی بنیاد پر کہیں یہ بات محسوس کی گئی کہ انجیل کے مصنف نے دوسروں سے مواد لیا اور اپنے ذاتی نظریات کے مطابق اپنے مخصوص انداز میں اس کو ترتیب دے دیا۔ زیادہ زور بیان کرنے کے لئے مواد کے جمع کرنے پر دیا گیا۔ یہ مواد ایک طرف ان قوموں کی زبانی روایات پر مبنی تھا جن سے یہ حاصل ہوا تھا اور دوسری طرف اس تحریر آرمی ماتخذ سے حاصل ہوا تھا جو دوبارہ منظر عام پر نہیں آسکا ہے۔ یہ تحریریں ماتخذ یا تو یکجا مواد تھا یا مختلف روایتوں کے بہت سے ٹکڑے تھے جن کو ترتیب دے لیا گیا اور اسی کو انجیل کے ہر مرتب نے اپنے جدید کام کو تشکیل دینے میں استعمال کیا۔

تقریباً گزشتہ سو سال سے زیادہ گہرے مطالعہ نے ان نظریات تک پہنچایا ہے جو زیادہ تفصیلی ہیں۔ اور جو امتداد و زمانہ سے اور بھی زیادہ پیچیدہ ہو جائیں گے۔ جدید نظریات میں پہلا نام نہاد "ہولٹزماں کا دو ماتخذی" نظریہ ہے (۱۸۶۸ء) اوکلمان اور عالمی ترجمہ اس بات کی وضاحت کرتے ہیں کہ اس نظریہ کے بموجب متی اور لوقا دونوں ایک طرف مرقس سے متاثر ہوئے ہوں۔ اور دوسری جانب کسی دوسری مشترک دستاویز سے جو اس کے بعد ضائع ہو گئی ہے۔ علاوہ ازیں پہلے دو میں سے ہر ایک کے اپنے ذاتی ماتخذ بھی ہیں۔ اس بات سے مندرجہ ذیل خاکہ کی جانب رہبری ہوتی ہے۔



او۔ کلمان محولہ بالا پر حسب ذیل نکات کو سامنے رکھ کر تنقید کرتے ہیں۔

(۱) مرقس کی تصنیف جس کو لوقا اور متی دونوں کام میں لائے وہ غالباً مصنف کی انجیل نہیں

تھی بلکہ اس کا ایک ابتدائی نسخہ تھا۔

(۲) اس خاکہ میں زبانی روایت پر کافی زور نہیں دیا گیا ہے یہ بے انتہا اہمیت کا حامل دکھائی دیتا ہے۔ کیونکہ تنہا اسی میں یسوع کے الفاظ کو محفوظ رکھا گیا ہے اور میں پانچالیس سال کی مدت کے دوران ان کے مشن کے تذکرے کو قائم و برقرار رکھا گیا ہے۔ کیونکہ انجیل کے مرتبین میں سے ہر ایک اس عیسائی فرقہ کا محض ایک ترجمان تھا جس نے زبانی روایت کو تحریر کا جامہ پہنایا۔

یہی وہ چیز ہے جس سے یہ نتیجہ اخذ کرنا ممکن ہوا کہ حیرانجلیوں اس وقت موجود ہیں وہ پر تو ہیں
اس واقفیت کا جو ابتدائی عیسائی فرقے یسوع مسیح کی حیات اور پادریوں کی جماعت کے بارے
میں رکھتے تھے۔ وہ ان عقائد اور دینی تصورات کی آئینہ دار بھی ہیں جن کے انجیلوں کے مرتبین
ترجمان تھے۔

اناجیل کے ماخذوں پر تین سے متعلق تنقید کے جدید ترین مطالعہ نے یہ امر صاف طور
پر واضح کر دیا ہے کہ متون کی تشکیل میں اور بھی زیادہ پیچیدگی اختیار کی گئی ہے فادر بے
نوئے اور بوسمار نے جویر وشلیم کے بائبل اسکول کے پروفیسر میں (۱۹۷۲ - ۱۹۷۳) ایک
کتاب میں جس کا نام "اناجیل اربعہ کا خاکہ" ہے اس بات پر زور دیا ہے کہ متن کا ارتقاء ان
مدارج سے ہوا جو روایت کے ارتقاء کے متوازی اور پہلو بہ پہلو ہے۔ یہ ان نتائج پر دلالت
کرتا ہے جو فادر بے نوئے نے فادر بوسمار کی تحریر کے حصہ کے ابتدائیہ میں قائم کئے ہیں۔ وہ
ان کو حسب ذیل الفاظ میں پیش کرتے ہیں۔

"(.....) اس بیان و عبارت کے الفاظ اور شکل جو روایت کے ایک طویل
ارتقاء سے برآمد ہوئے ہیں۔ اس قدر مستند نہیں ہیں جیسے کہ شروع کی عبارت کے
ہیں۔ اس کتاب کے بعض قارئین غالباً یہ جان کر متعجب یا متوحش ہوں گے کہ یسوع
کے بعض اقوال، حکایتیں یا اپنے انجام کے متعلق ان کی پیشگوئیاں اس انداز
سے بیان نہیں کی گئیں تھیں۔ جس انداز سے ہم آج ان کو پڑھتے ہیں۔ بلکہ وہ
ان لوگوں کے ہاتھوں بدل دی گئی ہیں یا تحریف کر دی گئی ہیں جنہوں نے ان
کو ہم تک منتقل کیا ہے۔ یہ بات ان لوگوں کے لئے جو اس قسم کی تاریخی تحقیق
کے خوگر نہیں ہیں حیرت کا موجب یا ایک شرمناک واقعہ ہوگی۔"

متون میں تبدیلیاں اور تحریفات جو ان لوگوں کے ہاتھوں ہوئے جنہوں نے ان متون
کو ہم تک منتقل کیا ایک ایسے طریقہ سے انجام پائیں جس کی فادر بوسمار ایک انتہائی پیچیدہ شکل
کے ذریعہ سے تشریح کرتے ہیں۔ یہ ایک نام نہاد "دو ماخذی نظریہ" کی ارتقائی شکل ہے اور یہ
متون کی جانچ اور ان کے موازنہ کا ایک ایسا ما حاصل ہے جس کی تلخیص یہاں کرنا ممکن نہیں۔ جو
قارئین مزید تفصیلات حاصل کرنے کے خواہشمند ہیں وہ اس ابتدائی تحریر سے رجوع کریں
جو لے ایڈیٹیوں و سرف۔ پاری، نے شائع کی ہے۔

چار بنیادی دستاویزات۔ اے۔ بی۔ سی اور کیو انجیلوں کے ابتدائی ماخذات کو

ظاہر کرتے ہیں (ملاحظہ ہو عام شکل) صفحہ ۱۰۰
 دستاویزے، ایک یہودی۔ عیسائی ماخذ سے حاصل ہوئی ہے۔ متی اور مرقس دونوں کو
 اس سے تحریک ملی۔

دستاویز "بی" دستاویزے کی ایک وضاحت ہے جو بے دین۔ مع۔ عیسائی کلیساؤں
 میں استعمال کئے جانے کے لئے تیار کی گئی تھی۔ سولے متی کے انجیلوں کے جملہ مرتبین کو اس
 سے تحریک ہوئی ہے۔

دستاویز "سی" سے مرقس، لوقا اور یوحنا کو تحریک ہوئی۔

دستاویز "کیو" متی اور لوقا کے مشترک ماخذات میں سے اکثر پر مشتمل ہے یہ "اس" دو

ماخذی نظریہ، میں مشترک دستاویزے جس کا حوالہ پہلے دیا جا چکا ہے۔


ان بنیادی دستاویزات میں سے کسی سے بھی وہ قطعی اور فیصلہ کن متون تیار نہیں
 ہوئے جو آج ہمارے علم میں ہیں۔ ان اشاعتوں اور آخری اشاعتوں کے درمیان متوسط قسم
 کی اور اشاعتیں ہیں۔ متوسط متی، متوسط مرقس، متوسط لوقا اور متوسط یوحنا۔ ان چار متوسط
 دستاویزات سے ہی چاروں انجیلوں کے آخری نسخے تیار ہوئے۔ نیز ان ہی نے دوسری
 انجیلوں کے آخری متناظر نسخوں کے لئے تحریک پیدا کی صرف اس شکل پر نظر ڈالنا ہے۔ اسی
 سے اس پیچیدہ تعلق کا پتہ چل جائے گا۔ جس کا اظہار مصنف نے کیا ہے۔

صحیفوں کی تحقیق کے یہ نتائج بڑی اہمیت کے حامل ہیں ان سے یہ بات معلوم ہوئی
 ہے کہ کس طرح انجیل کے متون کی ایک تاریخ ہے جس پر بعد میں بحث کی جائے گی (فادرلوا سمار
 کے الفاظ میں ایک ماقبل تاریخ بھی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آخری نسخوں کے ظہور میں
 آنے سے پہلے ان کو متوسط دستاویزی درجہ کی تبدیلی سے بھی گزرنا پڑا ہے۔ اس طرح مثال
 کے طور پر اس بات کی تشریح کرنا ممکن ہے کہ مسیح کی زندگی سے ایک نہایت معروف قصہ
 جیسے مچھلی پکڑنے کا معجزہ، لوقا کی انجیل میں ایک ایسے واقعہ کے طور پر پیش کیا گیا ہے جو مسیح
 کی زندگی میں پیش آیا تھا اور یوحنا کے ہاں اس کو رفع مسیح کے بعد ان کے ظہور کے طور
 پر دکھایا گیا ہے۔

مذکور بالا بحث سے جو نتیجہ مستنبط ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم انجیل کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں
 ذرا بھی اس بات کا یقین نہیں ہوتا کہ ہم مسیح کے الفاظ پڑھ رہے ہیں۔ "فادرلوا سمار" نے انجیل کے
 قارئین سے خطاب کرتے ہیں اور ان کو متنبہ کرتے ہوئے حسب ذیل صلہ ان کو دیتے ہیں۔

اگر قاری ایک سے زیادہ حالت میں اس خیال کا دامن ہاتھ سے چھوڑنے پر مجبور ہو جائے کہ وہ یسوع کی آواز براہ راست سُن رہا ہے تب بھی یہ سمجھ لے کہ وہ کلیسا کی آواز تو سنتا ہے اور وہ اس پر اسی طرح مالک کے روحانی مقررہ ترجمان پر بھروسہ کرے کہ اسی نے طویل عرصہ تک اس سطح ارض پر گفتگو کی تھی اور اب وہ اپنے جمال روحانی کے پردے سے ہم سے ہم کلام ہے۔ بعض متون کی غیر مستند عبارتوں کو دوسری ویٹیکن کونسل کے ذریعہ حاصل ہونے والے الہام پر مبنی اعتقادی آئین میں مستعمل عبارت کے ساتھ کیسے اس طرح مطابقت دی جاسکتی ہے کہ ہمیں مخالف بیان پر یقین آجائے۔ یعنی یسوع کے الفاظ کے صحیح طور پر منتقل ہونے کا۔ یہ چاروں انجیلیں جن کو یہ (کلیسا) نہایت یقین کے ساتھ تاریخی اعتبار سے مستند قرار دیتا ہے نہایت دیانتداری سے وہ باتیں منتقل کرتی ہے جو حضرت عیسیٰ ابن اللہ نے نوع انسانی کے درمیان رہتے ہوئے اپنی حیات میں واقعی کی یا بتائی تھیں تاکہ ان کی ابدی نجات ممکن ہو اور یہ سلسلہ اُس دن تک جاری رہا تھا جب ان کو آسمان پر اٹھایا گیا۔ یہ بالکل واضح ہے کہ یروشلم کے بائبلکل اسکول کا کام کونسل کے اعلان کی قطعاً تردید کرتا ہے۔

ایم۔ ای۔ بوسمار۔ چاروں انجیلوں کا خاکہ۔ عمومی نقشہ سنو پیس وے کیترا یوانٹریلیپ



دستاویزات اے، بی، سی، کیو = بنیادی دستاویزات جو متون کی

ترتیب میں مستعمل ہوئی ہیں۔

= متن کا متوسط نسخہ

متوسط



متنوں کی تاریخ

اگر کوئی شخص یہ سمجھے تو وہ غلطی کرے گا کہ انجیلیں جب ایک مرتبہ لکھی گئیں تو ان میں تو زائیدہ عیسائیت کے بنیادی صحیفے شامل تھے اور لوگ ان سے اسی طرح رجوع کرتے تھے جس طرح عہد نامہ قدیم سے۔ اُس وقت اولین سندزبانی روایت تھی جس کو یسوع کے ارشادات اور حواریوں کی تعلیمات کا ذریعہ قرار دیا جاتا تھا۔ اشاعت کے لئے پہلی تحریریں پال کے خطوط تھے اور وہ انجیلوں سے کافی عرصہ پہلے سے رواج پا چکے تھے۔ وہ بہر حال کئی وہ سالہ پہلے ضبط تحریر میں آچکے تھے۔

یہ بات پہلے ہی بتائی جا چکی ہے کہ اس بات کے برعکس جو آج بھی بعض شارحین لکھ رہے ہیں، ۱۲۰ء سے پہلے کوئی بھی ایسا شاہد موجود نہیں تھا جس کو یہ علم ہو کہ انجیل کے کسی مجموعہ کا کوئی نسخہ موجود تھا۔ ۱۲۰ء کے بعد جا کر کہیں یہ معلوم ہوا کہ چاروں انجیلوں نے شریعت کے لٹریچر کا درجہ پایا۔

عیسائیت کے ابتدائی ایام میں، یسوع کے حالات کے سلسلہ میں بہت سی تحریریں رائج تھیں۔ وہ بعد کے زمانہ میں استناد طور پر محفوظ نہیں رکھی گئیں۔ اور کلیسا نے ان کو چھپا دینے کا حکم دے دیا اور اس لئے ان کا نام "اسفار محرفہ" پڑ گیا۔ ان کتابوں کے بعض متنوں اچھی طرح باقی رہ گئے۔ ان کو اس حقیقت سے فائدہ پہنچ گیا کہ وہ مقبول عام تھے۔ یہ منقولہ ہے عمومی ترجمہ کا۔ یہی بات برناباس کے خطوط کے لئے بھی صحیح تھی کہ بدقسمتی سے دوسری تحریریں نہایت درندگی سے نکال ڈالی گئیں اور ان کے صرف ٹکڑے باقی رہ گئے۔ ان کو غلطی کے نام پر قرار دے دیا گیا اور عقیدہ مندوں کی نظروں سے چھپا دیا گیا۔ ایسی کتابیں جیسی نظارت کی انجیلیں عبرانیوں کی انجیلیں اور مصریوں کی انجیلیں جن کا علم ابتدائی پادریوں کے اقتباسات سے ہوتا تھا پھر بھی مستند شرعی انجیلوں سے خاصا گہرا تعلق رکھتی تھیں۔ یہی بات طامس کی انجیل اور برناباس کی انجیل پر صادق آتی ہے۔

ان اسفار محرفہ قسم کی تحریروں میں بعض فرضی تفصیلات ہیں جو عوامی نوعیت کی داستانوں

کی پیداوار ہیں۔ اسفارِ محرفہ کے سلسلہ میں جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان کے مصنفین پورے وثوق کے ساتھ ایسی عبارتیں بھی دہراتے ہیں جو سچ مچ مضحکہ خیز ہیں۔ تاہم اس قسم کی عبارتیں تمام انجیلوں میں دکھائی دیتی ہیں۔ ذرا ان واقعات کے فرضی بیانات پر غور کیجئے جو متی کے ادعا کے بموجب مسیح کی رحلت کے موقع پر رونما ہوئے تھے۔ اس بات کا امکان موجود ہے کہ عیسائیت کی تمام ابتدائی تحریروں میں ایسی عبارتیں مل جائیں جن میں سنجیدگی کی کمی ہو۔ اس بات کو تسلیم کرنے کے لئے کافی دیا تزاری کا اظہار کرنا پڑے گا۔

مسیح سے متعلق لٹریچر کی کثرت نے کلیسا کو اس جانب مائل کیا کہ جب مؤخر الذکر ترتیب کے مرحلہ سے گزر رہا تھا۔ اس وقت اس میں قطع و برید سے کام لے۔ غالباً ایک سو انجیلیں و باقی گئیں۔ صرف چار کو باقی رکھا گیا اور عہد نامہ جدید کی تحریرات کی سرکاری فہرست میں اس طرح ان کو جگہ دی گئی کہ وہی مسہرہ و مصدقہ کتب کہلائی جاتے لگیں۔

دوسری صدی عیسوی کے وسط میں مقام سنوپ کے مارسیون نے کلیسائی مقتدرین پر بڑا زور ڈالا کہ وہ اس بارے میں سخت رویہ اختیار کریں۔ یہ صاحب یہودیوں کے پکے دشمن تھے۔ اور اس وقت انھوں نے سارے عہد نامہ قدیم اور ان تحریروں میں سے جو یسوع کے بعد وجود میں آئی تھیں اور عہد نامہ قدیم سے کاتی قریبی تعلق رکھتی تھیں یا جو یہودی عیسائی روایت سے حاصل ہوئی تھیں ہر ایک کو مسترد کر دیا۔ مارسیون نے صرف لوقا کی انجیل کی اہمیت کو تسلیم کیا اس لئے کہ ان کا عقیدہ تھا کہ لوقا پال اور ان کی تحریروں کے ترجمان ہیں۔

کلیسا نے فارسیوں کو گمراہ قرار دے دیا اور اپنی مستند کتاب میں پال کے تمام خطوط شامل کرنے کی بجائے، مرقس، لوقا اور یوحنا کی دوسری انجیلیں شامل کر لیں۔ انھوں نے کئی دوسری تحریروں کا بھی اضافہ کر لیا جیسے رسولوں کے اعمال۔ بائبل ہمہ پہلی صدی عیسوی کے دوران وقت کے ساتھ ساتھ سرکاری فہرست میں رویدل ہوتی رہی۔ کچھ عرصہ وہ تحریریں جو بعد میں

لے ایشیائی ترکی کے شمال میں بحیرہ اسود کے ساحل پر ایک بندرگاہ ہے پہلے اس نام کی ایک ولایت بھی تھی۔ اور اس کا دار الحکومت بھی۔ یونانی دور میں اس کو کاتی فروغ حاصل رہا۔ ابتدائی دور میں عیسائیت کا بھی یہ ایک اہم مرکز تھا۔ (مترجم)

۵۲ دوسری صدی عیسوی میں ایک عیسائی داہب تھا۔ کٹر عیسائی اس کو گمراہ قرار دیتے ہیں۔ اس نے ایک نیا فرقہ ایجاد کیا جو اس کے نام پر مارسیونک کہلاتا ہے۔ اس فرقہ کے گرجا شمالی افریقہ کالیہ۔ ایشیائے کوچک اور مصر میں قائم ہوئے۔ وہ مادہ کے ازلی ہونے کا قائل ہے۔ (مترجم)

مستند نہیں سمجھی گئیں (یعنی اسفار محرقہ) وہ اس میں شامل رہیں۔ جبکہ دوسری تحریریں جو آجکل کے عہد نامہ جدید کے مستند نسخے میں شامل ہیں اس وقت اس سے خارج کر دی گئی تھیں۔ یہ کشمکش کوئٹل آف ہیپورگیس (HIPPO REGIUS) تک جو ۳۹۳ء میں اور کار تھیج میں ۳۹۷ء میں ہوئی جاری رہی۔ تاہم چاروں انجیلیں اس میں شامل رہیں۔

قادر پواسمار کے ساتھ اس کثیر مقدار لٹریچر کے معدوم ہونے پر افسوس کا اظہار کیا جائے جس کو کلیسا نے اسفار محرقہ قرار دے دیا تھا حالانکہ اس کی ایک تاریخی اہمیت تھی۔ مذکورہ بالا مصنف نے اس چیز کو اپنی چار انجیلیوں کے خلاصہ میں سرکاری انجیلیوں کے ساتھ جگہ دی ہے۔ وہ بیان کرتا ہے کہ یہ کتابیں چوتھی صدی عیسوی کے اختتام کے لگ بھگ زمانہ تک موجود تھیں۔

یہ وہ صدی تھی جس میں ان چیزوں کو باقاعدگی نصیب ہوئی۔ انجیلیوں کے قدیم ترین مخطوطے اسی زمانہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس سے پہلے کی دستاویزات یعنی تیسری صدی عیسوی کے طومار اور غالباً ایک دوسری صدی عیسوی کا ہم تک صرف جزوی طور پر پہنچے ہیں۔ دو قدیم ترین چرمی مخطوطے یونانی زبان میں ہیں اور چوتھی صدی عیسوی کے ہیں وہ کوڈیکس وٹیکانس (کتب وٹیکین) ہے جس کو کتب خانہ وٹیکین میں محفوظ رکھا گیا ہے۔ اور اس کے بارے میں یہ معلوم نہیں کہ وہ کہاں سے دستیاب ہوا تھا۔ اور کوڈیکس سینٹیکس (کتاب سینانی) ہے جو کوہ سینا پر ملا تھا اور اب برٹش میوزیم لندن میں محفوظ ہے۔ ثانی الذکر میں دو اسفار محرقہ کی کتابیں شامل ہیں۔

عالمی ترجمہ کے مطابق دو سو پچاس دوسرے معلوم طومار دنیا بھر میں موجود ہیں جن میں سے سب سے آخری پندرہویں صدی عیسوی کا ہے۔ لیکن عہد نامہ جدید کے ان تمام نسخوں میں جو ہم تک پہنچے ہیں یکسانیت نہیں ہے۔ اس کے برعکس ان کے درمیان مختلف درجہ کے اہمیت رکھنے والے فرق نظر آنا ممکن ہے۔ لیکن وہ خواہ کتنے ہی اہم ہوں ان کی تعداد ہمیشہ بہت زیادہ رہی ہے۔ ان میں سے بعض کا تعلق محض قواعد زبان کی جزئیات کے اختلاف سے ہے اور بعض کا لغات سے یا ترتیب الفاظ سے تاہم مخطوطات کے ماہرین کہیں ایسے بھی اختلافات دکھائی دے جاتے ہیں جو تمام عبارتوں کے مفہوم کو متاثر کر دیتے ہیں۔ اگر کوئی شخص چاہے کہ وہ متن کے اختلافات کی وسعت کا پتہ چلائے تو اس کو صرف ایک نظر "نووم ٹیسٹامینٹ گریس" (یونانی کا عہد نامہ جدید) پر ڈالنا ہوگا۔ اس کتاب میں برائے نام یونانی متن کا درمیان کا راستہ

اختیار کیا گیا ہے۔ یہ مختلف تحریروں کو ملا کر ایک نسخہ تیار کیا گیا ہے جس میں ایسے حواشی دیئے گئے ہیں جن میں مختلف نسخوں میں پائے جانے والے تمام اختلافات شامل ہیں۔

کسی متن کے مستند ہونے کا اور سب سے زیادہ مقدس مخطوطہ کا مسئلہ بھی ہمیشہ بحث و تھیس کے لئے کھلا رہتا ہے۔ کوڈیکس و ٹیکانس (کتاب و ٹیکین) اس کی ایک اچھی مثال ہے جو پوپ بے وٹیکین سٹی نے ۱۹۶۵ء میں مرتب کیا تھا اس میں مرتبین کی جانب سے ایک ایسا حاشیہ شامل ہے جس میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ اس کے نقل کئے جانے کے کئی صدی بعد جو تفسیریں لکھی گئی ہیں وہیں صدی کے قریب کا زمانہ ہے) ایک کاتب نے سولہ اُن کے جن کو اُس نے غلط سمجھا تمام حروف پر سیاہی پھیر دی۔ متن میں ایسی عبارتیں موجود ہیں جن میں ابتدائی حروف ہلکے بادامی رنگ کے نیچے سے اب بھی نظر آتے ہیں جو باقی عبارت سے جو گہرے بادامی رنگ میں ہے واضح طور پر مختلف معلوم ہوتی ہے۔ اس بات کی کوئی علامت دکھائی نہیں دیتی کہ یہ اصل کا صحیح نمونہ ہے۔ اس کے علاوہ حاشیہ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ "کئی صدیوں کے دوران مخطوطہ میں جو صحت کی گئی ہے۔ یا حاشیہ چھڑھایا گیا ہے اس میں جو مختلف ہاتھ لگے اُن کو ابھی تک تفسیر کے ساتھ نہیں پہچانا گیا ہے۔ جب متن پر سیاہی پھیری گئی اس وقت چند تصحیحات ضرور کی گئی تھیں۔" تمام مذہبی نوشتوں میں متن کو جو تھی صدی کی نقل بتایا جاتا ہے۔ یہ معلوم کرتے کے لئے کہ ہو سکتا ہے مختلف ہاتھوں نے صدیوں بعد متن میں تبدیلی کی ہو، ہر شخص کے لئے ضروری ہے کہ وہ وٹیکین میں دستیاب ہونے والے ماخذوں سے رجوع کرے۔

اس کا جواب یہ دیا جاسکتا ہے کہ مقابلہ کے لئے دوسرے متون کو کام میں لایا جاسکتا ہے لیکن اُن تبدیلیوں کے درمیان انتخاب کرنا کس طرح ممکن ہے جو مفہوم کو بدل دیتی ہیں؟ یہ ایک اچھی طرح جانی پہچانی حقیقت ہے کہ ایک تہایت ہی قدیم کاتب کی تصحیح سے اصلاح شدہ متن کو فیصلہ کن انداز میں پیش کیا جاسکتا ہے ہم بعد میں دیکھیں گے کہ فارقلیط سے متعلق یوحنا کی ایک عبارت میں صرف ایک لفظ کی تبدیلی سے اُس کے معنی بدل جاتے ہیں اور دینی نقطہ نظر سے دیکھنے تو اس کے مفہوم میں بالکل تبدیلی ہو جاتی ہے۔

ادکلان اپنی کتاب "عہد نامہ جدید" میں اختلافات کے موضوع پر حسب ذیل تحریر پیش کرتے ہیں۔

"بعض اوقات موترال ذکر نتیجہ ہوتے ہیں۔ بلا قصد سہو کا۔ نقل کرنے والے سے کوئی لفظ چھوٹ جاتا ہے۔ یا اس کے برعکس دو مرتبہ لکھا جاتا ہے۔ یا ایک جملہ کا پورا ٹکڑا لاپرواہی کے سبب


ترک ہو جاتا ہے کیونکہ مخطوط میں جس کی نقل کی جا رہی ہے۔ یہ ٹکڑا بالکل ایک سے ہی دو الفاظ کے درمیان استعمال ہوا تھا۔ بعض اوقات دیدہ و دانستہ تصحیحات کی گئی ہیں جو یا تو اس لئے ہوتی ہیں کہ نقل کرنے والے کو یہ آزادی رہی ہے کہ وہ متن کو اپنے خیالات کے مطابق درست کر لے یا اس کو کسی دوسرے راجح الوقت متن سے مطابقت پیدا کرنے کے لئے کچھ ایسی اُستادانہ سعی و کوشش کی ہے کہ کوتاہیاں کم سے کم ہو گئیں۔ جب آہستہ آہستہ عہد نامہ جدید کی تحریریں ابتدائی عیسائی لٹریچر سے الگ ہو گئیں اور انھوں نے مقدس صحیفہ کا درجہ حاصل کر لیا۔ تو اب نقل کرنے والوں نے وہ آزادی برتنے میں تذبذب اختیار کیا جو ان کے اسلاف برت چکے تھے۔ انھوں نے یہ خیال کرنا شروع کر دیا کہ ہم ایک مستند متن کی نقل کر رہے ہیں۔ حالانکہ حقیقت میں وہ ان تحریفات کو لکھتے چلے آ رہے ہیں۔ آخر میں یہ ہوا کہ نقل کرنے والے نے بعض اوقات ایک مبہم عبارت کی وضاحت کے لئے حاشیہ میں تشریحی نوٹ چڑھا دیئے۔ بعد میں نقل کرنے والے نے یہ خیال کرتے ہوئے کہ وہ جملے جو حاشیہ میں دکھائی دے رہے ہیں۔ میرے پیشرو سے اصل عبارت میں شامل ہونے سے رہ گئے تھے ضروری سمجھا کہ حاشیہ کے ان نوٹوں کو متن میں شامل کر دے۔ اس عمل نے نئے متن کو اکثر اوقات اور بھی زیادہ مبہم کر دیا۔

بعض مخطوطوں کے لکھنے والوں نے کبھی کبھی متون کے معاملہ میں ضرورت سے زیادہ ہی آزادی برتی۔ یہ حال محولہ بالا دو مخطوطات کے بعد اکثر مقدس مخطوطوں میں سے ایک کا ہوا۔ اور وہ ہے چھٹی صدی کا کوڈیکس بزانائی کینا، برگیا نس۔ (Codex Bezae Cantabrigiae) لکھنے والے نے غالباً لوقا اور متی کے یہاں مسیح کے نسب نامہ میں فرق محسوس کیا۔ لہذا اس نے اپنے لوقا کے نسخہ میں متی کے نسب نامہ کو درج کر دیا۔ لیکن چونکہ ثانی الذکر میں اول الذکر کے مقابلہ میں کم نام شامل تھے تو اس نے زائد ناموں کے ساتھ دو ازن قائم رکھے بغیر ان کو جوڑ دیا۔ کیا یہ کہنا ممکن ہے کہ لاطینی ترجمے جیسے کہ سینٹ جیروم کا چھٹی صدی کا وگلیٹ یا قدیم تر تراجم روٹیس اٹالا، یا ثنائی اور قبلی ترجمے بنیادی یونانی مخطوطات کی یہ نسبت زیادہ مطابق اصل ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ ایسے مخطوطات سے تیار کئے گئے ہو جو محولہ بالا مخطوطات سے زیادہ پرانے ہوں۔ اور آج کے دن مفقود ہو گئے ہوں۔ ہمیں اس کا علم نہیں ہے۔ یہ امر بھی ممکن رہا ہے کہ ان نسخوں میں بہت سوں کی اس طرح جماعت بندی کر دی جائے کہ ان سب میں مشترک علامات کی ایک خاص تعداد موجود ہو۔ او۔ کلمان کے بیان کے بموجب اس طرح واضح کیا جا سکتا ہے۔

— ایک نام نہاد شامی تن جس کا ڈھانچہ قدیم ترین مخطوطات کی اکثریت کی جانب رہبری کرتا ہے۔ یہ تن وسیع پیمانہ پر فن طباعت کی بدولت چھٹی صدی عیسوی سے عصر ما بعد تک یورپ بھر میں پھیلتا رہا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ غالباً بدترین تن ہے۔

— ایک نام نہاد مغربی تن مع قدیم لاطینی نسخے اور کوڈیکس بزائی کیٹا برگینس *Codex Bezae Cantabrigiae* جو یونانی اور لاطینی دونوں زبانوں میں ہے۔ عالمی ترجمے کے بموجب اس کی خصوصیات میں سے ایک یہ ہے کہ اس کا واضح رجحان تشریحات *laegeemse* غلط مواد اور ہم آہنگی پیدا کرنا (تاویلات) ہے۔

— وہ نام نہاد غیر متعین تن جس میں کتاب و ٹیکن اور کتاب سینا شامل ہیں اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بڑے پیمانہ پر پاک اور بے میل ہے۔ عہد نامہ جدید کے جدید ایڈیشن اس کے فوراً بعد وجود میں آچکے ہیں۔ اگرچہ اس کے اپنے نقائص ہیں (عالمی ترجمہ) تن سے متعلق جدید دور کی تمام تنقید اس اختیار سے جو کچھ کر سکتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ کوشش کرے اور ایک ایسے تن کو تشکیل دے جس میں اس بات کا سب سے زیادہ امکان ہو کہ وہ ابتدائی تن کے بالکل قریب آجائے۔ کسی حالت میں بھی خود ابتدائی تن کی جانب مراجعت کرنے کی کوئی امید نہیں ہو سکتی (عالمی ترجمہ)۔



اناجیل اور سائنس

اناجیل میں بہت کم ایسی عبارتیں ہیں جو موجودہ سائنسی مواد کے مقابلہ میں لائق جاسکیں۔ چنانچہ پہلی بات یہ ہے کہ ان میں بہت سے بیانات معجزوں سے متعلق ہیں جن پر سائنسی اعتبار سے بمشکل نقد و تبصرہ کیا جاسکتا ہے۔ یہ معجزات لوگوں سے متعلق ہیں۔ بیمار کی شفایابی (دیوانہ- تاہینا۔ مفلوج۔ کوڑھی کو شفا دینا۔ لزاری کا قبر سے اٹھ کھڑا ہونا)۔ نیز خالص مادی حوادث جو فطرت کے اصولوں سے ماوراء ہیں (سیح کا پانی پر چلنے کا بیان جو ان کو سہارے رہتا ہے۔ پانی کا شراب میں تبدیل ہو جانا، بعض اوقات کسی غیر معمولی زاویہ نگاہ سے ایک قدرتی حادثہ کا مشاہدہ کیا جاتا ہے۔ جو اس اعتبار سے ہوتا ہے کہ اس میں وقت کا عنصر نہایت مختصر رہ جاتا ہے۔ قوری طور پر طوفان کا رک جانا۔ انجیر کے درخت کا آنا فنا نانشک ہو جانا، مچھلی پکڑنے کا معجزہ۔ گویا سمندر کی تمام مچھلیاں مل کر ٹھیک اس جگہ پر آگئی تھیں جہاں جال پھینکے گئے تھے۔ ان تمام واقعات میں اس کی (سیح کی) قدرت کاملہ میں خداوند دخل دیتا ہے کسی شخص کو بھی اس بات پر متعجب ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ سیح کیا حاصل کر سکتے ہیں۔ بشر کے معیار سے یہ سب کچھ نہایت عظیم ہے لیکن ان کے لئے ایسا نہیں ہے۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ کوئی عقیدہ مند سائنس کو قطعاً فراموش کر دے۔ ربانی معجزات اور سائنس پر عقیدہ رکھنا بالکل مطابقت رکھتا ہے۔ ایک ربانی سطح پر ہے اور دوسرا بشری سطح پر۔

ذاتی طور پر میں یہ عقیدہ رکھنے پر پوری طرح آمادہ ہوں کہ سیح نے ایک کوڑھی کو شفا دی تھی۔ لیکن میں اس واقعہ کو تسلیم نہیں کر سکتا کہ ایک ایسا تن مستند اور منزل من اللہ ہے جس میں میں یہ پڑھتا ہوں کہ اول البشر اور ابراہیم علیہ السلام کے درمیان محض بیس لہشتیں تھیں۔ لوقا نے اپنی انجیل میں یہی بات لکھی ہے (۳: ۲۳ - ۲۸)۔ ایک ہی لمحہ میں اس کے وجود معلوم ہو جائیں گے کہ اسی موضوع پر عہد نامہ قدیم کے متن کی طرح، لوقا کا تن بھی کس طرح محض انسانی فکر کا نتیجہ ہے۔

اناجیل (قرآن کی طرح) ہمیں یسوع کی جسمانی تخلیق کے بارے میں وہی باتیں بتاتی ہیں یسوع کا رحم مادر میں قدرت کے اُن قوانین کے خلاف ظہور ہوا جو تمام انسانوں میں مشترک ہیں۔ ماں کے بیضہ دان میں جو بیضہ پیدا ہوا اس کو نر کے اس مادہ منویہ کے ساتھ ملنے کی ضرورت نہیں ہوتی جو باپ کی طرف سے آئے تاکہ جنین کی تشکیل ہو اور ایک زندہ بچہ وجود میں آئے ایک عام فرد کی ولادت کا واقعہ بغیر کسی مرد کے لطفہ پہنچا "خودزائی" کہلاتا ہے۔ عالم حیوانات میں خودزائی کا واقعہ بعض شرائط کے تحت ظہور پذیر ہوتا ہے۔ یہ بات مختلف حشرات کے لئے صحیح ہے۔ جن میں کچھ غیر فقرہ دار جانور اور بہت سے موقعوں پر ایک منتخب نسل کا پرندہ شامل ہے تجربہ کے طور پر یہ بات مثلاً چند دودھ پلانے والے جانوروں (مادہ خرگوش) میں ممکن ہوتی ہے کہ ایک جنین میں بیضہ کی بالیدگی کے آغاز کو بے انتہا بنیادی حالت میں بغیر کسی مرد کے مادہ منویہ کی مداخلت کے حاصل کیا جاسکے لیکن اس معاملہ کو زیادہ آگے جانا ممکن نہ تھا اور مکمل خودزائی کی مثال خواہ وہ تجرباتی ہو یا قدرتی ابھی تک علم میں نہیں آئی ہے۔ مسیح کا معاملہ منفرد تھا۔ حضرت مریم ایک کنواری ماں تھیں۔ انھوں نے اپنے کنوارے پنے کو جاری رکھا اور یسوع کے علاوہ ان کے کوئی بچہ نہیں ہوا۔ یسوع ایک جیاتیاتی استثنا ہیں۔

یسوع کے نسب نامے

وہ دو نسب نامے جو متی اور لوقا کی انجیلوں میں شامل ہیں۔ نشانیہ اصلیت سائنسی مواد سے مطابقت اور اس لئے استثناء کے مسائل کو حل دیتے ہیں۔ یہ مسائل ایسے ہیں جو عیسائی شارحین کے لئے بڑھی پریشانی اور تشویش کا موجب ہیں۔ کیونکہ مؤخر الذکر حضرات ان کے متعلق یہ بات ماننے سے انکار کرتے ہیں جو صراحتاً انسانی تخیل کا نتیجہ ہے۔ کتاب پیدائش کے مرشدانہ متن کے مصنفین جن کا تعلق چھٹی صدی قبل مسیح سے ہے پہلے ہی اول البشر کے نسب ناموں کے سلسلہ میں تخیل کو کام میں لایا تھا۔ تخیل ہی نے پھر متی اور لوقا کو اس مواد کو کام میں لانے کے لئے ابھارا جو انھوں نے عہد نامہ قدیم سے مستعار نہیں لیا تھا۔

۱۔ انجیلوں میں بعض اوقات یسوع مسیح کے بھائیوں اور بہنوں کے حوالے ملتے ہیں ۱۲: ۲۶ - ۵۰ اور ۵۴۔ ۶۵ زمرے ۱: ۶ - ۶ ز یوحنا ۱، ۳ اور ۲، ۱۲) یونانی زبان کے الفاظ "ایدیلیفونی" اور "ایدیلیفائی" یقیناً سگے بھائیوں اور بہنوں کو ظاہر کرتے ہیں۔ لیکن غالباً وہ ابتدائی سامی الفاظ کا ناقص ترجمہ ہیں جن کا مفہوم ثانی ہے؛ اس صورت وہ غالباً چچیرے بھائی بہن تھے۔

یہ بات دو ٹوک طریقہ پر بیان لینی پڑے گی کہ پدری نسب ناموں کی یسوع سے قطعاً کوئی موزونیت نہیں ہے اگر کوئی شخص حضرت مریم کے اکلوتے صاحبزادے کا نسب نامہ بیان کرتا ہے۔
تو جو لڑکا ایک صلیبی باپ کے بغیر تھا، اس کا یہ نسب نامہ اس کی والدہ ماجدہ حضرت مریم کا نسب نامہ ہوگا۔

یہ بائبل کے ۱۹۵۲ء کے نظر ثانی شدہ معیاری نسخہ کا متن ہے۔
متی کے مطابق جو نسب نامہ ہے وہ اس انجیل کے شروع میں دیا گیا ہے۔

یسوع مسیح ابن داؤد، ابن ابرہیم کا نسب نامہ

ابرہام سے اصفحاق پیدا ہوئے اور اصفحاق سے یعقوب پیدا ہوا اور یعقوب سے یہوداہ اور اس کے بھائی پیدا ہوئے۔ اور یہوداہ سے قارص اور زارح تھے پیدا ہوئے اور قارص سے حصرون پیدا ہوا اور حصرون سے رام پیدا ہوا اور رام سے عمینداب پیدا ہوا اور عمینداب سے نحسون پیدا ہوا اور نحسون سے سلمون پیدا ہوا اور سلمون سے بوغرا حب پیدا ہوا اور بوغرا سے عوبیروت پیدا ہوا اور عوبیروت سے یسعی پیدا ہوا اور یسعی سے داؤد بادشاہ پیدا ہوا۔ اور داؤد سے سلیمان اس عورت سے پیدا ہوا جو پہلے اوریاہ کی بیوی تھی اور سلیمان سے رجبعام پیدا ہوا اور رجبعام سے ابیاہ پیدا ہوا اور ابیاہ سے آسا پیدا ہوا اور آسا سے یہوسفط اور یہوسفط سے یورام پیدا ہوا اور یورام سے غریاہ پیدا ہوا اور غریاہ سے یوتام پیدا ہوا اور یوتام سے آخز پیدا ہوا اور آخز سے حزقیاہ پیدا ہوا اور حزقیاہ سے منسی پیدا ہوا اور منسی سے امون پیدا ہوا اور امون سے یوسیاہ پیدا ہوا اور گرفتار ہو کر بابل جانے کے زمانہ میں یوسیاہ سے یوکیاہ اور اس کے بھائی پیدا ہوئے۔ اور گرفتار ہو کر بابل جانے کے بعد یوکیاہ سے سیانسی ایل پیدا ہوا اور سیانسی ایل سے زریاہل پیدا ہوا اور زریاہل سے ابیہود پیدا ہوا اور ابیہود سے اییاقیم پیدا ہوا اور اییاقیم سے عازور پیدا ہوا اور عازور سے صدوق پیدا ہوا اور صدوق سے اخیم پیدا ہوا اور اخیم سے ایہود پیدا ہوا اور ایہود سے ایعزر پیدا ہوا اور ایعزر سے متان پیدا ہوا اور متان سے یعقوب پیدا ہوا اور یعقوب سے یوسف پیدا ہوا۔ یہ اس مریم کا شوہر تھا جس سے یسوع پیدا ہوا جو مسیح کہلاتا ہے۔ پس سب پشتیں ابرہام سے داؤد تک چودہ پشتیں ہوئیں اور داؤد سے لے کر

گرتا رہو کہ بائبل چنانہ تک چودہ پشتیں اور گرفتار ہو کر بائبل چانے سے لے کر مسیح تک
چودہ پشتیں ہوئیں (متی ۱: ۱-۱۷)۔

لوقا نے جو نسب نامہ دیا ہے (۳: ۲۳-۳۸) وہ متی سے مختلف ہے جو متن پیش کیا
گیا ہے وہ بائبل کے نظر ثانی شدہ معیار ہی نسخہ کیا گیا ہے۔

”جب یسوع خود تعلیم دینے لگا قریباً تیس برس کا تھا اور (جیسا کہ سمجھا جاتا تھا)
یوسف کا بیٹا تھا اور وہ عیسیٰ کا اور وہ منات کا اور وہ لادی کا اور وہ ملی کا اور وہ نیا کا
اور وہ یوسف کا اور وہ نسیاہ کا اور وہ ماموس کا اور وہ ناحوم کا اور وہ ایلیاہ کا
اور وہ توگہ کا اور وہ ماعت کا اور وہ نیتیاہ کا اور وہ شمعی کا اور وہ یوسخ کا اور وہ
یوداہ کا اور وہ یوحناہ کا اور وہ رلیا کا اور وہ زریاہل کا اور وہ سالتی ایل کا اور
وہ نیرمی کا اور وہ ملی کا اور وہ اڈی کا اور وہ قوسام کا اور وہ المودام کا اور
وہ غیر کا اور وہ یسوع کا اور وہ الیعزر کا اور وہ یوریم کا اور وہ منات کا اور وہ
لادی کا اور وہ شمعون کا اور وہ یہوداہ کا اور وہ یوسف کا اور وہ یونان کا اور وہ
ایلیا قیم کا اور وہ ملے آہ کا اور وہ مناہ کا اور وہ تنناہ کا اور وہ تاتن کا اور وہ
داؤد کا اور وہ یسی کا اور وہ عویید کا اور وہ یونگر کا اور وہ سلمون کا اور وہ نحسون کا
اور وہ عمیتداب کا اور وہ ارتی کا اور وہ حصرون کا اور وہ فارص کا اور وہ یہوداہ
کا اور وہ یعقوب کا اور وہ اصحاق کا اور وہ ابرہام کا اور وہ تارہ کا اور وہ نخور
کا اور وہ سروج کا اور وہ رنخو کا اور وہ قلع کا اور وہ عیبر کا اور وہ سلج کا اور وہ
قینان کا اور وہ ارفلسد کا اور وہ سیم کا اور وہ نوح کا اور وہ فلک کا اور وہ متوسخ
کا اور وہ حنوک کا اور وہ یاروکا اور وہ مہلل ایل کا اور وہ قینان کا اور وہ انوس
کا اور وہ سبت کا اور وہ آدم کا اور وہ خلد کا تھا

یہ نسب نامے اُس وقت اور بھی واضح ہو جاتے ہیں جب دو جدولوں میں پیش کئے
جائیں ایک داؤد سے قبل کے نسب نامہ کو ظاہر کرتی ہے اور دوسری اُن کے
بعد کے۔



یسوع کا نسب نامہ۔ داؤد سے قبل

لوقا کے مطابق	متی کے مطابق
۱۱ - سم	۱ - آدم
۱۲ - ارتفسد	۲ - سیت
۱۳ - قینان	۳ - اوس
۱۴ - سلح	۴ - قینان
۱۵ - عبر	۵ - مہلل ایل
۱۶ - نعلج	۶ - یارو
۱۷ - رجو	۷ - جنوک
۱۸ - سروج	۸ - متوسلح
۱۹ - نخور	۹ - ملک
۲۰ - تارہ	۱۰ - توح
	۲۱ - ابرہام
	۲۲ - اصفحاق
	۲۳ - یعقوب
	۲۴ - یہوداہ
	۲۵ - فارص
	۲۶ - حصرون
	۲۷ - ارتی
	۲۸ - عمینداب
	۲۹ - نحسون
	۳۰ - سلمون
	۳۱ - بوغفر
	۳۲ - عوبید
	۱ - ابرہام
	۲ - اصفحاق
	۳ - یعقوب
	۴ - یہوداہ
	۵ - فارص
	۶ - حصرون
	۷ - رام
	۸ - عمینداب
	۹ - نحسون
	۱۰ - سلمون
	۱۱ - بوغفر
	۱۲ - عوبید

متی ابرہام کے قبل کوئی نام نہیں بتاتے

لوقا کے مطابق	متی کے مطابق
۳۳ - لسی	۱۳ - لسی
۳۴ - داؤد	۱۴ - داؤد
۳۵ - نائن	۱۵ - سلیمان
۳۶ - تناہ	۱۶ - رجبام
۳۷ - مناہ	۱۷ - ابیہ
۳۸ - ملے آہ	۱۸ - آسا
۳۹ - الیاقیم	۱۹ - بہوسفط
۴۰ - یوتان	۲۰ - پورام
۴۱ - یوسف	۲۱ - عزریاہ
۴۲ - یہوداہ	۲۲ - یوتام
۴۳ - شمعون	۲۳ - آنز
۴۴ - لادی	۲۴ - حزقیاہ
۴۵ - متات	۲۵ - منسی
۴۶ - یوریم	۲۶ - امون
۴۷ - الیعرز	۲۷ - یوسیاہ
۴۸ - یوحناہ	۲۸ - یکونیاہ
۴۹ - عمیر	۲۹ - بابل کی جانب جلا وطنی
۵۰ - المودام	۳۰ - سیالٹی ایل
۵۱ - قوسام	۳۱ - زربابل
۵۲ - آدی	۳۲ - انیہود
۵۳ - ملکی	۳۳ - الیاقیم
۵۴ - نیری	۳۴ - عازور
۵۵ - سالتی ایل	۳۵ - صدوق
۵۶ - زربابل	۳۶ - اخیم
۵۷ - رسیا	۳۷ - الیہود
۵۸ - یوحناہ	
۵۹ - یوداہ	
۶۰ - یوسخ	
۶۱ - شمعی	
۶۲ - تیتیہ	
۶۳ - ماعت	
۶۴ - توگہ	
۶۵ - املیاہ	
۶۶ - ماحوم	

لوقا کے مطابق		متی کے مطابق	
۷۲ - لاوی	۷۷ - عاموس	۳۷ - الیعزر	
۷۳ - متات	۷۸ - تیتیاہ	۳۸ - متان	
۷۴ - عیسیٰ	۷۹ - یوسف	۳۹ - یعقوب	
۷۵ - یوسف	۸۰ - نیا	۴۰ - یوسف	
۷۶ - یسوع (مسیح)	۸۱ - ملکی	۴۱ - یسوع (مسیح)	

مخطوطات اور عہد نامہ قدیم کے اعتبار سے اختلافات

بچوں کے اعتبار سے اختلاف کے علاوہ حسب ذیل اختلافات ملاحظہ ہوں۔

(ا) متی کی انجیل | نسب نامہ کو ڈیکس بیزائی کینٹابریگیانس، سے غائب ہو جاتا ہے جو چھٹی صدی کا یونانی اور لاطینی دونوں میں ایک اہم مخطوطہ ہے۔ یونانی متن سے یہ بالکل ہی غائب ہے اور لاطینی متن کا بھی ایک بڑا حصہ معدوم ہے سادہ سی توجیہ یہ ہو سکتی ہے کہ ابتدائی صفحات ضائع ہو گئے۔

یہاں یہ امر واضح رہے کہ متی نے عہد نامہ قدیم کے ساتھ کافی آزادی برتی ہے انھوں نے ایک عجیب سی عددی یکسانیت حاصل کرنے کی غرض سے نسب ناموں میں کاٹ چھانٹ کر دی ہے (جن کو وہ جیسا کہ ہمیں معلوم ہوگا آخر میں نہیں دیتے)

(ب) لوقا کی انجیل | ۱۔ ابراہام سے پہلے :- لوقا بیس نام بتاتے ہیں عہد نامہ قدیم میں کل (۱۹) مذکور ہیں۔ (اس کتاب کے عہد نامہ قدیم والے حصہ میں آدم کے اختلاف کی جدول ملاحظہ ہو)۔ ارفکسد (نمبر ۱۲) کے بعد لوقا نے ایک شخص مسٹی قینان (نمبر ۱۳) کا اضافہ کر دیا ہے۔ جس کو کتاب پیدائش میں ارفکسد کا بیٹا نہیں بتایا گیا ہے۔

۲۔ ابراہام سے واوڈ تک :- مخطوطات کے بموجب ۱۲ سے ۱۶ تک نام ملتے ہیں

۳۔ واوڈ سے یسوع تک :-

سب سے زیادہ اہم اختلاف کو ڈیکس بیزائی کینٹابریگیانس کا ہے جو لوقا سے ایک عجیب و غریب نوع کا نسب نامہ منسوب کرتی ہے جو متی سے لیا گیا ہے اور کتاب نے اس میں پانچ ناموں کا اضافہ کر دیا ہے۔ بد قسمتی سے متی کی انجیل کا نسب نامہ اس مخطوطہ

سے غائب ہے اس لئے موازنہ کا اب کوئی امکان نہیں رہا۔

متون کا باریک بینی سے جائزہ

یہاں ہمارے سامنے دو مختلف نسب نامے آتے ہیں جن میں ایک ضروری نکتہ مشترک ہے۔ یعنی دونوں ابراہام اور داؤد سے ہو کر گزرتے ہیں اس جائزہ کو زیادہ آسان بنانے کے لئے ہم اس سب کو تین حصوں میں بانٹ دیں گے۔

— آدم سے ابراہام تک — ابراہام سے داؤد تک — داؤد سے یسوع تک
 ۱۔ آدم سے ابراہام تک کا دور :- متی نے اپنا نسب نامہ ابراہام سے شروع کیا تھا۔ چنانچہ یہاں ہمارا اُن کے تن سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ تنہا لوقا ابراہام کے اجداد کے بارے میں حضرت آدم تک کی معلومات بہم پہنچاتے ہیں کل ۲۰ نام ہیں جن میں سے ۱۹ کتاب پیدائش میں موجود ہیں (ابواب ۲، ۵، اور ۱۱) جیسا کہ پہلے ہی بتایا جا چکا ہے۔ کیا یہ یقین کرنا ممکن ہے کہ ابراہام سے پہلے نوع بشر کی صرف ۱۹ یا ۲۰ پشتیں ہی گزری تھیں؟ یہ مسئلہ عہد نامہ قدیم کی بحث میں پہلے ہی زیر غور آچکا ہے۔ اگر کوئی شخص آدم کے اخلاف کی جدول پر نظر ڈالے جس کی بنیاد کتاب پیدائش پر ہے اور بائبل کے تن میں شامل وقت کے جو اعداد دیئے گئے اُن کو دیکھے تو یہ بات معلوم ہو سکتی ہے کہ حیوط آدم اور ابراہام کی ولادت کے درمیان تقریباً انیس صدیاں گزریں۔ آجکل یہ اندازہ لگایا جاتا ہے کہ ابراہام ۱۸۵۰ ق م میں حیات تھے اور اسی سے یہ نتیجہ اخذ کیا گیا ہے کہ عہد نامہ قدیم میں جو معلومات قراہم کی گئی ہیں اُس کے مطابق انسان کا سطح ارض پر ظہور تقریباً ۳۸ صدی قبل مسیح ہوا تھا۔ واضح طور پر لوقا کو اپنی انجیل کے لئے اسی سے رہبری حاصل ہوئی۔ وہ بہت شد و مد سے یہ غلط بیانی کرتے ہیں کہ میں نے اُن سے نقل کیا ہے اور ہمیں پہلے ہی اس بیان تک پہنچنے کے لئے فیصلہ کن تاریخی دلائل مل چکے ہیں۔

یہ خیال کہ عہد نامہ قدیم میں دیئے گئے اعداد و شمار موجودہ زمانہ میں ناقابل قبول ہیں حتیٰ طور پر تسلیم کر لیا گیا ہے۔ یہ اعداد اُس حذف شدہ مواد سے تعلق رکھتے ہیں جس کا حوالہ دوسری ویٹیکن کونسل میں دیا گیا ہے۔ لیکن یہ حقیقت کہ انجیل نے سائنسی اعتبار سے اُن ہی غیر صحیح اعداد کو لے لیا ہے۔ ایک انتہائی قابل لحاظ جائزہ ہے جس کو اُن لوگوں کی مخالفت میں استعمال کیا جا سکتا ہے جو انجیل کے متون کی تاریخی صحت کی حمایت کرتے ہیں۔

اس صریح غلط بیانی کو جو لوہا کے باسے میں کوڈیکس بیزانی کیٹا برکیا نسس میں کی گئی ہے نظر انداز کر کے ہم اب اس چیز کا موازنہ کرتے ہیں جو دونوں انتہائی مقدس مخطوطے پیش کرتے ہیں ایک کوڈیکس وٹیکاٹس اور دوسرا کوڈیکس سینائی ٹیکس۔

لوہا کے بموجب نسب نامہ میں داؤد (نمبر ۳۵) کے بعد ۲۲ نام مسیح (نمبر ۷۷) تک دیئے گئے ہیں۔ متی کے مطابق داؤد (نمبر ۱۲) سے مسیح (نمبر ۱۴) تک ۲۷ نام بتائے گئے ہیں۔ لہذا داؤد کے بعد یسوع کے فرضی اجداد کی تعداد جو دونوں انجیلوں میں دی گئی ہے۔ وہ مختلف ہے۔ خود نام بھی مختلف ہیں۔

پھر معاملہ یہیں ختم نہیں ہو جاتا۔

متی ہمیں بتاتے ہیں کہ انھیں یہ بات کیسے معلوم ہوئی کہ یسوع کا نسب نامہ ابرہام کے بعد ۱۴ ناموں کے تین گروپوں میں بٹ جاتا ہے۔ پہلا گروپ ابرہام سے داؤد تک۔ دوسرا داؤد سے بابل کی جانب جلا وطنی تک۔ تیسرا جلا وطنی سے یسوع تک۔ ان کے متن میں فی الحقیقت پہلے دو گروپوں میں ۱۲، ۱۲ نام ہیں۔ البتہ تیسرے میں — یعنی جلا وطنی سے یسوع تک محض ۱۳ نام ہیں اور ۱۲ نہیں ہیں جیسا ہونا چاہیے۔ شجرہ سے پتہ چلتا ہے کہ سیالٹی ایل کا نمبر ۲۹ اور یسوع کا نمبر ۴۱ ہے۔ متی کے یہاں کوئی ایسا تبادلہ نسخہ نہیں ہے جو اس گروپ میں ۱۴ نام بتاتا ہو۔

اپنے قائم کردہ دوسرے گروپ میں ۱۴ نام پورے کرنے کے لئے متی عہد نامہ قدیم کے متن کو بڑھی آزادی کے ساتھ کام میں لاتے ہیں۔ داؤد کے پہلے چھ اخلاف کے نام (نمبر ۱۵ تا ۲۰) عہد نامہ قدیم میں دیئے ہوئے ناموں سے مل جاتے ہیں لیکن یورام (نمبر ۲۰) کے تین اخلاف جو بابل کے حصہ تواریح - ۲ میں عزریاہ - یواس - امصیہ - کے ناموں کو متی نے دیا دیا ہے۔ ایک اور موقع پر یونیہ (نمبر ۲۸) متی کے نزدیک یوسیہ کا بیٹا ہے۔ حالانکہ سلاطین - ۲ میں جو بابل کا ایک حصہ بتایا گیا ہے کہ یوسیہ اور یونیہ کے درمیان ایقیم کا نام آتا ہے۔

اس سے یہ بات سمجھی جاسکتی ہے کہ متی نے عہد نامہ قدیم میں دیئے ہوئے نسب نامہ کو داؤد اور اسیری بابل کے درمیان ۱۴ ناموں کا ایک مصنوعی گروپ بتانے کے لئے بدل دیا ہے۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ متی کے قائم کردہ تیسرے گروپ میں ایک نام غائب ہے۔ لہذا دور حاضر کی انجیل کے متون میں سے کسی میں بھی وہ بیالیس نام موجود نہیں ہیں جن کا ذکر

کیا گیا ہے۔ جو بات حیرت خیز ہے وہ اتنا زیادہ ایک نام کا ترک ہونا نہیں ہے۔ (غالبا اس کی توجیہ تو یہ کہہ کر کی جاتی ہے کہ بہت عرصہ ہوا کسی کتاب کی غلطی تھی جو بعد میں مستقل صورت اختیار کر گئی) جتنا کہ اس موضوع پر شارحین کا مکمل سکوت ہے۔ اس ترک کو کیسے نظر انداز کیا جا سکتا ہے۔ ڈبلیو۔ ٹریننگ اپنی کتاب ”متی کے بموجب انجیل“ (۱) لے وانٹریل سیلون ماتیو) میں خاموشی اور سکوت کی اس مقدس سازش کا پردہ چاک کر دیتے ہیں۔ اور اس کے لئے صرف ایک سطر وقف کرتے ہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے جو انتہائی اہمیت کی حامل ہے کیونکہ اس انجیل کے شارحین جن میں دوسروں کے علاوہ عالمی ترجمہ اور کارڈینال دنیلو بھی شامل ہیں۔ متی کی ۱۴ x ۸ کی علامتی خوبی پر بڑا زور دیتے ہیں۔ انجیل کے مرتب کے لئے یہ خوبی اس درجہ اہم ہے کہ اس نے اپنے عدوی مظاہرہ پر پہنچنے کے لئے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے بائبل کے ناموں کو دبا دیا ہے۔

اس کو صحیح بنانے کے لئے شارحین یقیناً معذرت خواہانہ نوعیت کے بعض ایسے یقین دلانے والے بیانات وضع کر لیں گے جن سے یہ واقعہ حق بجانب ہو جائے کہ ناموں کو نہایت فنکاری سے دبایا گیا ہے اور وہ لوگ ہوشیاری کے ساتھ اس ترک سے بچیں گے جو اس تمام نکتہ کو اکھاڑ پھینکتا ہے جو انجیل کا مرتب ظاہر کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔

تفاسیر میں جدید ماہرین کی تشریحات

اپنی کتاب ”عالم طفلی کی انجیل“ (۱۹۶۷ء) نے ٹری وانٹریل دے لیفنانس (۲) میں کارڈینال دنیلو متی کے ”عدوی لفظ“ کو انتہائی اہمیت کی ایک علامتی قدر کا جامہ پہنا دیتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ”یہی تو وہ ذریعہ ہے جس سے یسوع کے آباؤ اجداد کے بارے میں اس امر کا تعین ہوتا جس کی تصدیق لو قانے بھی کی ہے۔“ ان کے نزدیک لو قان اور متی ”مورخین“ ہیں جنہوں نے اپنی تاریخی تحقیقات کو مکمل کر لیا ہے اور ”نسب نامہ یسوع کے خاندان کے محافظ خانہ سے حاصل کیا گیا ہے۔ یہاں اس بات کا بھی اضافہ کر دینا پڑے گا کہ محافظ خانے کبھی دریافت نہیں ہوئے۔“

۱۵ ایڈی سیون دوسیوں۔ پارسی (پیرس)۔

۱۶ حالانکہ مصنف ہیں یہ یقین دلاتے ہیں کہ ان کو کلیسا کی تاریخ، مصنفہ یوزی بیس پمیلی سے جس کے ماننے اور تسلیم کرنے کے سلسلہ میں بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، سے ان مفروضہ محافظ خانوں کی موجودگی کا علم ہوا ہے بقیہ اگلے صفحہ پر دیکھا جاتا ہو

کارڈینال وینیلو چھوٹے ہی ہر اس شخص کو ملامت کرنے لگتے ہیں جو ان کے نقطہ نظر پر تنقید کرتا ہے۔ "یہ مغربی ذہنیت ہے یہودوی عیسائیت سے ناواقف اور سامی نظریہ کا فقدان ہے جس نے تقاسیر کے اتنے ماہرین کو اناجیل کی تشریح کرتے وقت ان کے راستہ سے بھٹکا دیا ہے۔ انھوں نے اپنے ذہنی قالبوں کو ان پر منڈھا ہے۔ (مثلاً، افلاطونی، کارتیزی، ہیگیلین اور ہیڈگیسی وغیرہ۔ اس سے یہ بات سمجھنا آسان ہو جاتا ہے کہ ان کے ذہنوں میں ہر چیز کیوں گڈ مڈ ہو گئی ہے، افلاطون، ادے کارت، ہیگیل اور ہیڈگر کا واضح طور پر اس تنقیدی طرز عمل سے کوئی واسطہ نہیں ہے جو لوگوں نے ان فرقی نسب ناموں کے سلسلہ میں اختیار کیا ہے۔

متی کے ۳ x ۱۴ کے معنی و مفہوم کے کھوج میں مصنف عجیب و غریب قسم کے مفروضات قائم کرتا ہے جو اس موقع پر درج کر دینے کے قابل ہیں۔ اس کا جو مطلب لیا جاسکتا ہے وہ یہودوی مکاشفہ کے عمومی دس ہفتے ہیں۔ پہلے تین جو آدم سے ابراہام تک کے وقت سے مطابقت رکھتے ہیں۔ خارج کر دیئے جاتے ہیں تب سالوں کے سات ہفتے رہ جاتے ہیں پہلے چھ سات کے اُس چھ گنے سے مطابق ہو جاتے جو چودہ کے تین گروپوں کو ظاہر کرتے ہیں۔ اور پھر ساتواں باقی رہ جاتا۔ جو یسوع مسیح سے شروع ہوتا جن سے دنیا کے ساتویں دور کا آغاز ہوتا ہے۔ اس نوع کی تشریحات تنقید و تبصرہ سے ماورایں!

عالمی ترجمہ کے شارحین — عہد نامہ جدید — بھی ایک معذرت خواہانہ انداز کا عددی نظریہ پیش کرتے ہیں۔ جو مساوی طور پر غیر متوقع ہے۔
متی کے ۳ x ۱۴ کے لئے۔

(۱) ۱۴ عبرانی نام داؤد (ڈی = ۴، وی = ۶) میں ۳ حروف صحیح کا عددی مجموعہ ہو سکتا ہے۔ چنانچہ ۴ + ۶ + ۴ = ۱۴۔

(ب) ۳ x ۱۴ = ۴ x ۷ اور یسوع اس مقدس تاریخ کے جو ابراہام سے شروع ہوتی ہے۔ چھٹے ہفتے کے اختتام پر آئے۔

لوقا کے مطابق اس ترجمہ میں آدم سے یسوع تک ۷ نام دیئے گئے ہیں جس میں ۷ کا

یقینہ حاشیہ :- تاہم یہ سمجھنا مشکل ہے کہ یسوع کے خاندان نے دو شجرے کیوں تیار کئے تھے جو تیسری طور پر مختلف تھے اس لئے ان دونوں نام نہاد "مورخین" میں سے ہر ایک نے جو نسب نامہ دیا ہے وہ بڑی حد تک ان لوگوں کے ناموں کے سلسلہ میں مختلف ہے جو یسوع کے اجداد کی صف میں بیٹھے نظر آتے ہیں۔

عدد بار دیگر آیا ہے اس مرتبہ ۷۷ کو ۷ پر تقسیم کر کے ہوا $(7 \times 11 = 77)$ ایہ بالکل واضح ہے کہ لوقا کے لئے تحریفات کی یہ تعداد جہاں الفاظ جوڑے جاتے یا گھٹائے جاتے ہیں ایسا ہی ہے کہ ۷۷ ناموں کی یہ فہرست بالکل من گھڑت ہے۔ تاہم اس کا یہ فائدہ ضرور ہے کہ یہ ان سدھی کھیلوں سے مطابقت اختیار کر لیتی ہے۔

یسوع کے چونسب نامے اناجیل میں پائے جاتے ہیں وہ غالباً ایسا موضوع بن گئے ہیں جنہوں نے عیسائی شارحین کو جدید یاتی باز گیری کے لیے انتہائی خصوصی نوعیت کے کرتب دکھانے کی طرف مائل کر دیا ہے جو لوقا اور متی کے تخیل کی یقیناً ہم سطح ہیں۔



بیانات میں

باب پنجم

تضادات اور ناممکنات

چار انجیلوں میں سے ہر ایک میں متعدد واقعات کے بیانات ایسے ہیں جن میں یا تو کوئی ایک انجیل منفرد ہے یا اگر سب میں نہیں تو وہ واقعات کسی میں مشترک ہیں۔ جب وہ واقعات کسی ایک انجیل میں منفرد ہوتے ہیں اس وقت ان سے بڑے شدید نوعیت کے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ چنانچہ ایک انتہائی اہمیت کے واقعہ کی حالت میں یہ دیکھ کر حیرت ہوتی ہے کہ اس کو صرف ایک انجیل کے مرتب نے ہی بیان کیا ہے مثال کے لئے قبر سے نکلنے کے دن مسیح کے آسمان پر اٹھانے جانے کے واقعہ کو لے لیجئے۔ ہر کہیں بہت سے واقعات کو مختلف طریقوں پر بیان کیا گیا ہے۔ بعض دفعہ تو واقعی بہت ہی مختلف ہو جاتے ہیں۔ اور یہ اختلاف دو یا زیادہ انجیل کے مرتبین کے یہاں دکھائی دیتا ہے۔ عیسائی اکثر اوقات انجیلوں کے مابین اس قسم کے اختلافات کی موجودگی پر حیران و ششدر رہ جاتے ہیں۔ اس صورت میں کہ وہ اختلافات ان کے علم میں آجائیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو انتہائی یقین کے ساتھ بار بار بتایا جاتا رہا ہے کہ عہد نامہ جدید کے مصنفین ان واقعات کے جو وہ بیان کرتے ہیں عینی شاہد تھے۔

ان پریشان کن تضادات اور ناممکنات میں سے کچھ سابقہ ایوایپ میں بتائے جا چکے ہیں تاہم یہ خصوصیت سے یسوع کی زندگی کے آخری واقعات ہیں جن کے ساتھ دورانبتلا کے بعد والے واقعات بھی شامل ہو گئے ہیں جو متنوع اور متضاد بیانات کا موضوع بنتے ہیں۔

دورانبتلا کے بیانات

فادر روگے بذات خود اس بات کی طرف توجہ کرتے ہیں کہ یسوع کے اپنے جوار یوں کے ساتھ آخری شام کے کھانے کے تعلق سے کتب متفقہ (متی، مرقس اور لوقا کی انجیلوں) اور یوحنا کی انجیل میں عید فسخ کو مختلف وقتوں پر بتایا گیا ہے یوحنا آخری کھانے کو عید فسخ کی تقریبات سے پہلے قرار دیتے ہیں اور باقی تین انجیلوں کے مرتبین خود تقریبات کے دوران

بتاتے ہیں۔ اس اختلاف سے واضح قسم کی ناممکنات کا صدور ہوتا ہے۔ ایک کوئی واقعہ اس کے تعلق میں عید فسخ کے تعین کی وجہ سے ناممکن ہو جاتا ہے۔ جب کسی شخص کو اس اہمیت کا علم ہوتا ہے۔ جو اس واقعہ کو یہودی قسم کی عشاءے ربانی میں ہے اور اس طعام کی اہمیت کا پتہ چلتا جس میں یسوع اپنے حواریوں کو الوداع کہتے ہیں تو یہ یقین کرنا کیسے ممکن ہے کہ ایک واقعہ کی دوسرے واقعات کے لحاظ سے یاد اس حد تک اس روایت میں جو انجیلوں کے مرتبین نے محفوظ کی دھندلکے میں چلی گئی۔

ایک زیادہ عام سطح پر، ابتلا کے زمانہ کے بیانات انجیل کے ایک مرتب سے دوسرے مرتب کے ہاں مختلف ہیں اور خصوصیت سے یوحنا اور پہلی تین انجیلوں کے مابین یہ اختلافات زیادہ سے آخری کھانا اور دور ابتلا یوحنا کی انجیل میں دونوں ہی بہت طویل ہیں یہاں تک کہ مرقس اور لوقا کے مقابلہ میں یہ مدت گنتی ہے اور متی کے متن سے تقریباً ڈیڑھ گنا سے۔ یوحنا یسوع کی ایک طویل تقریر درج کرتے ہیں جو انھوں نے اپنے حواریوں کے سامنے کی تھی۔ (۱۲ اتا ۱۷) اس اہم تقریر کے دوران یسوع اعلان کرتے ہیں کہ میں آخری ہدایات چھوڑوں گا۔ اور ان کو اپنا آخری روحانی عہد نامہ دیتے ہیں۔ دوسری انجیلوں میں اس کا کوئی نشان نہیں ہے۔ بتابریں، یہی عمل دوسرے طریقہ پر بھی ہو سکتا ہے۔ متی، لوقا اور مرقس، جیسے کے باغ میں یسوع کی دعا، بیان کرتے ہیں لیکن یوحنا اس کا ذکر نہیں کرتے۔

یوحنا کی انجیل میں عشاءے ربانی کی رسم کا تذکرہ نہیں ہے

سب سے اہم حقیقت جو یوحنا کی انجیل میں قاری کو دور ابتلا میں تذکرہ بڑھتے وقت کھٹکتی ہے وہ یہ ہے کہ یوحنا یسوع کے اپنے حواریوں کے ساتھ آخری کھانے کے دوران فاس کی رسم کا قطعاً کوئی حوالہ نہیں دیتے۔

کوئی بھی عیسائی ایسا نہیں ہے جو آخری کھانے کی صورتوں کے بیان سے واقف نہ ہو جبکہ یسوع آخری بار اپنے حواریوں کے درمیان دسترخواں پر بیٹھتے ہیں۔ دنیا کے عظیم ترین تقاضوں نے اس آخری اجتماع کو ہمیشہ اس طرح پیش کیا ہے کہ یوحنا کو یسوع کے دائیں جانب بیٹھا ہوا دکھایا گیا ہے یوحنا وہی صاحب ہیں جن کو ہم اسی نام کی انجیل کے مصنف کی حیثیت سے سمجھنے کے عادی ہو گئے ہیں۔

تاہم یہ امر بہت سے لوگوں کو خواہ کتنا ہی حیرتناک معلوم ہو۔ لیکن ماہرین کی اکثریت

ایسی ہے جو یوحنا کو چوتھی انجیل کا مصنف نہیں مانتے۔ نہ ہی مؤخر الذکر ماس کی رسم کا ذکر کرتے ہیں۔ روٹی اور شراب کا تذکرہ یوحنا یسوع کے گوشت اور خون قرار دے دیتے گئے ہیں عیسائی عشاءے ربانی کا سب سے زیادہ لازمی عمل ہے۔ دوسری انجیلوں کے مرتبین اس کا حوالہ دیتے ہیں۔ خواہ جیسا کہ ہم صدر میں بتا چکے ہیں وہ اس تذکرہ میں مختلف انسان ہی ہوں۔ یوحنا اس کے بارے میں کچھ نہیں کہتے۔ چاروں انجیلوں کے بیانات میں صرف دو باتیں مشترک ہیں۔ پطرس کے انکار کرنے اور حواریوں میں کسی ایک کے دھوکہ دینے کی پیشینگوئی (یہوداہ اسکرپوتی کا نام حقیقی طور پر صرف متی اور یوحنا میں دیا گیا ہے) یوحنا کا بیان اس معاملہ میں منقر وہے کہ اس میں کھانے کے شروع میں یسوع کے اپنے حواریوں کے پاؤں دھلاتے کا حوالہ ملتا ہے یہ

یوحنا کی انجیل میں اس ترک کی تاویل کیے کی جاسکتی ہے۔

اگر کوئی شخص معروضی طور پر تو چیہہ کرتا ہے تو وہ دعویٰ جو فوری طور پر دفاع میں پیدا ہوتا ہے (ہمیشہ یہ خیال کرتے ہوئے کہ جو کہانی باقی تین انجیلوں کے مرتبین نے بیان کی ہے صحیح ہے) کہ یوحنا کی انجیل کا وہ ٹکڑا جو مذکورہ واقعہ کو بیان کرتا تھا ضائع ہو گیا ہے۔ عیسائی شارحین اس نتیجہ پر نہیں پہنچتے۔

اب ہم ان چند نقطہ ہائے نظر کا جائزہ لیتے ہیں جو انھوں نے اختیار کئے ہیں۔

اپنی عہد نامہ جدید کی چھوٹی لغت (پٹی ڈکشنری) کو نو دے تیس ماں میں آخری طعام (سین) کے تحت اے۔ ترکیب یہ بیان دیتے ہیں۔

”آخری کھانا یسوع نے اپنے بارہ حواریوں کے ساتھ کھا یا جس میں انھوں نے ماس کی رسم کا آغاز کیا اس کا تذکرہ کتب متفقہ میں موجود ہے“ (متی، مرقس اور لوقا کے حوالے ہیں)۔۔۔۔۔ اور چوتھی انجیل ہمیں مزید تفصیلات فراہم کرتی ہے، (یوحنا کے حوالے) ماس کے بارے میں جو اندراج ہے اس کے متعلق یہی مصنف حسب ذیل تحریر پیش کرتے ہیں: ”ماس کی رسم پہلی تین انجیلوں میں اختصار سے بیان کی گئی ہے۔ یہ مذہبی تعلیمات کے پاپائی طرز کا انتہائی اہم جزو ہے۔ سینٹ یوحنا نے ان مختصر بیانات پر اس تذکرہ میں ایک غیر منفک مکملہ

۱۔ یسوع نے یہ جان کر کہ باپ نے سب چیزیں میرے ہاتھ میں کر دی ہیں اور میں خدا کے پاس سے آیا اور خدا ہی کے پاس جاتا ہوں دسترخوان سے اٹھ کر کپڑے اتارے اور رومال لے کر اپنی کمر میں باندھا اس کے بعد برتن میں پانی ڈال کر شاگردوں کے پاؤں دھوئے اور رومال کمر میں باندھ رکھا تھا اس سے پونچھنے شروع کئے۔ (یوحنا کی انجیل ۱۳: ۳-۵)۔ (مترجم)

کا اضافہ کیا ہے جس میں انھوں نے یسوع کے زندگی کی روٹی پر وعظ کے متعلق لکھا ہے (۳۲: ۵۸-۵۹) نتیجہ شارج نے یہ بات نہیں بتائی کہ یوحنا یسوع کی عشاءے ربانی کی رسم کا ذکر نہیں کرتے مہنت تکمیلی تفصیلات پر گفتگو کرتا ہے لیکن یہ تفصیلات عشاءے ربانی کی تکمیلی نہیں، دوہ بنیادی طور پر حواریوں کے پاؤں دھلانے کی تقریب کو بیان کرتے ہیں، شارج زندگی کی روٹی کے بارے میں گفتگو کرتا ہے لیکن (آخری کھانے سے بالکل جدا گانہ) یسوع کا یہ حوالہ خدا کے اس انعام کے سلسلہ میں ہے جو حضرت موسیٰ کی سرکردگی میں یہودیوں کے خروج کے وقت صحرا نوردی میں من و سلوئی کی شکل میں تازل ہوا تھا۔ انجیلوں کے مرتبین میں یوحنا واحد شخص ہیں جو اس پیچ کو بیان کرتے ہیں اپنی انجیل کی اگلی عبارت میں یوحنا یقیناً یسوع کے عشاءے ربانی کے حوالے کو روٹی پر تجاویز کی شکل میں بیان کرتے ہیں۔ لیکن کوئی دوسرا انجیل کا مرتب اس واقعہ کے متعلق گفتگو نہیں کرتا۔

اسی لئے ان دونوں امور پر ہر ایک شخص کو حیرت ہوتی ہے کہ جو بات باقی تین مرتبین انجیل بیان کرتے ہیں اس پر یوحنا خاموش رہتے ہیں اور اس بات پر جو یوحنا کے بموجب یسوع نے پیشین گوئی کے طور پر کہی تھی وہ لوگ خاموشی اختیار کرتے ہیں۔

بابیل، عہد نامہ جدید کے عالمی ترجمہ کے شارحین یوحنا کی انجیل میں اس ترک کا ضرور اعتراف کرتے ہیں اس واقعہ کو کہ عشاءے ربانی کی رسم کا تذکرہ غائب ہے۔ بتاتے ہوئے وہ یہ تشریح پیش کرتے ہیں: "عام طور پر یوحنا قدیم اسرائیلی روایات اور رسوم کے بیان کرنے میں زیادہ دلچسپی نہیں لیتے۔ ہو سکتا ہے کہ اسی چیز نے ان کو عید فسخ پر عشاءے ربانی کے قیام کا اظہار کرنے سے باز رکھا ہو، کیا ہم لوگ سنجیدگی سے اس بات پر یقین کر لیں کہ یہودی عید فسخ میں عدم دلچسپی ہی وہ سبب تھا جس نے یوحنا کو جدید مذہب کی عشاءے ربانی میں انتہائی اساسی نوعیت کے عمل کی ایک رسم کو بیان کرنے سے باز رکھا۔"

تفاسیر کے ماہرین اس مسئلہ سے ایسے پوکھلائے کہ مذہبی لوگوں نے اپنے دماغوں کو پیشین گوئیوں یا یسوع کی زندگی کے واقعات میں عشاءے ربانی کے مترادف باتوں کو جو یوحنا نے بیان کی ہیں تلاش کرنے میں لگا دیا ہے۔ مثلاً او۔ کلہان اپنی کتاب "عہد نامہ جدید" نے لوائیوے تیرتاں میں بیان کرتے ہیں کہ پانی کا شراب کی شکل میں تبدیل ہو جاتا اور پانچ ہزار کو کھانا کھلا دینا آخری کھانے (عشاءے ربانی) کی متبرک رسم کا پیشگی نمونہ ہے یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ پانی شراب میں اس لئے تبدیل ہوا کہ مؤخر الذکر قاتا کے مقام پر ایک

شادی میں تھرٹھی تھی (یہ یسوع کا پہلا معجزہ تھا جو یوحنا نے یاب ۲: ۱-۱۲ میں بیان کیا ہے۔ وہ واحد مرتبہ انجیل میں تبصروں نے یہ بات بتائی) جہاں تک پانچ ہزار کو کھلانے کا تعلق ہے۔ یہ ان لوگوں کی تعداد تھی جن کو جو کے ۵ کلوچوں پر کھانے کے لئے بٹھایا گیا اور ان کی تعداد میں معجزانہ طریقہ پر اضافہ ہو گیا، یوحنا جب ان واقعات کو بیان کرتے ہیں تو وہ ان پر کوئی خاص تبصرہ نہیں کرتے اور اس سے ملتا جلتا واقعہ تفسیر کرتے وقت اس ماہر کے دماغ میں موجود رہتا ہے۔ کسی شخص کی بچھڑی اس واقعہ کی جو وہ (ماہر) اس سے اخذ کرتا اس کے اس نظریہ کے سوا کوئی دلیل نہیں آتی کہ ایک مفلوج شخص کو اچھا کرنے اور ایک مادر زاد اندھے کو بینائی عطا کرنے سے بپتسما کی پیشین گوئی ہوتی ہے، اور یہ کہ پانی اور خون جو یسوع کے قریب سے ان کی رحلت کے بعد جاری ہوئے ایک واحد حقیقت بن جاتے ہیں جو بپتسما اور عثائے ربانی دونوں کا حوالہ دیتے ہیں۔

عثائے ربانی سے متعلق ایک اور نظریہ جو یہی ماہر تفسیر میں پیش کرتا ہے فادر روگے نے اس کا حوالہ اپنی کتاب "انجیل کی ابتداء" (انی سی ایسیون ایوانشریل) میں دیتے ہیں۔ "بعض علمائے دین جیسے آسکر کلیمان (او۔ کلیمان) آخری کھانے سے پہلے پیروں کے دھونے کے بیان میں عثائے ربانی کی رسم سے ایک علامتی مترادف نکال لیتے ہیں۔۔۔۔۔"

تمام نظائر کی جو شارحین نے لوگوں کو سمجھانے کے لئے اختراع کی ہیں تاکہ وہ زیادہ آسانی سے یوحنا کی انجیل کی ان انتہائی پریشان کن فروگزاشتوں کو مان لیں معقولیت تلاش کر لیتا مشکل ہے۔

۱۰ پھر تیسرے دن قانامی کلیل میں ایک شادی ہوئی اور یسوع کی ماں وہاں تھی۔ اور یسوع اور اس کے شاگردوں کی بھی اس شادی میں دعوت تھی اور جب بچے ہو چکی تو یسوع کی ماں نے اس سے کہا کہ اس کے پاس بچے نہیں رہی یسوع نے اس سے کہا "اے عورت مجھے تجھ سے کیا کام ہے؟ ابھی میرا وقت نہیں آیا، اس کی ماں نے خادموں کو کہا "جو کچھ یہ تم سے کہے وہ کرو۔" وہاں یہودیوں کی طہارت کے دستور کے موافق پتھر کے چھ مٹکے رکھے تھے اور ان میں دود اور تین تین من کی گنجائش تھی۔ یسوع نے ان سے کہا "مٹکوں میں پانی بھر دو" پس انھوں نے ان کو بابل بھر دیا۔ پھر اس نے ان سے کہا "اب نکال کر میری مجلس کے پاس لے جاؤ" پس وہ لے گئے۔ جب میری مجلس نے وہ پانی چکھا جو بچے بن گیا تھا اور جانتا تھا کہ یہ کہاں سے آئی ہے مگر خادم جنھوں نے پانی بھرا تھا جانتے تھے، تو میری مجلس نے دُکھا کو بلا کر اس سے کہا "ہر شخص پہلے اچھی بچے پیش کرتا ہے اور ناقص اس وقت جب پی کر چھک گئے۔ مگر تو نے اب تک اچھی بچے رکھ چھوڑی ہے۔ یہ پہلا معجزہ یسوع نے قانامی کلیل میں دکھا کر اپنا بطلان ظاہر کیا اور اس کے شاگرد اس پر ایمان لائے۔ (مترجم)

یسوع کے مردوں میں اٹھنے کی وہی صورتیں

ایک بیان میں تخیل کی کارفرمائی کی ایک عمدہ مثال اس غیر معمولی واقعہ کی تصویر کشی کے سلسلہ میں پہلے ہی پیش کی جا چکی ہے جو متی کی انجیل میں یسوع کی رحلت کے ساتھ رونما ہونے کے متعلق بیان کیا گیا ہے۔ رفع مسیح کے بعد جو واقعات پیش آئے انہوں نے انجیلوں کے تمام ہی مرتبین کے لئے متضاد اور نامعقول بیانات کے لئے مواد فراہم کیا۔

فادر روگے اپنی کتاب "انجیل کی ابتداء" صفحہ ۱۸۲ پر اس انتشا، بد نظمی اور تضاد بیانی کی مثالیں پیش کرتے ہیں جو ان تحریروں میں کارفرما ہے۔

"ان عورتوں کی فہرست جو مقبرہ پر آئیں تینوں کتب متفقہ (متی، مرقس اور لوقا کی انجیلوں)

میں سے ہر ایک میں یکساں نہیں ہے۔ یوحنا کے مطابق صرف ایک عورت آئی تھی۔ یعنی میری میگڈیلین۔ لیکن اس کی گفتگو جمع کے صیغہ میں ہوتی ہے جیسے کہ وہ کسی کی معیت میں ہے۔

"ہمیں نہیں معلوم کہ انہوں نے اس کو کہاں دفن کیا ہے" متی کی انجیل میں فرشتہ عورتوں کو بطور پیشین گوئی بتاتا ہے کہ یہ یسوع کا دیدار گلیل میں کریں گی۔ لیکن چند لمحوں بعد

یسوع مقبرہ کے قریب ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں غالباً لوقا اس وقت دو شوارہی کا احساس کر لیتے ہیں اور ماخذ کو تھوڑا سا بدل دیتے ہیں۔ فرشتہ کہتا ہے "یاد کیجئے کہ

جب وہ گلیل ہی میں تھا تو اس نے تم سے کیا کہا تھا۔۔۔۔۔" حقیقت میں لوقا محض

تین وہی صورتوں کا حوالہ دیتے ہیں۔۔۔۔۔" یوحنا یروشلم کے بالائی کمرے میں

ایک ہفتہ کے وقفہ سے دو وہی صورتوں کا تعین کرتے ہیں۔ اور تیسری کو جھیل کے قریب

یعنی گلیل میں بتاتے ہیں۔ متی گلیل میں مجبض ایک وہی صورت کا اندراج کرتے ہیں؛ شارح

اس جائزہ سے مرقس کی انجیل کے آخری جز کو خارج کر دیتا ہے جس کا تعلق وہی صورتوں سے ہے اس لئے کہ اس کو یقین ہے کہ غالباً اس کی تحریر میں کوئی دوسرا ہاتھ تھا۔

یہ تمام متعلق یسوع کی ان وہی صورتوں کے تذکرہ کی تردید کرتے ہیں جو پال کے کورنٹیوں

کے نام پہلے خط میں مذکور ہیں (۱۵: ۵-۷) اور جو صورتیں ایک دم پانچ سو سے زیادہ لوگوں

۱۵ اور کیفا اور اس کے بعد ان بارہ کو دکھائی دیا۔ پھر پانچ سو سے زیادہ بھائیوں کو ایک ساتھ دکھائی دیا جن میں سے اکثر اب تک موجود ہیں اور بعض سو گئے۔ پھر یعقوب کو دکھائی دیا۔ پھر سب رسولوں کو

اور سب سے پیچھے مجھ کو۔ (مترجم)

کو، یعقوب کو پھر سب رسولوں کو اور پھر فی الحقیقت خود پال کو دکھائی دیں۔

لہذا اس کے بعد فادر روگے کی اسی کتاب میں یہ نکتہ چینی دیکھ کر حیرت ہوتی ہے کہ جب رفع مسیح پر گفتگو کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ”بعض اسفار محرفہ میں شکوہ لفظی اور طفلانہ قسم کی توہم پرستی دکھائی دیتی ہے“ یقیناً یہ الفاظ خود منہی اور پال کے لئے پوری طرح موزوں ہیں۔ وہ یسوع کے مردوں میں سے اٹھنے کی وہی صورتوں کے موضوع پر دوسری انجیلوں سے قطعاً متناقض ہیں۔

اس سے ہٹ کر رسولوں کے اعمال میں یسوع کی وہی صورت کے بیان میں لوقا اور پال کے درمیان تضاد ہے۔ اور اس بات میں بھی متناقض ہے جو خود پال اس کے متعلق ایجاز کے ساتھ ہمیں بتاتے ہیں۔ اسی چیز نے فادر کینن جیسے کو اپنی کتاب ”رفع مسیح کا عقیدہ“ عقیدہ کا کھود ڈالتا، ۱۹۷۲ء میں اس بات پر زور دینے کی جانب مائل کیا ہے کہ پال جو مسیح کے اٹھائے جانے کے واہد عینی شاہد تھے۔ اور ان ہی کی تحریروں کے ذریعہ مسیح کی آواز براہ راست ہم تک پہنچتی ہے وہ کہیں بھی یسوع مسیح کے ساتھ اپنی ذاتی مدبھیٹر کا ذکر نہیں کرتے۔ وہی مسیح جو مردوں کے درمیان سے اٹھائے گئے تھے۔ سوائے تین انتہائی محتاط حوالوں کے وہ اس کے بیان کرنے تک سے احتراز کرتے ہیں۔ پال کے جو واہد عینی شاہد تھے لیکن غیر معتبر ہیں اور اناجیل کے درمیان تضاد بالکل واضح ہے۔

او۔ کلہمان اپنی کتاب ”عہد نامہ جدید“ (لونیو وے تسمان) میں لوقا اور منہی کے مابین تضادات کی نشاندہی کرتے ہیں۔ اول الذکر یسوع کے ظہور کو یہودہ میں اور ثانی الذکر گلیل میں قرار دیتے ہیں۔

لوقا۔ یوحنا کے تضاد کو بھی یاد رکھنا ضروری ہے۔ یوحنا (۲۱: ۱-۱۲) ایک ایسا واقعہ بیان کرتے ہیں جس میں یسوع مردوں کے درمیان سے اٹھ کر بجرہ طبریا کے قریب ماہی گیروں کے سامنے ظاہر ہوتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اتنی مچھلیاں پکڑ لیتے ہیں جو ان سے اٹھائے نہیں اٹھتیں۔ یہ مچھلی پکڑنے کے اس واقعہ سے متعلق معجزہ کی تکرار کے سوا کچھ بھی نہیں ہے جو اسی جگہ پر رونما ہوا تھا اور جس کو لوقا نے بھی یسوع کے حیات کے ایک واقعہ

لہ ان باتوں کے بعد یسوع نے پھر اپنے آپ کو تیریاں کی جھیل کے کنارے شاگردوں پر ظاہر کیا۔“ (یوحنا)۔

کے طور پر بیان کیا تھا (۱:۵ - ۱۱)۔
 ظہور کے ان واقعات کے متعلق گفتگو کرتے وقت قادر روگے ہمیں اپنی کتاب میں اس
 کا یقین دلاتے ہیں کہ "ان حضرات کا بغیر مربوط - مبہم اور بے ترتیب طرز عمل اعتماد پیدا کرتا
 ہے، اس لئے کہ یہ تمام حقائق اس بات کو ظاہر کرتے ہیں کہ انجیلوں کے مرتبین کے مابین
 کوئی اندرونی مصالحت نہیں تھی۔ ورنہ وہ حضرات اپنے بیان کردہ قصوں میں ضرور مطابقت
 پیدا کرتے۔ یہ یقیناً استدلال کا عجیب و غریب طریقہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ سب کے
 سب پوری دیانتداری سے ان قوموں کی روایتوں کو بیان کر سکتے تھے جو ان کے
 لئے نامعلوم (تمام تر تو ہم کے عناصر پر مشتمل تھیں۔ یہ مفروضہ اس صورت میں ناگزیر ہے جب
 کوئی شخص واقعات کے بیان میں ایسے تضادات اور ناممکنات سے دوچار ہوتا ہے۔

رفع مسیح

تضادات، بیانات کے بالکل آخر تک موجود رہتے ہیں اس لئے کہ نہ تو یوحنا اور نہ مٹی
 رفع مسیح کا کوئی حوالہ دیتے ہیں۔ صرف مرقس اور لوقا ہی ہیں جو اس کے بارے میں گفتگو
 کرتے ہیں۔

۱۷ جہاں تک مرقس کا تعلق ہے ان کے نزدیک یسوع (۱۶، ۱۹) آسمان پر لیجائے گئے اور
 وہاں خداوند خدا کے دائیں جانب بٹھا دیئے گئے۔ لیکن وہ کوئی صحیح تاریخ ان کے قبر سے اٹھائے
 جانے کی نہیں دیتے۔ تاہم اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ مرقس کی انجیل کی وہ مختتم عبارت
 جس میں یہ جملہ شامل ہے قادر روگے کے خیال میں ایک موضوع روایت ہے حالانکہ کلیسا
 کے نزدیک یہ مستند حیثیت رکھتی ہے۔

اب رہ جاتے ہیں لوقا جو انجیل کے وہ واحد مرتب ہیں جو رفع مسیح کے قصہ کی
 غیر تنازعہ روایت فراہم کرتے ہیں (۲۲، ۵۱)؛ "وہ ان سے جدا ہو گیا اور آسمان پر
 اٹھایا گیا۔ انجیل کے مرتب (لوقا) اس واقعہ کا تعین قبر سے اٹھائے جانے کے بیان کے اختتام

۱۷ جب بھیڑ اس پر گری پڑتی تھی اور خدا کا کلام سنتی تھی اور وہ گنہگار کی جھیل کے کنارے کھڑا تھا تو ایسا ہوا کہ
 اس نے جھیل کے کنارے دو کشتیاں لگی دیکھیں۔۔۔ " (لوقا) "یہ معلوم کرنا مشکل ہے کہ ایسا کیوں ہوتا!" (مترجم)
 ۱۸ غرض خداوند یسوع ان سے کلام کرنے کے بعد آسمان پر اٹھایا گیا۔ (مترجم)

پر اور گیارہ حواریوں کے سامنے مسیح کے ظہور پر کرتے ہیں انجیل کے بیان کی تفصیلات اس امر کی جانب اشارہ کرتی ہیں کہ رفع مسیح، قبر سے اٹھائے جانے کے بعد ظہور پذیر ہوا۔ رسولوں کے اعمال میں لوقا (جن کو ہر شخص ان کا مصنف خیال کرتا ہے) باب ۱، ۳ میں یسوع کے حواریوں کے سامنے ظہور کا تذکرہ دو راہتلا اور رفع مسیح کی درمیانی مدت میں حسب ذیل الفاظ میں ظاہر کرتے ہیں۔

اُس نے دکھ سہنے کے بعد بہت سے تہوتوں سے اپنے آپ کو ان پر زندہ ظاہر بھی کیا، چنانچہ وہ چالیس دن تک انھیں نظر آتا اور خدا کی بادشاہی کی باتیں کرتا۔
رفع مسیح کے عیسائی تہوار کو ایسٹریٹی قبر سے اٹھائے جانے کے تہوار کے چالیس دنوں کے بعد منقذ کرنے کی ابتداء رسولوں کے اعمال میں دی ہوئی اسی عبارت سے ہوئی۔ لہذا یہ تاریخ لوقا کی انجیل سے متناقض ہے۔ دوسری کسی انجیل کا متن بھی اس کو حق بجانب ثابت کرنے کے لئے اس سے مختلف انداز میں کچھ نہیں بتاتا۔

جو عیسائی اس بات سے واقف ہے وہ اس واضح تضاد سے بے انتہا بدحواسی اور گھبراہٹ محسوس کرتا ہے۔ بائبل کے عالمی ترجمہ، عہد نامہ جدید میں ان حقائق کا اعتراف کیا گیا ہے۔ لیکن وہ اس تضاد بیانی کی کوئی تشریح نہیں کرتا۔ وہ خود کو اسی حد تک محدود رکھتا ہے کہ وہ وضاحت پیش کر دے جس سے چالیس دنوں کی یسوع کے مشن سے مناسبت ہو سکتی ہے۔

شاعرین جو ہر چیز کی تشریح کرنے اور ناموافق باتوں میں توافق پیدا کرنے کے خواہشمند ہیں اس موضوع کی بعض عجیب و غریب تاویلات اور تشریحات پیش کرتے ہیں۔

مثلاً، انجیل اربع کا خاکہ مرتبہ ۱۹۷۲ء از مدرسہ بائبل واقع یروشلم (بائبلیکل اسکول آف جیروشلم) کی جلد ۲ صفحہ ۲۵۱ پر نہایت عجیب و غریب تشریحات ملتی ہیں۔

خود لفظ رفع مسیح پر حسب ذیل انداز سے تنقید کی گئی ہے: "فی الحقیقت، واقعہ جسمانی اعتبار سے رفع مسیح ہوا ہی نہیں۔ کیونکہ خدا تو جس طرح بلند یوں پر ہے اسی طرح پستیوں پر بھی ہے" (لیکن) اس تشریح کے مفہوم کو سمجھنا ہے مشکل کیونکہ ہر شخص اس شش و پنج میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ پھر آخر لوقا اپنے مافی الضمیر کو کیسے ادا کرتے۔

دوسری جگہ اس شرح کے مصنف صاحب اس واقعہ میں ایک ادبی نوعیت کی حکمت تلاش کر لیتے ہیں وہ یہ کہ "اعمال میں رفع مسیح کے واقعہ کو قبر سے اٹھائے جانے کے چالیس دن بعد

۱ یعنی گیارہ حواریوں کی طرف سے (حواری) جو اس پہلے ہی فوت ہو چکے تھے۔

وقوع پذیر ہونا بتانا گیا ہے۔ اس حکمت سے اس خیال پر زور دیا گیا ہے کہ زمین پر مسیح کے ظہور کا زمانہ اختتام کو پہنچ گیا ہے۔ تاہم وہ اس واقعہ کے تعلق سے اس بات کا اضافہ کرتے ہیں کہ لوقا کی انجیل میں ”یہ واقعہ ایسٹر کے اتوار کی شام کو رونما ہوتا ہے اس لیے کہ انجیل کا مرتب ان مختلف واقعات کے درمیان کوئی القطاع نہیں بتاتا جو قبر سے اٹھائے جانے کے دن صبح میں خالی قبر ملنے کے بعد رونما ہوئے۔۔۔۔۔“ یقیناً یہ بھی

اپنی نوعیت کی ایک حکمت اور تدبیر ہے جس کا مقصد مسیح کے جو مردوں کے درمیان سے اٹھائے گئے تھے ظاہر ہونے سے پہلے کچھ وقفہ دینا ہے۔

یوکلہا ہٹ جو ان تشریحات میں کارفرما ہے فادر روگے کی کتاب میں اور بھی نمایاں ہو جاتی ہے۔ ان کی دریافت کے بموجب رفع مسیح ایک مرتبہ نہیں بلکہ دو دفعہ ہوا۔

”جبکہ مسیح کے نقطہ نظر سے رفع مسیح کا واقعہ قبر سے اٹھائے جانے کے بعد منطبق ہو جاتا ہے اور حواریں کے نقطہ نظر سے یہ واقعہ اس وقت تک رونما نہیں ہوتا جب تک مسیح خود کو ان کے سامنے ظاہر نہیں کرتے۔ تاکہ روح ان کو دے دی جائے اور کلیسا کا دور شروع ہو سکے۔“

ان قارئین کے لیے جو اس دلیل کی دینی باریکیوں کو سمجھنے سے قاصر ہیں۔ جس کے لیے قطعاً کوئی الہامی بنیاد نہیں ہے، مصنف حسب ذیل عمومی نوعیت کی یہ تشبیہ کر دیتا ہے جو غدر خواہانہ اطناب سخن کا ایک نمونہ ہے۔

”یہاں جیسا کہ اور بہت سی ایسی ہی حالتوں میں ہوا کرتا ہے کہ مسئلہ صرف اس صورت میں ناقابل حل ہو جاتا ہے جب کوئی شخص بائبل کے بیانات کو لفظی طور پر سمجھنا چاہتا ہے اور ان کی مذہبی اہمیت کو فراموش کر دیتا ہے۔ یہ حقائق کو علامتی شکل دے کر مسخ کر دینے کا معاملہ نہیں ہے کہ اشاریت ایک غیر مستحکم نشے ہے بلکہ ان لوگوں کے دینی نقطہ نگاہ سے مقاصد کو سمجھنے کا مسئلہ ہے جنہوں نے ان اسرار و رموز کو ایسے حقائق پیش کر کے ہم پر منکشف کیا ہے۔ جن کو ہم اپنے حواس اور ایسی علامتوں سے سمجھ سکتے ہیں جو ہماری روح مجسم کے لیے موتوں و مناسب ہیں۔“

یسوع کے آخری مکالمے

یوحنا کی انجیل کا فارقلیط

یوحنا انجیل کے واحد مرتب ہیں جنہوں نے حواریوں کے ساتھ آخری مکالمہ کے واقعہ کا ذکر کیا ہے۔ یہ آخری کھانے کے بعد اور یسوع کی گرفتاری سے پہلے وقوع پذیر ہوتا ہے۔ یہ مکالمہ ایک طویل تقریر پر اختتام کو پہنچتا ہے۔ یوحنا کی انجیل میں چار ابواب (۱ تا ۱۷) اس بیان کے لیے مختص ہیں۔ جس کا دوسری انجیلوں میں کہیں ذکر تک نہیں کیا گیا۔ بنا بریں یوحنا کے یہ ابواب مستقبل کے لیے اولین اہمیت اور بنیادی ضرورت کے سوالات سے بحث کرتے ہیں۔ وہ اس تمام عظمت اور سنجیدگی و وقار کے ساتھ مرتب کئے گئے ہیں جو آقا اور ان کے حواریوں کے درمیان الوداعی منظر کی خصوصیت ہیں۔

یہ رقت انگیز رخصتی کا منظر جس میں یسوع کی روحانی وصیت بھی شامل ہے۔ متی، مرقس اور لوقا کے بیان سے قطعاً غائب ہے۔ اس بیان کی عدم موجودگی کی تشریح کیسے کی جاسکتی ہے؟ اس سلسلہ میں حسب ذیل سوالات کئے جاسکتے ہیں۔ کیا یہ واقعہ ابتداءً پہلی تینوں انجیلوں میں موجود تھا؟ کیا اس کو بعد میں دبا دیا گیا؟ ایسا کیوں ہوا؟ فوری طور پر تو اس کے بارے میں یہ بات کہنی پڑے گی کہ ان سوالات کا کوئی جواب نہیں ہے۔ پہلی تین انجیلوں کے راویوں کے بیانات میں اس زبردست خلا کا راز ہمیشہ کی طرح اب بھی دھندلکے میں ہے۔

اس بیان کی نمایاں خصوصیت — جو چوٹی کی تقریر میں دکھائی دیتی ہے — انسان کے اس مستقبل کا منظر ہے جس کا تذکرہ یسوع نے کیا ہے۔ ان کی وہ احتیاط جو اپنے حواریوں کو اور ان کے ذریعہ تمام نوع انسانی کو خطاب کرنے میں وہ برتتے ہیں ان کے وہ تفویضات اور اوامر تو ابھی اور ان کے شریعت سے متعلق وہ احکام جن پر ان کی رخصتی کے بعد لوگوں کو عمل کرنا ضروری ہے۔ یوحنا کی انجیل کا متن وہ واحد متن ہے جس میں ان کو یونان میں پراکلیتوس کے لقب سے ملقب کرتا ہے اور انگریزی زبان میں پہنچ کر پراکلیت (فارقلیط) ہو جاتا ہے ذیل میں ضروری اقتباسات دیئے جا رہے ہیں۔

”اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے حکموں پر عمل کرو گے اور میں باپ سے درخواست کروں گا تو وہ تمہیں دوسرا مدگار (فارقلیط) بخشے گا“ [۱۴: ۱۵-۱۶]۔

مدکار [فارقلیط] کا کیا مطلب ہے۔ یوحنا کی انجیل کا موجودہ متن اس کا مفہوم حسب ذیل

بیان کرتا ہے۔

”لیکن مدکار یعنی روح القدس جسے باپ میرے نام سے بھیجے گا وہی تمہیں سب باتیں سکھائے گا۔ اور جو کچھ میں نے تم سے کہا ہے وہ سب تمہیں یاد دلائے گا“ (۱۴: ۲۶)

وہ میری گواہی دے گا۔“ (۱۵: ۲۶)

میرا جانا تمہارے لیے فائدہ مند ہے کیونکہ اگر میں نہ جاؤں تو وہ مدکار تمہارے پاس نہ آئے گا۔ لیکن اگر جاؤں گا تو اسے تمہارے پاس بھیج دوں گا اور وہ آکر دنیا کو گناہ اور راستبازی

اور عدالت کے بارے میں قصور وار ٹھہرائے گا۔ . . .“ (۱۶: ۷-۸)

”جب وہ یعنی روح القدس آئے گا تو تم کو تمام سچائی کی راہ دکھائے گا۔ اس لئے کہ وہ اپنی طرف سے نہ کہے گا لیکن جو کچھ سنے گا وہی کہے گا۔ اور تمہیں آئندہ کی خبریں دے گا۔ وہ میرا

جلال ظاہر کرے گا۔ . . .“ (۱۶: ۱۳-۱۴)

یہ بات قابل غور ہے کہ یوحنا کی انجیل کی ابواب ۱۴-۱۵ کی وہ عبارتیں جو یہاں بطور حوالہ پیش کی گئی ہیں۔ ان اقتباسات کے عام مفہوم میں کسی طرح کی تبدیلی پیدا نہیں کرتیں۔

اگر سرسری طور پر مطالعہ کیا جائے تو یہ بات قرین قیاس نہیں رہتی کہ جس متن میں یونانی لفظ

پیراکلیت (فارقلیط) کو روح القدس قرار دیا گیا ہے۔ وہ توجہ کو اپنی جانب مبذول کرے۔ یہ

بات بالخصوص اس صورت میں صحیح ہے جب عموماً متن کے ذیلی عنوانات کا ترجمہ کیا جاتا ہے۔

اور مصطلحات کے شارحین اس کو عام اشاعت کے لیے کام میں لاتے ہیں۔ اس وقت وہ قارئین

کی توجہ ان عبارات میں اس مفہوم کی جانب منعطف کراتے ہیں جو انتہائی راسخ الاعتقاد ہی کی

بنا پر ان کو سمجھنا چاہیے۔ اگر کسی کو ان کے فہم میں ذرا سی بھی دقت محسوس ہو تو اس موضوع پر روشنی

ڈالنے کے لیے بہت سی تشریحات مل جائیں گی جیسے کہ اے۔ ٹریکوٹ نے اپنی ”عہد نامہ جدید“ کی

چھوٹی لغت [پیتی و کسونائرو و نو ایوے تیتاماں] میں دی ہیں۔ یہ شارح پیراکلیت (فارقلیط)

کے اندراج میں حسب ذیل بیان دیتا ہے۔

”یہ نام یا لقب جو یونانی سے ترجمہ ہو کر آیا ہے عہد نامہ جدید میں صرف یوحنا نے استعمال

کیا ہے انہوں نے شام کے کھانے کے بعد کی یسوع کی تقریر کے سلسلہ جو بیان دیا ہے اس

لے باب ۱۵ کی آیت ۲۶ کی پوری عبارت یہ ہے۔

”لیکن جب وہ مدکار آئے گا جس کو میں تمہارے پاس باپ کی طرف سے بھیجوں گا یعنی روح حق (یقیناً اگلے صفحہ پر)“

میں اس کو چار مرتبہ استعمال کیا ہے۔ [۱۲: ۱۶ اور ۲۶: ۱۵؛ ۱۶: ۲۶؛ ۱۷: ۱۷] اور ایک دفعہ اپنے مکتوب اول میں (۱، ۲) یوحنا کی انجیل میں یہ لفظ روح القدس کے لیے استعمال ہوا ہے۔ مکتوب میں اس سے مراد حضرت عیسیٰ ہے۔ پیرا کلیت (فارقلیط) پہلی صدی عیسوی کے دوران ہیلینی (یونانی) یہودیوں میں مروج ایک اصطلاح تھی جس کا مطلب تھا "شافع"۔ "محقق و ناصر" (۔۔۔) یسوع پیشینگوئی کرتے ہیں کہ روح القدس کو باپ اور بیٹا دونوں بھیجیں گے۔ اس کا کام یہ ہو گا کہ وہ اس کو دار میں بیٹے کی جگہ لے گی جو اس نے (بیٹے نے) اپنی فانی زندگی کے دوران اپنے حواریں کی قلاح و بہبود کے لیے بطور مددگار ادا کیا تھا۔ روح القدس درمیان میں آئے گی اور یسوع کے قائم مقام کی حیثیت سے کام کرے گی۔ اس کا کردار پیرا کلیت (فارقلیط) یا شافع مطلق کا ہو گا۔

اس لیے یہ لشریح روح القدس کو یسوع کے جانے کے بعد نوع انسانی کے آخری رہنما اور ہادی کی حیثیت سے پیش کرتی ہے۔ یہ بات یوحنا کے متن سے کیسے مطابقت رکھتی ہے؟ یہ ایک ضروری سوال ہے کیونکہ بنیادی طور پر یہ چیز عجیب معلوم ہوتی ہے کہ مذکورہ بالا آخری پیراگراف کو روح القدس سے منسوب کیا جائے، کیونکہ وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہے گا جو کچھ سننے گا وہی کہے گا۔ اور تمہیں آئندہ کی خبر دے گا۔ یہ بات ناقابل تصور معلوم ہوتی ہے کہ کوئی شخص روح القدس سے یہ امر منسوب کرے کہ جو کچھ وہ سنے وہی کہے۔۔۔۔۔ منطقی طور پر یہ سوال اٹھتا ہے لیکن جہاں تک میرے علم میں ہے یہ عام طور پر تشریحات کا موضوع نہیں ہے۔

اس مسئلہ کا صحیح تصور حاصل کرنے کے لیے اصلی یونانی متن کی جانب رجوع کرنا پڑتا ہے۔ یہ بات خصوصیت سے اہم ہے اس لیے کہ یوحنا کے بارے میں عام طور پر تسلیم کیا جاتا ہے کہ انھوں نے کسی دوسری زبان کے بجائے یونانی میں تحریر کیا تھا۔ جس یونانی متن سے رجوع کیا گیا تھا وہ نوٹسٹامینٹم گریس (یونانی عہد نامہ جدید) تھا۔

بقیہ حاشیہ: جو باپ سے صادر ہوتا ہے تو وہ میری گواہی دے گا، اور تم بھی گواہ ہو کیونکہ شروع سے میرے ساتھ ہو [مترجم]

اس فی الحقیقت یوحنا کے نزدیک یہ واقعہ آخری کھانے کے دوران ہوا کہ یسوع نے وہ طویل تقریر کی جس میں پیرا کلیت کا ذکر آیا ہے۔ (مترجم)

۱۷ نیلے اینڈ ایلانہ شائع کردہ یونائیٹڈ بائبل سوسائٹیز۔ لندن ۱۹۷۱ء (مترجم)

تمن پر کوئی سنجیدہ تنقید، اختلافات کے متعلق تحقیق سے شروع ہوتی ہے۔ اس سلسلہ میں یہ پتہ چلے گا کہ یوحنا کی انجیل کے تمام مخطوطات میں، وہ واحد اختلاف جس سے اس جملہ کے مفہوم میں فرق پڑ جاتا ہے مشہور پالمیسٹ کی اشاعت کے جز ۲۶، ۱۴ میں ہے جو سریانی میں تحریر کیا گیا تھا اس موقع پر وہ روح القدس نہیں ہے جس کا حوالہ دیا گیا بلکہ نہایت سیدھے اور صاف طریقہ پر روح ہے کیا کاتب سے ایک لفظ ترک ہو گیا ہے یا یہ جانتے بوجھتے کہ جس تمن کو وہ نقل کر رہا ہے اس بات کی متقاضی ہے کہ روح القدس کو اس طرح پیش کرے کہ جو کچھ وہ سننے وہی کہے۔ اس نے غالباً کوئی ایسے بات جو اس کو نامعقول معلوم ہوتی لکھنے کی جرات نہیں کی۔ اس مشاہدہ سے ہرگز دوسرے اختلافات کے کھوج لگانے کی زحمت کرنے کی چنداں ضرورت نہیں رہتی۔ یہ اختلافات قواعد کی رو سے ہیں اور ان سے عام مفہوم میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ خاص بات جس کا اظہار افعال "سننے" اور "کہنے" کے صحیح مفہوم کے سلسلہ میں اس موقع پر کیا گیا ہے وہ یوحنا کی انجیل کے جملہ مخطوطات پر بھی صادق آتا چاہیے اور یہی فی الحقیقت صحیح ہے۔

ترجمہ میں فعل "سنا" یونانی زبان کا فعل "اکود" ہے جس کا مفہوم ہے "آوازوں کا محسوس کرنا" مثال کے طور پر اسی سے ہمیں لفظ "اکوسٹکس" حاصل ہوا ہے جس کو سمعیات (آوازوں کا علم) کہتے ہیں۔

فعل "کہتا" یونانی زبان کے لفظ "لائیو" کا ترجمہ ہے جس کے عام معنی "آوازیں نکالنا" ہیں اور یہ "کہتے" یا بولنے کا خصوصی مفہوم ہے۔ یہ لفظ انجیل کے یونانی متن میں بڑی کثرت سے استعمال ہوا ہے۔ یہ یسوع کے اس باضابطہ بیان کا خصوصی نام ہے جو انھوں نے اپنے مواعظ کے دوران دیا تھا۔ لہذا یہ امر بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ نئی نوع انسان کو وہ اطلاع جس کا وہ (یسوع) اس موقع پر اظہار کر رہے ہیں کسی اعتبار سے بھی ایک ایسا بیان نہیں ہو سکتا جو روح القدس کے ذریعہ سے دل میں ڈالا جائے علاوہ ازیں اس کی ایک نہایت واضح مادہی خصوصیت ہے جو "آوازوں کے نکالنے کے تصور سے برآمد ہوتی ہے اور یہ تصور اس یونانی لفظ سے ادا ہوتا ہے جو اس کی وضاحت کرتا ہے۔

لہذا یونانی زبان کے دو مصاور "اکود" اور "لائیو" ایسے مرئی افعال کا تعین کرتے ہیں

اسے یہ مخطوطہ چوتھی یا پانچویں صدی عیسوی میں لکھا گیا تھا۔ اور اس کو آگنس۔ ایس۔ لیوس نے جبل سینا پر ۱۸۱۲ء میں دریافت کیا تھا۔ اس کا یہ نام اس لیے ہوا کہ پہلے تمن کو بعد کے ایک تمن نے چھپایا تھا جس کے محاورہ نیست و نابود ہونے پر اصل تمن برآمد ہوا تھا۔

جن کا اطلاق ایک ایسی ہستی پر ہوتا ہے جو سماعت اور منطق کے اعضاء رکھتی ہو۔ نتیجتاً یہ بات ناممکن ہے کہ ان کو "روح القدس" کے لیے استعمال کیا جائے۔

اسی وجہ سے اس عبارت کا تین جو یوحنا کی انجیل سے جو یونانی مخطوطہ کے ذریعہ ہم تک پہنچا ہے، ماخوذ ہے اس صورت میں قطعاً ناقابل فہم ہو جاتا ہے اگر اس کو بحیثیت مجموعی لیا جائے جس میں اجزاء ۱۴، ۲۶ میں شامل روح القدس کے الفاظ بھی داخل ہوں: "لیکن پیرا کلیت (مددگار) یعنی روح القدس جسے باپ میرے نام سے بھیجے گا" وغیرہ یہ یوحنا کی انجیل میں واحد عبارت ہے جو مددگار (پیرا کلیت) کو روح القدس سے متماثل کرتی ہے۔

اگر الفاظ "روح القدس (لونیو مائیو آجیون) کو عبارت سے خارج کر دیا جائے تو یوحنا کا مکمل متن بامعنی ہو جاتا ہے جو بالکل واضح اور صاف ہے علاوہ ازیں یہ بات اسی انجیل کے مرتب کے ایک دوسرے متن یعنی مکتوب اول سے بھی مستحکم ہو جاتی ہے۔ جہاں یوحنا نے اسی لفظ پیرا کلیت (مددگار) صرف یسوع کے مفہوم کے لیے استعمال کیا ہے جو خداوند خدا کے نزدیک "شافع" کا درجہ رکھتے ہیں۔ یوحنا کے قول کے بموجب جب یسوع کہتے ہیں (۱۶، ۱۴) "اور میں باپ سے درخواست کروں گا تو وہ تمہیں دوسرا مددگار بھیجے گا" جو کچھ وہ (یسوع) اس موقع پر کہہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ بنی نوع انسان کے پاس ایک دوسرا شفاعت کرنے والا بھیجا جائے گا جیسے کہ وہ خود اپنی حیات دنیوی کے دوران انسانوں کی طرف سے بارگاہ خداوندی میں شفاعت کرتے رہے ہیں۔

اسی لیے منطق کے اصولوں کے مطابق یوحنا کے پیرا کلیت (فار قلیط یا مددگار) میں یسوع کے مانند ایک بشر نظر آتا ہے جو سماعت اور منطق کی وہ صلاحیتیں رکھتا ہے جن کا اظہار یوحنا کے یونانی متن سے ہوتا ہے بنا بریں یسوع پیشینگوئی کرتے ہیں کہ خداوند بعد میں ایک فرد بشر کو کرہ ارض پر بھیجے گا جو وہی کردار ادا کرے گا جس کا تعین یوحنا نے کیا ہے یعنی وہ ایک پیغمبر ہو گا جو خدا کا کلام سنتا ہے اور اس کا پیغام بنی نوع انسان کو پہنچاتا ہے۔ اگر الفاظ کو ان کے مناسب معنی دیے جائیں تو یوحنا کے متون کی یہ وہ منطقی توضیح و تشریح ہوتی ہے جس پر بالآخر انسان پہنچ جاتا ہے۔

"روح القدس" کی اصطلاح کی موجودگی جو آجکل کے متن میں ہے بعد کے اضافوں کا نتیجہ

سے انجیل کے بہت سے ترجموں اور تشریحات میں خصوصاً ان میں جو زیادہ قدیم ہیں، اس کا ترجمہ "تسلی دینے والا" کیا گیا ہے لیکن یہ کلیتہً غیر صحیح ہے۔

ہوسکتی ہے جو عدا کیے گئے ہیں۔ اس کا مقصد اس ابتدائی مفہوم کو بدلنا ہوسکتا ہے جس سے یسوع کے بعد ایک پیغمبر کی بعثت کی پیشینگوئی ہوتی تھی اور اس لیے اس سے عیسائی گرجاؤں کی اس تعلیم و تبلیغ کی مخالفت ہوتی تھی جو ان کی تخلیق کے وقت کی جارہی تھی ان تعلیمات میں یہ بتایا جاتا تھا کہ مسیح سب سے آخری نبی ہیں۔

نتائج

جو حقائق یہاں بیان کیے گئے ہیں اور متعدد انتہائی معروف عیسائی مفسرین کی جو تشریحات پیش کی گئی ہیں وہ اس راسخ العقیدگی کی تردید ہی تو ثبوتات ہیں جن کی حمایت ان خطوط پر کی گئی ہے جو اناجیل کے مطلق تاریخی استناد کی بنیاد پر آخری کونسل نے اختیار کئے تھے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو کچھ یسوع نے واقعی میں کیا اور سکھایا تھا وہی باتیں دیا نترامی سے منتقل کر دی گئی ہیں۔

اس سلسلہ میں مختلف نوعیت کے متعدد دلائل دیئے گئے ہیں۔

اول یہ کہ خود اناجیل کے اقتباسات سے ہی صاف طور پر تضادات کا اظہار ہوتا ہے۔ دوا ایسے حقائق پر جو باہم متناقض ہوں یقین کر لینا ناممکن ہے۔ نہ ہی بعض ان ناممکنات کو اور ان بیانات کو تسلیم کیا جاسکتا ہے جو ان مصدقہ مقدمات کے صریحاً خلاف ہیں جو جدید معلومات نے فراہم کیے ہیں۔ اس اعتبار سے اناجیل میں دیئے ہوئے یسوع کے دو نسب نامے اور وہ غلط بیانیوں جو ان میں مضمحل ہیں قطعی طور پر تصفیہ کن امور ہیں۔ یہ تضادات، ناممکنات اور مبہمات بہت سے عیسائی نظر انداز کرتے چلے آئے ہیں۔ انہیں اس وقت حیرت ہوتی ہے جب وہ ان پر منکشف ہوتے ہیں اس لیے کہ وہ ان تشریحات کے مطالعہ سے متاثر ہوئے ہیں جن میں دقیق قسم کی ایسی توضیحات و تاویلات پیش کی گئی ہیں جو ان کو یقین دلا دیتی اور معذرت خواہانہ جذباتیت سے غنائی انداز میں ان کے اذہان میں مرقم کر دی جاتی ہیں۔ بعض بڑی مخصوص طرز کی مثالیں اس فنکاری کی دی گئی ہیں جو تقاسیر میں بعض ماہرین نے ان باتوں کے ذریعہ پھیلانے میں اختیار کی ہیں جن کو وہ معصومانہ طور پر مشکلات، کا نام دے دیتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اناجیل میں بہت کم ایسی عبارتیں ہیں جن کو غیر مستند قرار دیا گیا ہے اگر کلیسا ان کے شرعی ہونے کا اعلان کرتا ہے۔

فادر کینن ٹری اسے کے قول کے مطابق جن سے متعلق جدید تنقید پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں

انہوں نے ایسے حقائق کو دانشگاہ کیا ہے جو بائبل کی تفاسیر کے طرفوں میں ایک ایسا انقلاب
 بپا کر دیں گے جن سے یسوع کے متعلق حقائق جو اناجیل میں درج ہیں ان کے لغوی معنی نہ لئے
 جائیں بلکہ ان کو موقع کے مناسب تحریریں یا "مناظرانہ تحریریں" قرار دیا جائے۔ جدید معلومات
 یہودی۔ عیسائیت کی تاریخ اور فرقوں کے مابین رقابت پر روشنی پڑی ہے جس سے ان
 حقائق کے وجود کا سبب معلوم ہوتا ہے جن کو آجکل کے قارئین پریشان کن سمجھتے ہیں! اپنی آنکھوں
 سے مشاہدہ کرنے والے راویان انجیل کا تصور اب ایسا نہیں رہا ہے جس کی حمایت کی جاسکے۔ اگرچہ
 متعدد عیسائی آج بھی ایسے ہیں جو اس تصور کو قائم رکھے ہوئے ہیں۔ یروشلم کے بیلیکل اسکول
 میں جو کام ہوا ہے (فادرس بنوائے اور پو امارا) اس سے یہ بات صاف صاف ظاہر ہو جاتی
 ہے کہ اناجیل متعدد بار لکھی گئیں ان پر نظر ثانی کی گئی اور ان میں اصلاح ہوئی۔ ان سے
 قاری کو یہ شبہ بھی ہو جاتی ہے کہ وہ "ایک سے زیادہ بار اس تصور کو ترک کرنے پر مجبور ہو
 جاتا ہے کہ یسوع کی آواز پر راہ راست سنی جاتی ہے"

اناجیل کی تاریخی حیثیت خارج از بحث ہے۔ تاہم یسوع سے متعلق بیانات کے ذریعہ
 یہ شہادتیں سب سے زیادہ ہیں ان کے مصنفین کے کردار کے بارے میں معلومات فراہم کرتی ہیں
 وہ لوگ ابتدائی دور کے ان عیسائی فرقوں کی روایت کے ترجمان تھے جن سے ان کا تعلق
 تھا۔ اور خصوصیت سے یہودی عیسائیوں اور پال کے مابین ہونے والے تنازع کے متعلق
 معلومات حاصل ہوتی ہے۔ کارڈنیل وینو لو کا بیان نکات پر سند کی حیثیت رکھتا ہے۔

اس حقیقت پر حیرت کی کیا بات ہے کہ کچھ راویان انجیل یسوع کی زندگی کے بعض واقعات
 کو ایک ذاتی نقطہ نظر کے تحفظ کی غرض سے توڑ مروڑ کر پیش کر دیتے ہیں؟ پھر بعض واقعات
 کے ترک کر دینے پر تعجب کیوں ہو؟ اور ان دیگر واقعات کی جو بیان کئے گئے ہیں فرضی نوعیت
 پر حیرت و استعجاب کے کیا معنی؟

یہ بات ہماری رہنمائی اس امر میں کرتی ہے کہ اناجیل کا مقابلہ ان بیانیہ نظموں سے کریں
 جو قرون وسطیٰ کے ادب میں پائی جاتی ہیں۔ ایک واضح مقابلہ رولینڈ کے نغمہ رشانسوں دے
 رولان) سے کیا جاسکتا ہے جو اس نوعیت کی تمام نظموں میں سب سے زیادہ معروف ہے اور
 جس میں ایک حقیقی واقعہ کو بخوبی انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ یہ ایک حقیقی سانحہ ہے۔

اس واقعہ کا تعلق تاریخ اندلس سے ہے۔ جب عبدالرحمن الداخل اندلس میں پہنچ کر سربراہانے سلطنت ہو گیا
 تو شہنشاہ فرانس شارلیان نے غالباً عباسی خلیفہ کے ایما سے اندلس پر حملہ کر دیا اور مرسطہ (یعنی اگلے صفحہ پر)

رو لینڈ شارلیمان کے عقبی دستے کی قیادت کر رہا تھا۔ جب اس دستہ پر رانی وال کے درہ پر مکین گاہ سے نکل کر حملہ کیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ ساتھ جو معمولی نوعیت کا تھا تاریخی دستاویزات کے بموجب ۱۵ اگست ۱۸۷۰ء کو روٹنہاؤس ہارڈم اس کو بڑھا چڑھا کر ایک عظیم جنگی کارنامہ کا درجہ دے دیا گیا۔ اور ایک مذہبی لڑائی کی شکل میں پیش کیا گیا۔ یہ ایک انوکھی قسم کا بیان ہے۔ لیکن بحیل عنصر اس واقعی جنگ کو مخو نہیں ہونے دیتا جو شارلیمان کو اپنی حدود سلطنت کی ان گوشوں کے خلاف حفاظت کے لیے لڑنی پڑی جو پڑوس کی قوموں نے اس کی مملکت میں گھسنے کے لیے کی تھیں۔ یہ عنصر صداقت کا ہے اور داستان کارزمیہ انداز اس عنصر کو ختم نہیں کر دیتا۔ یہی بات اناجیل پر بھی صادق آتی ہے۔ مٹی کے توہمات، اناجیل کے درمیان واضح تضادات، ناممکنات اور حیرت انگیز سائنسی معلومات کے ساتھ تناقضات، جن میں متواتر غلط بیانیوں کا یہ تمام وہ باتیں ہیں جو اس حقیقت کو نمایاں کر دیتی ہیں کہ اناجیل میں ایسے ایوان اور اجزاء شامل ہیں جو خالص انسانی بحیل کی پیداوار ہیں۔ تاہم یہ کوتاہیاں یسوع کے منشن کے وجود میں شک و شبہ پیدا نہیں کرتیں۔ شبہ جو ہے وہ کلیتہً اس طریقہ کار تک محدود ہے۔ جو اس سلسلہ میں اختیار کیا گیا۔



یقینہ حاشیہ :- کا محاصرہ کر لیا لیکن جب اسے معلوم ہوا کہ وہی کڈتے جلا وطنی سے واپس آکر سکون کو دوبارہ برائی کھنٹتے کر دیا ہے وہ واپسی پر مجبور ہوا لیکن باسکس قوم کے ہاتھوں اس کی عقبی فوج تباہ ہو گئی لیکن پول لکھتا ہے کہ اسپین کے شاعروں اور بھاؤن نے اس کے متعلق جھوٹ سچ واقعات لکھے ہیں۔ (مترجم)



قرآن اور جدید سائنس

تمہید

قرآن اور سائنس کے درمیان تعلق بنیادی طور پر ایک حیرت خیز امر معلوم ہوتا ہے خصوصیت سے اس صورت میں جب یہ تعلق یکسانیت و ہم آہنگی کا ہو اور اختلاف و ناموافقیت کا نہ ہو۔ ایک مذہبی کتاب اور دنیوی خیالات کے مابین مقابلہ وہ بھی سائنس کی بنیاد پر غالباً بہت سے لوگوں کی نگاہ میں آج کل ایک اُلٹی سی بات معلوم ہوتی ہے۔ دراصل ایک مختصر سی تعداد کے استثنائی کے ساتھ سائنسدانوں کی اکثریت مادی نظریات سے وابستہ ہے اور وہ مذہبی مسائل سے محض لا تعلق یا نفرت کا جذبہ رکھتے ہیں جس کو وہ اکثر خرافات و روایات پر مبنی قرار دیتے ہیں علاوہ ازیں مغربی دنیا میں جب سائنس اور مذہب پر بحث ہوتی ہے تو لوگ مذہبوں کا حوالہ دیتے ہوئے یہودیت اور عیسائیت کا ذکر کرنے پر قانع رہتے ہیں اور اسلام کے بارے میں مشکل ہی سے سوچتے ہیں۔ دراصل اس کے بارے میں غیر صحیح تصورات کی بنیاد پر اس قدر غلط فیصلے کر دیئے گئے ہیں کہ فی زمانہ اسلام کی حقانیت پر کوئی صحیح تصور قائم کرنا بڑا مشکل معلوم ہوتا ہے۔

اسلام سے متعلق الہام اور سائنس کے درمیان کسی مقابلہ کی تمہید کے طور پر یہ بات ضروری معلوم ہوتی ہے کہ اُس مذہب کا جس کے متعلق مغربی دنیا میں بہت کم معلومات ہیں ایک خاکہ پیش کر دیا جائے۔

اسلام کے بارے میں جو انتہائی غلط بیانات مغرب میں پیش کیے جاتے ہیں وہ بعض اوقات تو تا واقعیت کا نتیجہ ہوتے ہیں اور بعض اوقات باقاعدہ طور پر بدنام کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ تمام غلط بیانیوں میں جو اس سلسلہ میں کی جاتی ہیں سب سے زیادہ سنگین وہ ہیں جن کا تعلق واقعات سے ہے۔ اس لئے کہ غلط رائیں پھر بھی قابل معافی ہیں لیکن واقعات کا جو حقیقت کے مخالف ہوں پیش کرنا معاف نہیں کیا جاسکتا۔ جب ان کے انقدر کتابوں میں جن کے مصنفین بنیادی طور پر نہایت فاضل ہیں نہایت مکروہ قسم کی غلط بیانیوں مطالعہ میں آتی ہیں تو ذہن میں پراگندگی پیدا ہو جاتی ہے۔ ذیل میں ایک مثال درج ہے جو یونیورسٹی آف سائیکلو پیڈیا جلد ششم سے لی گئی ہے۔ اناجیل کے عنوان کے تحت مصنف مؤخر الذکر اور قرآن کے

ما بین اختلافات کا حوالہ دیتا ہے۔ ”انجیل کے مرتبین (.....) قرآن کی طرح خود نوشت سوانح عمری کو متقبل کرنے کا دعویٰ نہیں کرتے (.....) جیسے کہ خدا وحی کے ذریعہ پیغمبر صاحب کو پہنچاتا ہے۔۔۔“ فی الحقیقت قرآن کریم کا خود نوشت سوانح عمری سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ یہ ایک اخلاقی درس ہے اگر ناقص ترین ترجمہ کی بھی مدد لی جاتی تو مصنف پر یہ امر منکشف ہو جاتا۔ جس بیان کا ہم نے حوالہ دیا ہے وہ حقیقت سے اتنا ہی بعید ہے جتنا کہ کوئی شخص یہ کہے کہ انجیل تذکرہ ہے۔ انجیل کے ایک مرتب کی زندگی کا قرآن کے بارے میں اس غلط بیانی کا ترکیب ایک ایسا شخص ہے جو فرقہ جسوٹ کے شعبدہ دینیات واقع لیون میں پروفیسر ہے اس واقعہ سے کہ لوگ اس نوع کی غلط بیانیاں کرتے رہتے ہیں قرآن اور اسلام کا ایک غلط تصور اور تاثر قائم کرنے میں مدد ملتی ہے۔ تاہم اس وقت ایک امید بندھتی ہے اس لئے کہ اب مذاہب کی حیثیت کسی داخلی مشاہدہ کی نہیں رہی ہے جیسے کہ پہلے تھی اور ان میں سے کئی ایسے ہیں جو باہمی مفاہمت کے درپے ہیں اس حقیقت کو جان کر یقیناً ہر شخص کو ایک کنا طمانیت ہوگی کہ روٹن کیتھولکس کی جانب سے کلیسائی حکومت کی بلند ترین سطح پر یہ کوشش ہو رہی ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ روابط پیدا کیے جائیں وہ لوگ غلط فہمیوں کے خلاف ایک طرح کی جدوجہد کر رہے ہیں اور ان کی انتہائی کوشش ہے کہ اسلام کے خلاف جو غلط نظریات اس قدر وسعت سے قائم ہو گئے ہیں ان کو بدلا جائے۔

اس کتاب کے ابتدائیہ میں میں نے اس بڑی تبدیلی کا ذکر کیا تھا جو گذشتہ چند سالوں میں رونما ہوئی ہے اور میں نے ایک ایسی دستاویز کا حوالہ دیا تھا جو ویٹیکن میں واقع غیر عیسائی امور کے دفتر سے اس عنوان کے ساتھ جاری کی گئی تھی کہ ”عیسائیوں اور مسلمانوں کے درمیان ایک مناظرہ کا تعین“، [اور نیٹا سیلوں پوران دیا لوگ انیٹر کریمس اے مسلمان] یہ اس اختیار سے ایک نہایت اہم دستاویز ہے کہ اس میں اسلام کی جانب اختیار کیے جانے والے ایک نئے رویہ کی نشان دہی کی گئی ہے۔ اس تحریر کی تیسری اشاعت (۱۹۷۰ء) کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ طرز عمل اسلام کی جانب ہمارے رویہ پر نظر ثانی کرنے اور ہماری عصبیتوں کا تنقیدی جائزہ لینے کی طرف مائل کرتا ہے۔۔۔۔۔ ہمیں پہلے اس طریقہ میں جو ہمارے عیسائی بھائی اس کا جائزہ لینے میں اختیار کرتے ہیں تدریجی طور پر تبدیلی کر لینی چاہیے۔ یہ کام سب سے زیادہ اہم ہے۔۔۔۔۔ ہمیں اس فرسودہ تصور کو جو ماضی سے ورثہ میں ملا ہے یا عصبیت اور بہتان کے سبب مسخ ہو گیا ہے صاف کر لینا پڑے گا۔۔۔۔۔

اور "ہمیں مسلمانوں کے ساتھ کی جانے والی سابقہ نا انصافی کا جس کو مغرب اپنی عیسائیت کی تعلیم کی وجہ سے قصور وار ٹھہرتا ہے اعتراف کر لینا پڑے گا" ویٹیکن کی دستاویز تقریباً ۵۰ صفحات کی ہے۔ لہذا اس میں اس کلاسیکی نظریہ کے ابطال کو تفصیلی طور پر بیان کیا گیا ہے جو عیسائی اسلام کے بارے میں قائم کئے ہوئے تھے اور ساتھ ہی حقیقت کو پیش کیا گیا ہے۔

اس عنوان کے تحت "اپنی بدترین عصبیتوں سے ہمارے تئیں آزادی دلانا،" [تولبریر و نوپرے ژو ژے پلو تو تابل] مصنفین عیسائیوں کو حسب ذیل مشورے دیتے ہیں۔ "یہاں بھی ہمیں اپنے طرز عمل کی بڑی حد تک تطہیر کرنی پڑے گی خصوصاً اس سے جو کچھ مراد ہے وہ بعض مقررہ فیصلے ہیں جو اکثر و بیشتر اور انتہائی رواروی میں اسلام کے بارے میں کر لئے جاتے ہیں۔ یہ امر لازم ہے کہ ہم اپنے قلب کی گہرائیوں میں ایسے نظریات قائم نہ کر لیں جن پر ہم آسانی اور سہل انکاری سے پہنچ جاتے ہیں اور جو راسخ العقیدہ مسلمانوں کو غلجان میں مبتلا کر دیتے ہیں۔"

اس نوع کا انتہائی اہم نظریہ ہمارا وہ طرز عمل ہے جس کی وجہ سے لوگ لفظ "اللہ" کو تو ان کے ساتھ "مسلمانوں کے خدا کے" معنوں میں استعمال کرتے ہیں گویا مسلمان ایک ایسے خدا پر یقین رکھتے ہیں جو عیسائیوں کے خدا سے مختلف ہے۔ "اللہ" کے معنی عربی میں "معبود یا قابل پرستش ہستی" کے ہیں۔ یہ خدائے واحد کی ذات ہے جس کی صحیح تشریح کرنے سے ہی لفظ "خدا" اس لفظ کے صحیح مفہوم کو سمجھنے میں مدد دے سکتا ہے۔ اللہ سے مراد حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ مسیح کے خدا کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔

۱۹ تاریخ کا ایک دور وہ بھی تھا جب اسلام سے عناد خواہ کسی شکل و صورت میں بھی ہوتا اور کلیسا کے کسی ماننے ہوئے دشمن کی جانب سے بھی ظاہر کیا جاتا کیتھولک چرچ کے سربراہان کے حلقوں میں قلبی استحسان کے ساتھ تسلیم کر لیا جاتا تھا۔ چنانچہ پوپ بیٹے ڈکٹ چہاردہم جو اٹھارویں صدی کے سب سے بڑے دینی پیشوا مشہور ہیں انھوں نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے والٹر کو اپنی جانب سے مبارک باؤ بھیجی تھی جو اس انتساب کے شکریہ کے طور پر تھی جو اس نے لوالیٹر نے اپنے تحریر کردہ المیہ "محمد یا تعصب" [ماٹھمیٹ] اور لوفانیٹر [م] کے سلسلے میں کیا تھا یہ ایک انتہائی مکروہہ جوہر تصیف تھی جو کوئی بد عقیدہ مکار تک بند ہی کسی ایسے موضوع پر لکھ سکتا تھا۔ ایک بڑے آغاز کے باوصف اس ڈرامہ نے اتنی زیادہ مقبولیت حاصل کی کہ وہ کو میدی۔ فرانسینر کے تماشوں کے ذخیرہ میں شامل کر لیا گیا۔

وٹیکن میں واقع غیر عیسائی امور کے دفتر سے جاری شدہ دستاویز اس بنیادی نکتہ پر حسب

ذیل الفاظ میں زور دیتی ہے۔
 ”اس بات پر حجبے رہنا کہ اللہ حقیقتاً خدا نہیں ہے ایک لائینی سی بات ہے۔ مغرب کے بعض لوگ یہی طرز عمل اختیار کئے ہوئے ہیں۔ کلیسائی دستاویزات نے مذکورہ بالا اپنے اس بیان و اداء کی صحت کر لی ہے۔ خدا پر اسلامی عقیدہ کے اظہار کے لئے اس سے بہتر کوئی طریقہ نہیں ہے کہ لوہین گنٹیم کے حسب ذیل اقتباسات کا حوالہ دے دیا جائے۔ مسلمان حضرت ابراہیم کے عقیدہ کو مانتے ہیں اور ہماری طرح خدائے واحد و رحیم کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ وہی خدا ہے جو یوم الحساب میں انسانوں کے اعمال کا فیصلہ کرے گا۔۔۔۔۔“

اسی لئے یورپی زبانوں کے اس عام رواج پر کہ وہ ”خدا“ کے بجائے ”اللہ“ کہتے ہیں۔ مسلمانوں کا احتجاج کرنا سمجھ میں آسکتا ہے۔۔۔۔۔ شائستہ طور مسلمانوں نے دی۔ ماسوں کے قرآن مجید کے فرانسیسی ترجمہ کی تعریف کی ہے جنہوں نے آخر کار بجائے اللہ کے دیو (خدا) کا لفظ استعمال کیا ہے۔

وٹیکن دستاویز حسب ذیل وضاحت کرتی ہے: ”اللہ وہ واحد لفظ ہے جو عربی بولنے والے عیسائی خدا کے لئے استعمال کرتے ہیں“

مسلمان اور عیسائی ایک ہی خدا کی عبادت کرتے ہیں۔
 اس کے بعد وٹیکن دستاویز ان دوسرے غلط فیصلوں کا ایک تنقیدی جائزہ لیتی ہے جو اسلام کے متعلق کئے جاتے ہیں۔

”اسلامی مسئلہ تقدیر، ایک اور عصبیت ہے جو بید شہرت پائے ہوئے ہے۔ دستاویز اس کا بھی جائزہ لیتی ہے اور اپنی تائید کے لئے قرآن کا حوالہ دیتی ہے۔ وہ اس تصور کے خلاف انسان کی ذمہ داری قرار دیتی ہے جس کے پارے میں یہ عقیدہ ہے کہ اس کا فیصلہ اس کے اعمال کے مطابق ہوگا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسلامی شریعت پرستی کا تصور غلط ہے۔ اس کے برخلاف یہ دستاویز اس عقیدہ کی پختگی کی مخالفت قرآن کی دو آیتوں کا حوالہ دے کر کرتی ہے اور یہ وہ آیتیں ہیں جن کو مغرب میں نہایت غلط طریقہ پر سمجھا گیا ہے۔“

۱۔ لوہین گنٹیم ایک دستاویز کا عنوان ہے جس کو دوسری وٹیکن کونسل (۱۹۶۳-۱۹۶۵) نے جاری کیا تھا۔

۲۔ مصنف کا کہنا ہے کہ عیسائیوں میں جو یہ بات مشہور ہے کہ مسلمان وحی والہام کے مقابلہ میں سنت اور فقہ کو ترجیح دیتے ہیں یہ خیال غلط ہے بلکہ ان میں مقدم چیز وحی اور احکام خداوندی ہیں۔ (مترجم)

لَا إِكْرَهَ فِي الدِّينِ (سورہ ۲: آیت ۲۵۶) [دین میں کوئی زور نہ ہوتا ہے]۔
وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ (سورہ ۲۲: آیت ۷۸) اور (اللہ نے) تم پر دین
میں کوئی تنگی نہیں رکھی۔

یہ دستاویز اسلام کے بارے میں کثرت سے پھیلے ہوئے اس تصور کی بھی مخالفت کرتی
ہے کہ اسلام کوئی خوف و ہراس کا مذہب ہے۔ یہ دین ہے محبت کا۔ محبت ہمسایہ کی
جس کی بنیاد الوہیت کے عقیدہ پر ہونی چاہیے۔ یہ اس غلط طور پر پھیلے ہوئے تصور کو بھی رد کرتی
ہے کہ اسلام میں مشکل سے ہی کوئی ضابطہ اخلاق ہے اور دوسرے اس تصور کی جس میں بہت سے
یہودی اور عیسائی شریک ہیں کہ اسلام میں تعصب و تشدد ہے۔ "درحقیقت اسلام اپنی تاریخ
کے زمانہ میں اس سے زیادہ متشدد و متعصب نہیں رہا جتنے کہ عیسائیت کے وہ مقدس بروج
تھے۔ جبکہ عیسائی عقیدہ نے سیاسی قدر کو اپنایا تھا، اس موقع پر مؤلفین قرآن سے ان عبارتوں
کا حوالہ دیتے ہیں جن میں بتایا گیا ہے کہ مغرب میں حروب مقدسہ کی اصطلاح کا غلط ترجمہ
کیا گیا ہے۔ عربی میں عبارت ہے "الجہاد فی سبیل اللہ" یعنی "راہ خدا میں سعی و کوشش کرنا۔"
"اشاعت اسلام کے لئے جدوجہد کرنا اور معاندین سے اس کا دفاع کرنا" وٹیکن دستاویز میں
مزید بیان کیا گیا ہے "جہاد کا وہ مطلب قطعاً نہیں ہے جو بائبل میں خیرم کا یہ استیصال و
بیخ کنی کی جانب نہیں لے جاتا۔ بلکہ نئی سرزمینوں میں خدا اور بندے کے حقوق کو وسیع کرتا
ہے۔"۔۔۔ "سابق میں جہاد میں رونا ہونے والا تشدد عموماً جنگ کے اصولوں کی مطابقت
میں تھا۔ علاوہ ازیں حروب صلیبی کے زمانہ میں قتل و غارتگری کے مرتکب ہمیشہ مسلمان ہی
نہیں ہوتے تھے۔"

آخر میں دستاویز میں اس تعصب کا ذکر کیا گیا ہے جس کے مطابق "اسلام ایک تنگ نظر
مذہب ہے جو اپنے ماننے والوں کو ایک نوع کے فرسودہ ازمہ متوسط میں مقید رکھتا ہے جو ان
کو دور حاضرہ کی تکنیکی کامیابیوں کے ساتھ ہم آہنگی پیدا کرنے کے معاملہ میں ناکارہ بنا دیتا
ہے۔ یہ (دستاویز) ان مماثل حالات سے جو عیسائی ممالک میں دکھائی دیتے ہیں مقابلہ کرتی
ہے اور حسبِ ذیل بیان دیتی ہے۔ "ہمیں اسلامی فکر (۔۔۔) کے روایتی پھیلاؤ میں ایک مہذب
سماج کے امکانی ارتقا کا اصول دکھانی دیتا ہے۔"

۱۔ قرآن کے ترجمہ کرنے والے حضرات نے جن میں مشہور لوگ بھی شامل ہیں انتہائی دنیا داری سے کام لیتے ہوئے
اپنے تراجم میں وہ باتیں بھونسی دی ہیں جو فی الحقیقت عربی متن میں قطعاً نہیں تھیں۔ متن کے ساتھ (یقیناً کلمے صفحہ پر)

مجھے یقین ہے کہ ٹیکن کی جانب سے اسلام کا یہ دفاع اس زمانہ میں بہت سے معتقدین کو محو حیرت کر دے گا۔ خواہ وہ مسلمان ہوں خواہ یہودی یا نصرانی۔ یہ خلوص اور وسیع النظری کا اظہار ہے جو حیرت خیز طور پر اس رویہ کے خلاف ہے جو ماضی میں درشہ میں ملا تھا۔ مغرب میں ایسے لوگوں کی تعداد بہت کم ہے جو اُس نئے رویہ سے واقفیت رکھتے ہیں جو کئیھولک مذہب کے کلیسا کی انتہائی مقتدر جماعت نے اختیار کیا ہے۔

ایک مرتبہ جب کسی کو اس حقیقت سے واقفیت ہو جاتی ہے تو پھر یہ جان کر زیادہ حیرت نہیں ہوتی کہ اس مقام ہمت پر مہر تصدیق ثبت کرانے میں یہ امور انجام دینے گئے۔ اولاً یہ کہ ٹیکن میں واقع غیر عیسائی امور کے دفتر کے صدر نے سعودی عرب کے فرمانروا شاہ فیصل کے علاقہ میں دورہ کیا اُس کے بعد ۱۹۶۴ء کے دوران پوپ پال ششم نے سعودی عرب کے عظیم علماء کا استقبال کیا اس بات سے یہ امر بخوبی سمجھ میں آجاتا ہے کہ واقعہ کی دینی اہمیت اتنی زیادہ تھی کہ تقدس مآب لبشہ الکنگر نے عظیم علماء کا اسٹریپرگ کے مقام پر اپنے کلیسا میں استقبال کیا اور اُن کے دور کے موقع پر اُن کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی دعوت دی انھوں نے قبلہ رو ہو کر قربان گاہ کے سامنے نماز پڑھی۔

اس طرح عالم اسلام اور عیسائی دنیا کے نمائندوں نے بلند ترین سطح پر کہ وہ دونوں اسی ایک خدا پر عقیدہ رکھتے ہیں اور اختلاف رائے کے معاملہ میں دونوں ایک دوسرے کا لحاظ کرتے ہیں آپس میں مکالمہ کرنے پر رضامندی ظاہر کی۔ جب یہ معاملہ ہے تو یقیناً یہ امر بالکل فطری اور قدرتی ہے کہ ہر ایک اپنے اپنے الہامی مذہب کے دیگر پہلوؤں پر دو بدو ہو کر گفتگو کر لے۔ اس مقابلہ کا موضوع الہامی کتابوں کا وہ جائزہ ہو جو متون کے مستند ہونے سے متعلق سائنسی مواد اور معلومات کی روشنی میں لیا جائے۔ یہ جائزہ قرآن کا جس صورت میں یہ ہے اور یہود و عیسائی تشریح کا ہونا چاہیے۔

یقینہ حاشیہ: سلیسے عنوانات کا تو بیشک اضافہ کیا جاسکتا ہے جو اصل میں نہیں ہیں اور اس سے خود تین میں کوئی تبدیلی بھی نہیں ہوتی۔ لیکن یہ اضافہ اس قسم کا ہے کہ اس سے عام مفہوم بدل جاتا ہے مثال کے طور پر آربشیر اپنے نہایت معروف ترجمہ (مطبوعہ میسونیو اے لاروز پاری ۱۹۵۶ء صفحہ ۱۱۵) میں ایک ایسا عنوان ٹھوس دیتا ہے جو قرآن میں دکھائی نہیں دیتا۔ قرآن جہاد [ادبلی کاسیوں رے لاگیر سنیت] یہ عنوان ایک عبارت کے شروع میں ہے جو بلا اختلاف جہاد کے لئے دعوت ہے۔ لیکن اس کی وہ نوعیت نہیں ہے جو اس سے وابستہ کر دی گئی ہے اس کو پڑھنے کے بعد کوئی قاری جس کی رسائی قرآن تک تراجیم ہی کے ذریعہ سے ہے کیسے یہ خیال کر لے گا کہ جہاد کرنا مسلمان کا فریضہ ہے۔؟

مذہب اور سائنس کے مابین تعلق کسی ایک جگہ یا ایک وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہا ہے۔
 ہر ایک امر واقعہ ہے کہ کسی توحید پرست مذہب میں کوئی ایسی تحریر نہیں ہے جو سائنس کو روک دیتی
 ہو۔ تاہم عملاً یہ بات ماننی پڑتی ہے کہ بعض فرقوں کے مذہبی مقتداؤں سے سائنسدانوں کو ٹمٹنے
 میں پڑی وقتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ عیسائی دنیا میں صدیوں تک، زیر غور مقتدری سائنسی ترقیات
 کی مخالفت کرتے رہے۔ لیکن یہ مخالفت ان کی اپنی مرضی سے تھی اور مستند مذہبی کتابوں کا اس
 میں کچھ دخل نہ تھا۔ ہمیں پیشتر سے ہی ان کارروائیوں کا علم ہے جو ان لوگوں کے خلاف کی گئیں
 جو سائنس کو ترقی دینے کے خواہاں تھے۔ وہ کارروائیاں ایسی تھیں جن میں زندہ جلا دیئے جانے
 کے ڈر سے بہت سے سائنس دان جلا وطنی پر مجبور ہو گئے۔ یہاں تک کہ انھیں توبہ کرنا، اپنے رویہ کو
 تبدیل کرنا اور معافی کا خواستگار ہونا پڑا۔ اس سلسلہ میں گلیلیو کا مسئلہ ہمیشہ پیش کیا جاتا ہے۔
 اس پر اس لئے مقدمہ چلا کہ اس نے اس نظریہ کو مان لیا تھا جو زمین کی گردش محوری کے بارے میں
 کوپرنیکس نے دریافت کیا تھا۔ بائبل کی ایک غلط تاویل کے نتیجے میں گلیلیو کو سزا دی گئی۔ اس لئے
 کوئی بھی صحیفہ ایسا نہیں ہے جو معقولیت کے ساتھ اس کے خلاف پیش کیا جاسکتا۔

جہاں تک اسلام کا معاملہ ہے، سائنس کی جانب اس کا رویہ عام طور پر قطعاً مختلف تھا۔
 رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی اس مشہور حدیث سے زیادہ واضح اور کیا ہوگا، "اطلبوا العلم
 ولو کان بالحبش" (علم حاصل کرو خواہ وہ حبش میں ملے) یا ایک دوسری حدیث ہے جس میں کہا
 گیا ہے "طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ" (علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر
 فرض ہے) چونکہ ہم اس مسئلہ پر بعد میں گفتگو کریں گے، اس وقت ایک دوسرے نازک واقعہ
 کو لیتے ہیں۔ وہ یہ کہ قرآن جہاں ہمیں سائنس کو ترقی دینے کی دعوت دیتا ہے وہاں خود اس
 میں قدرتی حوادث سے متعلق بہت سے مشاہدات و شواہد ملتے ہیں اور اس میں ایسی تشریحی تفصیلات
 موجود ہیں جو جدید سائنسی مواد سے کلی طور پر مطابقت رکھتی ہیں۔ یہود و عیسائی تنزیل میں
 اس جیسی کوئی بات نہیں ہے۔

اس کے باوجود یہ خیال کرنا غلط ہوگا کہ تاریخ اسلام میں کچھ عقیدتمندوں نے کبھی بھی سائنس
 کی جانب سے ایک مختلف رویہ کو اپنے دل میں جگہ نہیں دی۔ یہ ایک امر واقعہ ہے کہ بعض ادوار میں
 اپنے آپ کو اور دوسرے لوگوں کو تعلیم دینے کی ذمہ داری کو نظر انداز کیا گیا۔ یہ مساوی طور پر صحیح ہے کہ
 عالم اسلام میں دوسری جگہوں کی طرح بعض اوقات سائنسی ترقی کو روکنے کی کوشش کی گئی۔ پھر بھی
 یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ اسلام کی انتہائی ترقی کے زمانہ میں جو آٹھویں اور بارہویں صدی

عیسوی کے درمیان کا زمانہ ہے یعنی وہ زمانہ جب سائنسی ترقی پر عیسائی دنیا میں پابندیاں عائد
 نہیں اسلامی جامعات میں مطالعہ اور تحقیقات کا کام بڑے پیمانہ پر جاری تھا۔ یہی وہ جامعات ہیں
 جہاں اس دور کے قابل ذکر ثقافتی سرمائے ملتے ہیں۔ قرطبہ کے مقام پر حلیفہ (الحکم ثانی) کے کتب خانہ
 میں چار لاکھ کتابیں تھیں۔ ابن رشد وہاں درس دیتا تھا اور یونانی، ہندوستانی اور ایرانی علوم
 سکھائے جاتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ تمام یورپ سے کھنچ کر طلبہ قرطبہ میں تعلیم حاصل کرنے کے لئے
 جایا کرتے تھے۔ بالکل اس طرح جیسے آج کل لوگ اپنی تعلیم مکمل کرنے کے لئے ریاستہائے متحدہ
 جاتے ہیں۔ مہذب عربوں کا یہ ہمارے اوپر بڑا احسان ہے کہ ان کی بدولت قدیم مخطوطات کا
 ایک بڑا ذخیرہ ہمیں ہم دست ہو گیا ہے۔ ان ہی عربوں نے مفتوحہ ممالک کے کلچر کو منتقل کرنے
 کا کام کیا۔ ہم ریاضی (الجبر عربوں کی ایجاد ہے)۔ فلکیات، طبیعیات (مناظر و مریا) ارضیات،
 نباتات۔ طب (ابن سینا) وغیرہ کے لئے بھی بڑی حد تک عربی تمدن کے ممنون احسان ہیں۔ سائنس
 نے پہلے پہل قرون وسطیٰ کی اسلامی جامعات میں بین الاقوامی صورت اختیار کی۔ اس زمانہ میں لوگ
 مذہبی رنگ میں آجکل سے کہیں زیادہ رنگے ہوئے تھے۔ لیکن اسلامی دنیا میں یہ چیز ان کو اس
 بات سے نہیں روکتی تھی کہ وہ مذہبی اور سائنسوں دونوں ایک ساتھ ہوں۔ سائنس مذہب کے
 ساتھ تو آم تھی اور اس کی یہ حیثیت کبھی ختم نہیں ہو سکتی تھی۔

عہد وسطیٰ، عیسائی دنیا کے لئے جمود اور مطلق تعمیل و تقلید کا زمانہ تھا۔ اس بات پر توجہ
 کرنے کی ضرورت ہے کہ یہودی۔ عیسائیت کی الہامی کتابوں نے بذات خود سائنسی تحقیق کی
 رفتار کو سست نہیں کیا بلکہ یہ سستی ان لوگوں کی بدولت ہوئی جو خود کو اس عقیدہ کا خادم
 قرار دیتے تھے۔ نشاۃ الثانیہ کے بعد سائنس دانوں کا قدرتی رد عمل یہ رہا کہ انہوں نے اپنے
 سابقہ دشمنوں سے پورا بدلہ لیا۔ اس بدلہ کا سلسلہ آج بھی جاری ہے اور یقیناً اس حد تک
 ہے کہ مغرب میں جو شخص سائنسی حلقوں میں رہتے ہوئے خدا کا نام لیتا ہے اس کو برادری سے
 خارج سمجھا جاتا ہے۔ یہ اسی طرز عمل سے مسلمانوں سمیت ان تمام نوجوانوں کی ذہنیت متاثر ہوتی
 ہے جو یونیورسٹی میں تعلیم پاتے ہیں۔

اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ جب بید شہرت یافتہ سائنس دان اس طرح کا انتہا

لہ اکبر الہ آبادی نے اسی حقیقت کو تو اپنے اس شعر میں بیان کیا ہے

رقیبوں نے ریٹ لکھوائی ہے جاہا کے تھانے میں

کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانہ میں

پسندانہ رویہ اختیار کرتے ہیں تو ان نوجوانوں کی جو ذہنیت اس وقت ہے اس سے مختلف ہو بھی نہیں سکتی تھی۔ طب کے نوبل پرائز حاصل کرنے والے ایک سائنسدان نے گذشتہ چند سالوں میں ایک کتاب میں جو عام اشاعت کے لئے تھی یہ لکھ کر لوگوں کو درغلا یا کہ جاندار مادہ میں ایک صلاحیت ہے کہ وہ کئی بنیادی عناصر کی مدد سے اتفاقیہ طور پر بھی تولید کا عمل کر سکتا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ اس ابتدائی جاندار مادہ سے شروع کر کے اور مختلف بیرونی عوامل کے زیر اثر باقاعدہ ذی حیات اشیاء کی تشکیل ہوئی جس کے نتیجے میں وہ مرعوب کن پیچیدہ وجود ظہور پذیر ہوا جو انسان کہلاتا ہے۔

یقیناً، معاصر سائنسی معلومات کے یہ عجوبے جو حیات کے میدان میں رونما ہوئے ہیں ایک غور و فکر کرنے والے انسان کو مخالف نتیجہ اخذ کرنے کی جانب بھی لے جاسکتا ہے۔ جوں جوں انسان غور کرتا ہے وہ نظام جو تولید و پیمانے حیات کے سلسلہ میں کارفرما ہے پیچ در پیچ دکھائی دینے لگتا ہے اور جیسے جیسے تفصیلات کا علم ہوتا جاتا ہے۔ ویسے ویسے اس کی حیرت بڑھتی جاتی ہے اس نظام کے متعلق معلومات سے اس تصور کا امکان یقیناً کم سے کم ہوتا چلا جاتا ہے کہ زندگی کے حادثہ میں بخت و اتفاق کو بہت کم دخل ہے۔ انسان علم کی شاہراہ پر جیسے جیسے آگے قدم بڑھاتا ہے خصوصاً انتہائی چھوٹی اشیاء کے بارے میں اس کی معلومات میں جو اتفاق ہوتا ہے اس سے ایک خالق کے وجود کی تائید میں دلائل زیادہ قوت اختیار کرتے جاتے ہیں۔ ان حقائق سے دوچار ہونے کے بعد بجائے اس کے کہ انسان میں عجز کی صفت پیدا ہو اس میں گھمنڈ پیدا ہو جاتا ہے وہ خدا کے تصور کا استہزاء کرنے لگتا ہے اور اسی طرح سے وہ کسی بھی ایسی چیز کو جو اس کو عیش و نشاط سے علیحدہ کر دے کچلنا ہوا آگے بڑھنے لگتا ہے۔ یہ اس مادہ پرست سماج کا وہ مثالی پیکر ہے جو اس وقت مغرب میں نشوونما پا رہا ہے۔

وہ کونسی روحانی قوتیں ہیں جو خیال کی اس آلودگی کے خلاف استعمال کی جاسکتی ہیں جو بہت سے معاصر سائنسدان پھیلا رہے ہیں؟

یہودیت اور عیسائیت اپنی اس تااہلی کو نہیں چھپاتیں کہ مادیت کی لہر اور انکارِ خدا کے اس حملہ سے جو مغرب سے ہو رہا ہے مقابلہ کرنے کا ان میں بوتا نہیں ہے۔ وہ دونوں مکمل طور پر غیر محفوظ ہیں۔ اور ایک کے بعد دوسرے وہ سالہ میں یہ بات یقیناً محسوس کی جاسکتی ہے کہ اس لہر کے مقابلہ میں ان کی مدافعت کس قدر شدت سے کم ہو رہی ہے جو خطرہ بنی ہوئی ہے کہ ہر چیز کو بہالے جائے۔ مادیت پرست منکرِ خدا کو کلاسیکی عیسائیت میں اس کے سوا کچھ دکھائی نہیں دیتا

کہ وہ ایک ایسا نظام ہے جس کو گذشتہ دو ہزار سالوں میں انسانوں نے اس یقین دہانی کے ساتھ وضع کیا ہے کہ ایک اقلیت کو اُس کے ساتھی انسانوں پر اقتدار حاصل ہو جائے۔ وہ یہودی عیسائی تحریروں میں کوئی ایسی عبارت نہیں پاتا جو خفیف طور پر بھی اُس کی اپنی عبارت سے ملتی جلتی ہو۔ ان تحریروں میں جدید سائنسی معلومات کے مقابلہ میں اتنے ناممکنات، تضادات اور تناقضات ہیں کہ وہ ان متون پر غور کرنے سے ہی ایسا کر بے بیٹھتا ہے جن کے بارے میں مذہبی پیشواؤں کی اکثریت چاہتی ہے کہ پورے کے پورے تسلیم کر لئے جائیں۔

جب کسی مادہ پرست منکر خدا کے سامنے اسلام کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ ایک ایسی خوش طبعی کے ساتھ مسکرا دیتا ہے جو اس موضوع سے ناواقفیت کے مساوی ہوتی ہے۔ اکثر مغربی دانشوروں کی طرح جو خواہ کسی بھی جماعت کے ہوں اُس کے پاس بھی اسلام کے متعلق غلط تصورات کا ایک مرغوب کن ذخیرہ ہوتا ہے۔

اس معاملہ میں اُس کو دو ایک باتوں میں معافی دینی پڑے گی۔ اول یہ کہ اعلیٰ کیتھولک مذہب کے مقدر حضرات کے نئے اختیار کردہ رویہ سے قطع نظر اسلام پر مغرب میں ہمیشہ سے نام تہاؤدینی اور گمراہی کی تہمت لگائی جاتی رہی۔ مغرب میں جس شخص نے بھی اسلام کا گہرا مطالعہ کیا ہے وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ کس طرح اور کس حد تک اس کی تاریخ، اس کے عقیدہ اور اس کے مقصد کو مسخ کر دیا گیا ہے۔ یہ حقیقت بھی ملحوظ خاطر رہنی چاہیے کہ اس موضوع پر یورپی زبانوں میں جو دستاویزات شائع ہوئی ہیں (انتہائی مخصوص تحریروں کو چھوڑ کر) وہ کسی ایسے شخص کا کام نہیں ہیں جس نے اس کا مطالعہ دلچسپی اور توجہ سے کیا ہو۔

حقیقت میں اسلامی وحی و تنزيل کے بارے میں واقفیت اس نقطہ نظر سے بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ بد قسمتی سے قرآن کی عبارتوں یا مخصوص ان عبارات کا جو سائنسی معاملات سے متعلق ہیں ترجمہ اور تشریح نہایت خراب اور ناقص کی گئی ہے لہذا کسی بھی سائنسدان کو یہ حق حاصل ہو جاتا ہے کہ وہ خود کو حق بجانب قرار دیتے ہوئے اس کتاب پر ایسی تنقید کرے جس کی فی الحقیقت وہ ہرگز مستحق نہیں ہے چنانچہ اس کے بعد سے اس امر کی تفصیل قابل ملاحظہ ہے: ترجمہ میں غلطیاں یا مغالطہ آمیز تشریحات (اور اکثر ان میں سے ایک دوسری سے وابستہ ہے) جن پر دو ایک صدی پہلے تک کسی کو حیرت نہیں تھی ان پر اہل جہل کے سائنسدان پر ہم ہو جاتے ہیں جب کوئی غلط ترجمہ کی ہوئی عبارت سامنے آتی ہے جس میں سائنسی اعتبار سے کوئی ناقابل قبول بیان شامل ہوتا ہے تو سائنسدان اس عبارت پر سنجیدگی سے غور کرتے سے اجتناب برتتا ہے۔ آدمی

کی ولادت سے متعلق باپ میں اس نوع کی غلطی کی ایک نہایت مخصوص مثال پیش کی جائیگی۔
 ترجمہ میں اس قسم کی غلطیاں کیوں ہیں؟ اس کی صفائی اس واقعہ کی مدد سے پیش کی جا
 سکتی ہے کہ جدید دور کے مترجم اکثر قدیم مفسرین کی تفاسیر کو بغیر تنقیدی نظر ڈالے ہوئے قبول
 کر لیتے ہیں۔ مؤخر الذکر حضرات کے پاس ان کے اپنے زمانہ میں تو یہ عذر تھا کہ وہ کسی عربی لفظ
 کے کئی معنوں میں سے جو ممکن ہو سکتے تھے ایک ناموزوں مفہوم بیان کر دیتے تھے۔ وہ غالباً اس
 لفظ یا محاورہ کے اس حقیقی مفہوم کو سمجھ ہی نہیں سکتے تھے جو سائنسی معلومات کی بدولت موجودہ
 دور میں ہی واضح ہوا ہے۔ بالفاظ دیگر تراجم اور تفاسیر پر ضروری نظر ثانی کا مسئلہ پیدا ہو
 گیا ہے۔ یہ بات ماضی میں کسی بھی وقت ممکن نہیں تھی۔ لیکن آج کل ہمیں اس نوع کی معلومات
 حاصل ہیں جن سے ان کا صحیح مفہوم پیش کیا جا سکتا ہے۔ ترجمہ کے یہ مسائل یہودی عیسائی
 وحی و تنزیل کے متن کے سلسلہ میں موجود نہیں ہیں جو بات یہاں بتائی گئی ہے وہ مطلقاً قرآن
 ہی کے لئے مخصوص ہے۔

ان سائنسی خیالات نے جو قرآن کے ساتھ زیادہ خصوصیت رکھتے ہیں شروع میں مجھے
 بے انتہا محو حیرت کر دیا اس وقت تک میں نے یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسی تحریریں جو تیرہ
 صدیوں سے زیادہ عرصہ پہلے مرتب ہوئی تھی اور جس میں انتہائی مختلف النوع مضامین بیان
 ہوئے ہیں۔ میرے لئے یہ ممکن ہو گا کہ میں اتنے بہت سے بیانات ڈھونڈ تکالوں گا۔ اور وہ
 سب جدید سائنسی معلومات سے کلی طور پر ہم آہنگ ہوں گے۔ شروع میں میرا اسلام پر کوئی
 عقیدہ نہیں تھا۔ میں نے ان متون کا کھلے دل دماغ سے اور کلینتہ معروضی طریقہ پر جائزہ لینا شروع
 کیا۔ اگر میرے ذہن پر اس وقت کوئی چیز اثر انداز تھی بھی تو وہ، وہ باتیں تھیں جو نو عمری میں
 مجھے بتائی گئی تھیں۔ لوگ اس وقت مسلمانوں کے متعلق نہیں بلکہ محمدؐ (محدوں) کے بارے
 میں گفتگو کرتے تھے جو اس بات کی تصریح کرنے کے لئے ہوتا تھا کہ اس سے ایک ایسا مذہب مرو
 ہے جس کی بنیاد ایک انسان کے ہاتھوں رکھی گئی اور خدا کے اعتبار سے اس کی کوئی قدر نہیں ہے۔

لے اہل یورپ نے اس لفظ کو اتنی شہرت دی کہ خود مسلمان بھی محمدؐ اور مسلمانوں کے فرق کو نہ سمجھ سکے اور وہ بھی
 ناواقفیت کی بنا پر لفظ محمدؐ کو لفظ "مسلمانوں" کا مترادف سمجھ کر استعمال کرتے رہے۔ انتہا تو یہ ہے کہ مسلم
 یونیورسٹی علی گڑھ جو پہلے کالج کی شکل میں قائم ہوئی تھی۔ عرصہ دراز تک محمدؐ اور ٹیل کالج کے نام
 سے موسوم کی جاتی رہی (مترجم)۔

مغرب کے بہت سے لوگوں کی طرح میں خود بھی اسلام کے بارے میں ویسے ہی تصورات قائم کر سکتا تھا
 آجکل یہ خیالات اس قدر عام ہیں کہ میں درحقیقت بھونچکا رہ جاتا ہوں جب کسی ماہر خصوصی کے
 علاوہ میری کسی اور ایسے شخص سے ملاقات ہو جاتی ہے جو اس موضوع پر روشن خیالی کے ساتھ
 گفتگو کر لیتا ہے۔ لہذا میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ اس واقعہ سے پہلے کہ جب مجھے اسلام
 کے بارے میں اُس سے مختلف نظریہ معلوم ہوا جو میں نے مغربی ذرائع سے حاصل کیا تھا میں خود اس
 بارے میں انتہائی درجہ میں ناواقف تھا۔

میں اس حقیقت کو تسلیم کرتا ہوں کہ اسلام کے متعلق مستثنیٰ حالتوں میں عام طور پر جو فیصلے
 کئے جاتے تھے میں اُن کے باطل ہونے کا احساس کر سکتا تھا۔ خود سعودی عرب میں بھی مجھے ایک
 ہلکا سا اشارہ اس بات کا مل گیا تھا کہ اس موضوع پر مغرب میں جو رائے قائم کی جاتی ہیں اُن
 میں کس حد تک غلطی کا عنصر ہوتا ہے۔

درحقیقت اس سلسلہ میں میں مرحوم شاہ فیصل کا بے حد ممنون ہوں جن کے لئے میرے
 دل میں احترام کا شدید جذبہ موجود ہے مجھے اُن کو اسلام کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے سننے اور
 جدید سائنس کے سلسلہ میں اُن کے سامنے بعض مسائل پیش کرنے کا جو شرف حاصل ہوا وہ میرے
 لئے ایک انتہائی یادگار واقعہ ہے۔ مجھ پر یہ ایک بے پایاں کرم ہے کہ میں اُن سے اور اُن کے
 حواریں سے ایسی قیمتی معلومات حاصل کر سکا۔

چونکہ مجھے اب اُس وسیع خلا کا علم ہو گیا ہے جو اسلام کی حیثیت کو اُس موہوم تصور سے
 جدا کرتا ہے جو ہمیں مغرب میں دیا جاتا ہے لہذا میں نے اس بات کی بڑی ضرورت محسوس کی کہ عربی
 زبان جس کو میں بول نہیں سکتا تھا، سیکھوں تاکہ ایسے مذہب کے مزید مطالعہ کے لئے جس کو غلط
 سمجھا گیا ہے خود کو پوری طرح تیار کر سکوں۔ میرا مطمح نظر یہ تھا کہ قرآن کا مطالعہ کروں اور اُن
 تمام تفسیروں سے مدولے کر جو تنقیدی مطالعہ کے لئے لازمی ہیں۔ پہلے ایک ایک جملہ کا تجزیہ
 کر کے دیکھوں۔ میری خصوصی توجہ اُن مختلف قدرتی حوادث کے ذکر پر مرکوز تھی جو قرآن میں دیئے
 گئے ہیں۔ چنانچہ کتاب میں اُن کی جو بعض تفصیلات دی گئی ہیں اُن کی بے انتہا صحیح نوعیت نے
 جو ابتدائی متن میں ہی واضح ہو سکتی تھی۔ اس اعتبار سے مجھے متحیر کر دیا کہ وہ موجودہ زمانہ کے
 خیالات سے پوری طرح مطابقت رکھتی ہے۔ اگرچہ کوئی ایسا شخص جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم
 کے زمانہ میں بقیہ حیات تھا اس بات کا قطعاً شبہ نہیں کر سکتا تھا۔ بعد میں میں نے کئی مسلمان مصنفین
 کی ایسی کتابوں کو پڑھا جو قرآنی متن کے سائنسی پہلوؤں پر لکھی گئی تھیں۔ وہ کتابیں ان امور کی تفہیم

میں میرے لئے بے انتہا مفید ثابت ہوئیں۔ لیکن ابھی تک مجھے اس موضوع کے کسی ایسے عمومی مطالعہ کا سراغ نہیں ملا ہے۔ جو مغرب میں کیا گیا ہو۔

حیاتیات اس نوعیت کے متن میں پہلے پہل سامنے آتی اور قاری کو چونکا دیتی ہے وہ ان موضوعات زیر بحث کی کثرت ہے: یہ موضوعات ہیں تخلیق، فلکیات، زمین سے متعلق بعض مادوں کی تشریح، عالم حیوانات و نباتات، انسان کی تولید جبکہ بائبل میں فاحش غلطیاں دیکھنے میں آتی ہیں، قرآن میں ایک غلطی کا بھی پتہ نہیں چلا سکا ہوں۔ میں نے اس موقع پر توقف کر کے خود سے استفسار کیا: اگر کوئی بشر قرآن کا مصنف ہوتا تو وہ ساتویں صدی عیسوی میں ایسے حقائق کس طرح بیان کر دیتا جو آج جدید سائنسی معلومات سے پوری طرح مطابقت کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں؟ اس بارے میں قطعاً کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ قرآن کا جو متن آج ہمارے پاس ہے وہ اگر مجھے ان الفاظ میں گفتگو کرنے کی اجازت دی جائے تو قطعی طور پر اسی زمانہ کا متن ہے (اس کتاب کے موجودہ جز کے دوسرے باب میں اس مسئلہ پر بحث کروں گا) اس مشاہدے کے لئے انسان کے پاس کیا تو جیہہ و تاویل ہو سکتی ہے میری رائے میں اس کے لئے کوئی تاویل ممکن نہیں۔ کوئی خاص دلیل اس سلسلہ میں نہیں ہو سکتی کہ جس زمانہ میں شاہ داگویرت (۶۲۹ - ۶۳۹ء) فرانس میں حکومت کر رہا تھا اس وقت جزیرہ العرب کا ایک باشندہ بعض موضوعات پر ایسی سائنسی معلومات رکھتا ہو جو ہمارے زمانہ سے بھی دس صدی بعد کے دور سے تعلق رکھتی ہو۔

یہ ایک تسلیم شدہ حقیقت ہے کہ قرآن کے نزول کے وقت یعنی ایک ایسے دور میں جو ہجرت (۶۲۲ء) کے ادھر ادھر اندازاً بیس سال کی مدت پر محیط ہے، سائنسی معلومات میں صدیوں سے کوئی اضافہ نہیں ہوا تھا اور اسلامی تمدن کی سرگرمیوں کا دور سائنسی ترقی کے ساتھ نزول قرآن کے اختتام کے بعد آیا۔ اس نوع کے دینی اور دنیوی واقعات سے ناواقفیت ہی مندرجہ ذیل قسم کی اوٹ پٹانگ رائے کی جانب لے جاتی ہے جو میں نے متعدد یار لوگوں کو پیش کرتے ہوئے سنی ہے: اگر سائنسی نوعیت کے حیران کن بیانات قرآن میں موجود ہیں تو اس کی تاویل اس طرح

۱۵ فرانس میں میر و نثرین خاندان کے مین بادشاہ داگویرت یا ڈیگویرٹ کے نام سے ہوئے ہیں۔ ڈیگویرٹ اول جو تمام فرانس کا فرمانروا تھا ۶۲۹ء سے ۶۳۹ء تک رہا۔ ڈیگویرٹ دوم جس کی حکومت آسٹروسی تک محدود تھی اول ۶۵۶ء تا ۶۵۹ء تک پھر ۶۶۴ء تا ۶۶۹ء رہا۔ اور ڈیگویرٹ سوم جو سوسٹریا کا بادشاہ تھا اس کا دور حکومت ۱۱۱۵ء تا ۱۱۵۵ء بیان کیا جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم عصر ڈیگویرٹ یا داگویرت اول تھا۔ (مترجم)

کی جاسکتی ہے کہ عرب سائنسدان اپنے زمانہ سے بہت آگے تھے اور حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) ان کے کام سے متاثر ہوئے تھے۔ کوئی شخص جو تاریخ اسلام کے بارے میں کچھ بھی معلومات رکھتا ہے اس بات سے واقف ہے کہ قرون وسطیٰ کا وہ دور جس میں عربوں کی تمدنی اور سائنسی ترقیات کا ظہور ہوا۔ حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے بعد میں آیا اور اس لئے وہ اس قسم کی خیال آرائیوں میں مبتلا نہیں ہو سکتا۔ اس قسم کی رائیں خصوصیت سے خارج از بحث ہیں کیونکہ بیشتر سائنسی حقائق جن کی یا تو قرآن میں نشان دہی کی گئی ہے یا جو صاف طور پر بیان ہوئے ہیں ان کو موجودہ دور میں ہی تسلیم کیا گیا ہے۔

اس لئے یہ بات سمجھنا آسان ہے کہ کس لئے صدیوں تک مفسرین قرآن نے (بشمول ان تصانیف کے جو اسلامی تمدن کے انتہائی عروج کے زمانہ میں منصفہ شہود پر آئین) تاگزیر طور پر بعض ان آیات کی توضیح و تشریح کے سلسلہ میں غلطیاں کی ہیں جن کے ٹھیک ٹھیک مفہوم کو امکانی طور پر نہیں سمجھا جاسکتا تھا بہت عرصہ بعد جو ہم سے بہت دور کا زمانہ نہیں ہے ان کا صحیح طور پر ترجمہ اور تفسیر پیش کرنا ممکن ہوا ہے اس سے یہ بات ظاہر ہو جاتی ہے کہ زبان سے مکمل واقفیت ہی بذات خود قرآن کی ان آیات کی تفہیم کے لئے کافی نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی ضروری ہے کہ سائنس کی بے انتہا گونا گوں معلومات بھی ہونی چاہیے جس قسم کا مطالعہ موجودہ زمانہ میں کیا جا رہا ہے اس میں علم کے بہت سے شعبے آجاتے ہیں اور اس مفہوم کے اعتبار سے اس مطالعہ کو فاموسی کا نام دیا جاسکتا ہے۔ جب ان سوالات پر جواب اٹھائے جاتے ہیں بحث کی جاتی ہے تو قرآن کی بعض آیات کو سمجھنے کے لئے جتنی متنوع قسم کی سائنسی معلومات لازمی ہے وہ واضح ہو جائے گی۔

لیکن قرآن کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ ان قوانین کی جو کائنات میں کار فرما ہیں وضاحت کرے بنیادی طور پر اس کا مقصد مطلقاً مذہبی معلوم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے متعلق بیانات خاص طور پر انسان کو تخلیق کے کاموں پر غور کرنے کے لئے ابھارتے ہیں۔ ان کے ساتھ ان واقعات اور حقائق کے حوالے بھی ہوتے ہیں جن تک انسانی مشاہدہ کی رسائی ہے۔ یہ ان قوانین کا ذکر ہوتا ہے جو خداوند کریم نے جس کی علوم طبعی اور انسان دونوں کے اعتبار سے نظام عالم پر حکمرانی ہے۔ مرتب و منضبط کر دیئے ہیں۔ ان دعاوی کا ایک جز تو انسانی سے سمجھ میں آجاتا ہے لیکن دوسرے جز کا مفہوم صرف اسی صورت میں فہم و ادراک میں آسکتا ہے جب اس قدر لازمی سائنسی معلومات حاصل ہو جو اس کے لئے درکار ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے وقتوں میں انسان صرف ظاہری مفہوم کو ہی سمجھ سکتا تھا جو اس کو اس لئے غلط نتائج پہنچا دیتا تھا کہ مسئلہ زیر بحث سے متعلق اس کی معلومات

نا کافی ہوتی تھی۔

ممکن ہے بعض اُن مسلمان مصنفین کے نزدیک جنہوں نے مجھ سے پہلے قرآن کی ایسی آیات کی جانب توجہ مبذول کرانی جن میں سائنسی معلومات موجود ہیں۔ میری منتخب کی ہوئی آیات کی تعداد نہایت قلیل ہو۔ لیکن عام طور پر مجھے یقین ہے کہ میں نے اُن کے مقابلہ میں خفیف سی کمی کی ہے۔ اس کے برخلاف میں نے کئی ایسی آیات کو الگ کر دیا ہے جو میری رائے میں ابھی تک وہ اہمیت حاصل نہیں کر سکی ہیں جن کی سائنسی نقطہ نظر سے وہ مستحق ہیں جہاں کہیں میں غلطی سے اُن آیات کو اس مطالعہ کے سلسلہ میں غور کرنے سے چوک گیا ہوں جن کو اُن مصنفین نے منتخب کیا تھا تو اُمید ہے کہ وہ مجھے اس پر مطمئن نہیں کریں گے میں نے بعض مواقع پر یہ بھی دیکھا ہے کہ کچھ کتابوں میں ایسی سائنسی تشریحات دی گئی ہیں جو مجھے صحیح نہیں معلوم ہوئیں۔ میں نے کھلے دل اور صاف ضمیر کے ساتھ ایسی آیتوں کی اپنے نقطہ نظر سے تشریح کر دی ہے۔

اسی طرح میں نے کوشش کی ہے کہ قرآن میں اُن حوادث کا ذکر بھی تلاش کروں جن تک انسانی فہم و ادراک کی رسائی ہے۔ لیکن جن کو جدید سائنس نے تسلیم نہیں کیا ہے میرا خیال ہے کہ اس سلسلہ میں مجھے قرآن میں کائنات کے ایسے سیارگان کا ذکر ملا ہے جو کہ ارض کے مشابہ ہیں۔ یہاں یہ ایسا ذکر دینا ضروری ہے کہ بہت سے سائنس دان اس کو مکمل طور پر قابل عمل سمجھتے ہیں حالانکہ جدید معلومات سے اس کے یقینی امر ہونے کا کوئی اشارہ نہیں ملتا تاہم تمام متعلقہ حقوق کا جو ممکن ہو سکتے ہیں تحفظ کرتے ہوئے میں نے اس کے ذکر کرنے کی ذمہ داری خود اٹھالی۔

اگر یہ مطالعہ تیس سال قبل کیا گیا ہوتا تو اس کے ساتھ ایک اور ایسے واقعہ کا اضافہ کرنا ضروری ہوتا جس کی پیشینگوئی قرآن میں کی گئی تھی اور جس کو فلکیات کے سلسلہ میں بیان کیا جاتا۔ یہ واقعہ ہے خلا کی تسخیر کا۔ اُس وقت ڈھکیلنے والے میزائلوں کے ابتدائی تجربات کی بنا پر لوگ ایک ایسے دن کے منتظر تھے جب انسان غالباً اپنے ارضی مسکن کو چھوڑ کر خلا پیمائی کے لئے مادی وسائل مہیا کر لے گا۔ اُس وقت یہ بات معلوم تھی کہ قرآن میں ایک ایسی آیت موجود ہے جس میں یہ پیشینگوئی کی گئی ہے کہ اِس اِس طرح ایک دن انسان اس تسخیر کو مکمل کر لے گا۔ چنانچہ اس بیان کی تصدیق ہو چکی ہے۔

مقدس صحیفوں اور سائنس کے مابین اس وقت جو مقابلہ ہے وہ بائبل اور قرآن دونوں کے لئے اُن قیاسات کو کام میں لا رہا ہے جن کا تعلق سائنسی حقائق سے ہے۔ اس مقابلہ کی بنیادوں کو مضبوط کرنے کے لئے ضروری ہے کہ سائنسی دلائل جن پر بھروسہ کیا جائے پوری طرح تسلیم شدہ ہوں

اور ان میں کوئی شک و شبہ باقی نہ رہے۔ جو لوگ اس تصور کی راہ میں روڑے اٹکاتے ہیں کہ سائنس صحف سماوی کو چانچنے کے سلسلہ میں جو مداخلت کرتی ہے اس کو مان لیا جائے وہ دراصل اس بات سے انکاری ہیں کہ سائنس کے لئے مقابلہ کی کوئی یا ضابطہ حد مقرر کرنا ممکن ہے اب یہ صحیفہ خواہ بائبل ہو جو اس مقابلہ میں زک اٹھانے سے نہیں بچتی۔ اور اس کا سبب ہم پہلے ہی جان چکے ہیں۔ خواہ وہ قرآن ہو جس کو سائنس سے خوف کھانے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ سائنس میں زمانہ کے ساتھ ساتھ تبدیلیاں ہو رہی ہیں۔ چنانچہ ایک واقعہ آج تسلیم کر لیا جاتا ہے اور بعد میں مسترد ہو جاتا ہے۔

اس آخری رائے زنی کے لئے مندرجہ ذیل وضاحت پیش کی جاتی ہے۔ ایک سائنسی نظریہ اور باقاعدہ طور پر مشاہدہ شدہ واقعہ کے درمیان امتیاز کرنا ضروری ہے نظریہ کا مقصد کسی ایسے حادثہ یا حوادث کے ایسے سلسلے کی تشریح ہوتی ہے جو فوری طور پر قابل فہم نہیں ہوتا۔ بہت سی مثالیں ایسی ہیں جن میں نظریہ میں رد و بدل ہو جاتا ہے۔ اس کی یا تو شکل ہی تبدیل ہو جاتی ہے یا اگر سائنسی ترقی کی وجہ سے یہ بات آسان ہو کہ واقعات کے تجزیہ سے ایک زیادہ قابل قبول تشریح سامنے آجائے تو ایک دوسرا نظریہ اس کی جگہ لے لیتا ہے۔ اس کے برخلاف مشاہدہ میں آیا ہوا ایک واقعہ جس کی تشریح باقی طور پر چاہی بھی کر لی گئی ہو تغیر پذیر نہیں ہوتا۔ چنانچہ یہ بات پوری طرح تسلیم کر لی گئی ہے کہ زمین سورج کے گرد اور چاند زمین کے گرد گھومتا ہے اور یہ موضوع اب ایسا ہو گیا ہے کہ اس پر نظر ثانی نہیں ہوگی۔ آئندہ صرف اتنا ہوگا کہ ان کے مداروں کا زیادہ وضاحت سے تعین کر لیا جائے۔

مثال کے طور پر نظریہ کی تبدیل ہونے والی نوعیت کے لئے ایک مخالف مادہ کا تصور ہے جس نے مجھے قرآن کی ایک ایسی آیت کی تردید کرنے پر مائل کیا جس کے بارے میں ایک مسلمان ماہر طبیعیات کا خیال تھا کہ وہ مادہ کے فنا ہونے کے تصور کی پیشین گوئی کرتی ہے۔ یہ وہ نظریہ ہے جو فی زمانہ بحث کا موضوع بنا ہوا ہے۔ اس کے برخلاف قرآن کی ایک آیت کی جانب بالکل جائز طور پر زیادہ توجہ دی جاسکتی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ حیات کی ابتداء پانی سے ہوئی جو ایک ایسا حادثہ ہے جس کی ہم کبھی بھی تصدیق و توثیق نہیں کر سکیں گے۔ لیکن جس کی تائید میں بہت سے دلائل موجود ہیں مگر جہاں تک مشاہدہ میں آئے ہوئے واقعات کا تعلق ہے جیسے انسانی

۱۵ ایک نظریاتی ماورائے ارضی مادہ جس میں ایسے ہی ذرات ہوتے ہیں جیسے ارضی مادہ میں ہیں۔ لیکن ان ذرات میں یا تو برقی

چارچ، ارضی مادہ کے ذرات کے چارج کا الٹ ہوتے ہیں یا نیوٹرون میں مفاطیسی قطبی میلان مختلف سمت میں ہوتا ہے۔ (ترجمہ)

جنین کا ارتقا ہے تو یہ بالکل ممکن ہے کہ قرآن میں بیان کردہ مختلف روپوں کو جدید علم الجنین کے فراہم کئے ہوئے مواد کے بالمقابل لا کر دیکھیں۔ ہم اس موضوع سے متعلق جدید سائنس اور آیات قرآنی میں مکمل طور پر مطابقت پائیں گے۔

قرآن اور سائنس کے درمیان اس تقابل کی تکمیل دو اور دوسرے موازنوں سے بھی ہوئی ہے ایک ان ہی موضوعات سے متعلق جدید معلومات کا مقابلہ بائبل کے فراہم کردہ اعداد سے ہے اور دوسرا اسی سائنسی نقطہ نظر سے قرآن میں۔ (جو خدا کی جانب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہوئی کتاب ہے) دیئے ہوئے مواد اور حدیثوں میں بیان کردہ امور کے درمیان ہے جب کہ احادیث وہ کتابیں ہیں جو تحریر میں آئی ہوئی وحی کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال و اقوال کے تذکرہ پر مشتمل ہیں۔

اس کے اختتام پر جو موجودہ کتاب کا تیسرا جز ہے۔ ایک ہی واقعہ کے بائبل اور قرآن کے بیان کے درمیان مقابلہ کے تفصیلی نتائج دیئے جاتے ہیں۔ اسی کے ساتھ یہ ذکر بھی ہے کہ جب سر بیان کو سائنسی نقد و تبصرہ کی منزل سے گزارا جاتا ہے تو ہر عبارت کے ساتھ کیا پیش آتا ہے مثلاً تخلیق اور طوفان عالمگیر کے سلسلہ میں جائز لیا گیا ہے۔ ہر مثال میں، بائبل کے بیانات میں سائنس کے ساتھ عدم مطابقت کو واضح کیا گیا ہے۔ نیز ان ہی واقعات سے متعلق قرآنی بیانات اور سائنس کے مابین مکمل مطابقت دکھائی دیتی ہے ہم واضح طور پر ان اختلافات کا جائزہ لیں گے جو موجودہ زمانہ میں ایک بیان کو سائنسی نقطہ نظر سے قابل قبول اور دوسرے کو ناقابل قبول بنا دیتے ہیں۔

یہ مشاہدہ بنیادی اہمیت کا حامل ہے اس لئے کہ مغرب میں یہودی، نصرانی اور دہریئے (منکرینِ خدا) اس بیان پر متفق ہیں (لیکن ذرا سی بھی شہادت کے بغیر) کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بائبل کی تقلید اور پیروی میں قرآن دکھایا لکھوایا تھا۔ یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ قرآن میں جو مذہبی تاریخ کے قصے دیئے ہوئے ہیں وہ بائبل کے قصوں کا خلاصہ ہیں۔ یہ رویہ ایسی ہی نا سمجھی اور بے عقلی کا ہے جیسے یہ کہا جائے کہ یسوع نے خود اپنے مواعظ کے دوران عہد نامہ قدیم سے تحریک پا کر اپنے ہم عصروں کو الو بتایا تھا۔ چنانچہ جیسا کہ ہم پہلے ہی حقیقی طور پر دیکھ چکے ہیں۔ مٹی کی پوری اچیل، عہد نامہ قدیم کے اسی تسلسل پر مبنی ہے۔ کیا تفسیروں کا کوئی ماہر اس دلیل سے یسوع کو ان کے پیغمبر خدا ہونے کے مرتبہ سے محروم کرنے کا خواب بھی دیکھ سکتا تھا؟ اس کے باوجود یہی وہ طریقہ ہے جس نے مغرب میں اکثر و بیشتر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبہ کو جانچا جاتا ہے۔ انھوں نے کلمہ یہ کیا ہے کہ بائبل کی نقل کر ڈالی، یہ ایک رواروی کا فیصلہ ہے جس میں اس حقیقت

کا لحاظ نہیں رکھا گیا ہے کہ قرآن اور بائبل ایک ہی واقعہ کو مختلف شکلوں میں پیش کرتے ہیں۔ لوگ بیانات کے اختلاف کے بارے میں بحث نہ کرنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ وہ ایک ہی طرح سے بیان کئے گئے ہیں۔ اس لئے سائنسی معلومات کو اس میں دخل اندازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم ان مسائل کو تفصیل سے اُس وقت بیان کریں گے جب تخلیق اور طوفان عالمگیر کے واقعات سے بحث ہوگی۔

احادیث کے مجموعوں کا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہی تعلق ہے جو تاجیل کا یسوع سے ہے۔ یعنی دونوں پیغمبروں کے افعال و اقوال کے بیانات ہیں۔ ان کے مصنفین چشم دیدہ گواہ نہیں تھے۔ یہ بات کم از کم حدیثوں کے مجموعوں کے مرتبین پر صادق آتی ہے۔ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ مصدقہ ہیں اور جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے زمانہ کے بہت بعد میں ترتیب دیئے گئے۔ وہ کسی ایسی کتابوں پر مشتمل نہیں ہیں۔ جن کی بنیاد وحی متلو پر ہو۔ وہ خدا کا کلام نہیں ہے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں۔ ان کتابوں میں جو تہایت کثرت سے بڑھی جاتی ہیں ایسے بیانات ملتے ہیں جو سائنسی نقطہ نظر سے اغلاط پر مشتمل ہیں خصوصاً طبعی معالجات۔ ہم قدرتی طور پر کسی ایسی چیز کو نظر انداز کر دیتے ہیں جس میں مذہبی نوعیت کے مسائل بیان کئے گئے ہیں اس لئے کہ ان پر خود حدیث کے حوالے سے بحث نہیں کی جا رہی ہے۔ بہت سی حدیثوں کی صحت مشتبہ ہے۔ ان پر خود مسلمان علمائے بحت کی ہے۔ جب کسی حدیث کی سائنسی نوعیت پر اس کتاب میں بحث کی جاتی ہے تو یہ لازمی طور پر اس تمام بات کو نمایاں اور واضح کرنے کے لئے ہوتا ہے جو ان کو خود قرآن سے ممیز و ممتاز کرتی ہے جب اس کا بھی اسی نقطہ نظر سے جائزہ لیا جائے۔ اس لئے کہ مؤخر الذکر میں ایک بھی سائنسی بیان ایسا نہیں جو ناقابل قبول ہو۔ جیسا کہ ہم دیکھیں گے یہ فرق نہایت حیرت کن ہوتا ہے۔

مذکورہ صدر جائزہ سے ان لوگوں کا نظریہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کا مصنف قرار دیتے ہیں بالکل بوجہ اور کمزور ثابت ہوتا ہے۔ ناخواندہ لوگوں میں ایک شخص، ادبی محاسن کے لحاظ سے پورے عربی ادب میں کس طرح سب سے بڑا مصنف بن گیا؟ اس وقت وہ سائنسی

مصنف کی مراد موضوعات یا وضعی حدیثوں سے ہے اس قسم کی احادیث خلافت نبویہ کے زمانہ میں خصوصیت سے کوفہ اور بصرہ میں بڑی تعداد میں وضع کی گئیں۔ جس کی وجہ سے مسلمان علماء اور محدثین کو صحیح کو غلط سے علیحدہ کرنے میں بڑی وقتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ان کو جانچنے کے لئے اصول حدیث بنائے گئے۔ اسماء الرجال کا علم جو مسلمانوں کے ساتھ مخصوص ہے ایجاد کیا گیا اور ایسی نام تہاد حدیثوں کے مجموعے مرتب کر دیئے جو لوگوں نے وضع کی تھیں۔ ان کو موضوعات کے نام سے موسوم کیا۔ جیسے موضوعات ملا علی قادری۔

توعیت کے ایسے حقائق کیسے بیان کر سکتا تھا جو اُس زمانہ میں کسی بھی فرد بشر کے لئے ظاہر کرنا ممکن نہیں تھا اور یہ سب بھی اس طرح کہ اُس موضوع پر انکشافات کرتے ہیں ایک مرتبہ بھی خفیت سے غلطی کا ارتکاب نہ ہوا۔

اس مطالعہ میں پیش کردہ خیالات خالص سائنسی نقطہ نظر سے ظاہر کئے گئے ہیں یہ خیالات اس نتیجہ پر پہنچاتے ہیں کہ کسی بشر کے لئے جو ساتویں صدی عیسوی میں یقید حیات ہو۔ قرآن میں اتنے بہت سے موضوعات پر جو اُس کے زمانہ سے تعلق نہ رکھتے ہوں اور جو بائیس صدیوں بعد منکشف ہوتے والی ہوں بیانات دے سکے۔ میرے نزدیک قرآن کے لئے کوئی بشری توضیح و تشریح ممکن نہیں ہے۔



قرآن کی صداقت

کس طرح یہ تحریری شکل میں آیا

قرآن کی ناقابل تردید صداقت کی بدولت ہی اس کا تین الہامی کتابوں میں ایک منفرد مقام رکھتا ہے جس میں نہ عہد نامہ قدیم اور نہ عہد نامہ جدید اس کا سہیم و شریک ہے۔ اس کتاب کے پہلے دو اجزاء میں ان تبدیلیوں کا جائزہ لیا گیا ہے جو عہد نامہ قدیم اور انابیل میں ان کے موجودہ شکل میں ہم تک پہنچنے میں ہوا ہے۔ یہ بات قرآن کے بارے میں صحیح نہیں ہے اس کی مہولی سی وجہ یہ ہے کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ہی ضبط تحریر میں آگیا تھا۔ ہم دیکھیں گے کہ یہ کس طرح لکھا گیا یعنی لکھنے میں کیا طریقہ کار اختیار کیا گیا۔

اس سلسلہ میں وہ اختلافات جو قرآن کو بائبل سے جدا کرتے ہیں کسی طرح بھی ان سوالات کی وجہ سے نہیں ہیں جو بنیادی طور پر ان کی تاریخ سے متعلق ہیں۔ اس قسم کے سوالات بعض لوگ ان حالات کا جو یہودی اور اسلامی صحیفوں کے معرض تحریر میں آنے کے وقت تھے لحاظ کرتے بغیر مسلسل پیش کرتے رہتے ہیں۔ وہ مساوی طور پر ان حالات کو بھی نظر انداز کر رہے ہیں جو قرآن کے نبی کریم پر نازل ہوتے وقت محیط تھے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ جو تین ساتویں صدی کا ہے اس کے لئے اس بات کے امکانات زیادہ قوی ہیں کہ وہ ان متون کے مقابلہ میں جو تقریباً پندرہ صدیوں کے بقدر قدیم ہیں، ہم تک بغیر تبدیلی کے پہنچ جائے۔ یہ بات اگرچہ صحیح ہے تاہم اس کو کافی وشافی دلیل قرار نہیں دیا جاسکتا۔ علاوہ ازیں یہ اقرار مزید اعتذار اور اس بات کے اعتراف کا موجب ہوتا ہے کہ کئی صدیوں کے دوران یہودی۔ عیسائی متون میں تحریفات ہوتی رہیں۔ اور قرآن کے متن کو جو زیادہ جدید ہے۔ انسانی تحریفات کا بہت کم خطرہ رہا۔

عہد نامہ قدیم کے سلسلہ میں ان مصنفین کی جو ایک ہی قصہ کو دہراتے رہے ہیں، صرف تعداد جمع وہ تمام تنقیحات جو سنہ عیسوی کے قبل بعض کتابوں کے متون پر ہوتی رہی ہیں۔ ان کے غیر صحیح اور متضاد ہونے کے کئی دلائل ہیں جہاں تک انابیل کا تعلق ہے کوئی شخص بھی اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ان میں یسوع کے اقوال کی صحیح نقل یا ان کے افعال کا حقیقت کے مطابق

تذکرہ ہمیشہ من و عن درج کیا جاتا رہا ہے ہم دیکھ چکے ہیں کہ کس طرح متون کے یکے بعد دیگرے بیان ہونے والی روایات میں کلی طور پر صداقت کی کمی رہی ہے اور اس کے علاوہ یہ کہ ان کے مصنفین چشم دید گواہ نہیں تھے۔

نیز اس کو اس فرق سے اور بھی زیادہ اہمیت حاصل ہو جاتی جو وحی متلو بہر مشتمل ایک کتاب یعنی قرآن اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال و اقوال کے بیانات سے متعلق مجموعوں یعنی احادیث کے درمیان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض صحابہ نے ان کو آپ کی رحلت کے فوری بعد کھنا شروع کر دیا تھا۔ چونکہ بشری مہول چوک کا امکان ان میں ہو سکتا تھا ان کی ترتیب و تدوین کا سلسلہ بعد میں جاری رکھنا پڑا اور مذہبی اعتبار سے ان کو نقد و تبصرہ کے معیار پر پرکھا گیا۔ چنانچہ سب سے اہمیت عملاً ان مجموعوں کو دی جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فوراً بعد معرض وجود میں آئے۔ احادیث کے ان مجموعوں کی صداقت کا معیار اناجیل کی طرح بدلتا رہتا ہے۔ کوئی بھی انجیل ایسی نہیں ہے جو یسوع کے زمانہ میں لکھی گئی ہو (وہ سب کی سب آپ کے دنیوی مشن کے اختتام کو پہنچنے کے عرصہ دراز کے بعد ضبط تحریر میں لائی گئیں) اور احادیث کا کوئی مجموعہ بھی ایسا نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں مرتب ہوا ہو۔

جہاں تک قرآن کا معاملہ ہے اس کی صورت جداگانہ ہے جب وحی کا سلسلہ جاری ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ پر ایمان لانے والوں نے اس کے متن کو حفظ کر لیا نیز آپ کے کاتبین نے اس کو لکھنا بھی شروع کر دیا۔ لہذا اس کا آغاز صحت و صداقت کے ان دو عناصر سے ہوا جو اناجیل کو حاصل نہیں تھے۔ یہ سلسلہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت تک جاری رہا۔ اس زمانہ میں جب کہ ہر شخص لکھ نہیں سکتا تھا لیکن زبانی ہر شخص دہرا سکتا تھا، حافظہ سے تلاوت کرتا اس اعتبار سے بجا فادیت رکھتا تھا کہ جب فیصلہ کن متن مرتب کیا گیا اس وقت یہ ممکن تھا کہ فریقین کے حافظہ سے چانچ پڑتال کر لی جائے۔

اے اگرچہ روایات صحیحہ سے اس امر کی تصدیق ہوتی ہے کہ بعض صحابہ نے حضور رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ہی حدیثیں لکھنی شروع کر دی تھیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاصؓ کے بارے میں حضرت ابو ہریرہؓ کی شہادت موجود ہے کہ وہ حدیثیں لکھ لیا کرتے تھے۔ لیکن مصنف علام کا اشارہ ان احادیث کے مجموعوں کی طرف ہے جو اس وقت موجود اور مروج ہیں۔ ان کے بارے میں بھی یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ مسلمانوں نے اس قیامت سحر بچنے کے لئے کہیں صحیح کے ساتھ موضوع روایات بھی شامل نہ ہو جائیں حدیث کو چانچنے کے کچھ اصول مرتب کئے۔ اور راویوں کی پوری طرح جانچ پرکھ کی نتیجہ یہ ہوا کہ صحیح احادیث کا بھی ایک بڑا ذخیرہ محفوظ رہ گیا۔

وحی قرآنی کا نزول حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے بیس سال سے زیادہ کی مدت لگی۔ آغاز چھپا تو ہی سورۃ کی ابتدائی آیات سے ہوا۔ پھر تین سال کے وقفہ کے بعد جاری ہو کر ۳۳ سالہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت تک جو بیس سال کی طویل مدت ہے جاری رہا۔ یعنی دس سال ہجرت سے قبل اور دس سال ہجرت کے بعد۔

سب سے پہلی وحی درج ذیل ہے (سورہ ۹۶: آیات ۱ تا ۵)

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۝
خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۝
اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ۝ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۝
عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ۝

پڑھو (اے نبی!) اپنے رب کے نام کے ساتھ
جس نے انسان کو پیدا کیا جمے ہوئے خون
کے ایک لوتھڑے سے پڑھو! اور تمہارا
رب پڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعہ علم سکھایا
جس نے انسان کو وہ علم دیا ہے جسے وہ نہیں
جانتا تھا۔

۱۵ جس وقفہ کی جانب مصنف نے اشارہ کیا ہے اس کو ”فترۃ وحی“ کی اصطلاح دی گئی ہے اس کے بارے میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی ”مدارج النبوة“ میں تحریر کرتے ہیں۔

”مفسرین و محققین کہتے ہیں کہ فترت وحی کی مدت تین سال ہے یعنی اقرآن الخ کی پہلی وحی کے بعد تین سال کی مدت تک وحی کا نزول نہیں ہوا۔ ابن اسحاق نے مواہب لدنیہ میں کہا ہے کہ امام احمد نے تاریخ شعبی میں بیان کیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف اکتالیس سال کی تھی کہ وحی کا سلسلہ رک گیا اور تین سال تک آپ کی نبوت کو حضرت اسرافیلؑ سے قریب کر دیا گیا۔ وہ آپ کو اسرار نبوت تعلیم فرماتے رہے اور اس مدت میں قرآن سے کوئی آیتہ نازل نہیں ہوئی جس کو حضرت اسرافیلؑ اپنی زبان سے ادا کرتے، جب آپ کی عمر چالیس سال کی ہوئی (یعنی تین سال کی فترت کے بعد) تو آپ کی نبوت کی تعلیم حضرت جبریل علیہ السلام کے سپرد دی گئی۔ پس آپ پر قرآن نازل ہونا شروع ہوا اور یہ سلسلہ بیس سال تک جاری رہا“

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما اور حضرت امام زہریؒ سے روایت ہے کہ پہلی وحی کے بعد نزول وحی کا سلسلہ کچھ عرصہ کے لئے موقوف ہو گیا۔ اس کے بعد سورہ مدثر نازل ہوئی اور پھر نزول وحی کا سلسلہ جاری ہو گیا۔

اس سلسلہ میں متضاد روایات ملتی ہیں لیکن صحیح یہی معلوم ہوتا ہے کہ صرف کچھ عرصہ کے لئے وحی کا التوا ہوا تھا (مترجم)

۱۶ حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) ان الفاظ کو سن کر پوری طرح حیران و شتدرہ گئے۔ ہم ان کی تشریح کی جانب پھر مراجعت کریں گے۔ بالخصوص اس حقیقت کی روشنی میں کہ حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) نہ پڑھ سکے تھے نہ لکھ سکتے تھے۔

پروفیسر حمید اللہ اپنے فرانسیسی ترجمہ قرآن مجید کے ابتدائیہ میں بیان کرتے ہیں کہ اس پہلی وحی کا لب لباب انسانی علم کا ایک ذریعہ ہونے کے سبب قلم کی تعریف کرنا سے جس سے اس امر کی وضاحت ہوتی ہے نبی کریم (صلی اللہ علیہ وسلم) کا منصب قرآن کو تحریری شکل میں محفوظ رکھنا تھا متون سے باقاعدہ طور پر ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے مکہ سے مدینہ کی جانب تشریف لے جانے سے کافی عرصہ قبل (یعنی واقعہ ہجرت سے کافی مدت پہلے) قرآنی متن جس کا نزول اُس وقت تک ہو چکا تھا ضبط تحریر میں لایا جا چکا تھا۔ ہم دیکھیں گے کہ اس معاملہ میں کس طرح استناد کا درجہ رکھتا ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ (اور اہل ایمان جو آپ کے ساتھ تھے) نازل شدہ متن کو حافظہ سے تلاوت کرنے کے عادی تھے۔ لہذا قرآن کے لئے اُن واقعات کا بیان کرنا ناقابل فہم ہے جو حقیقت سے مطابقت نہ رکھتے ہوں۔ اس لئے کہ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے متبعین کا نہیں سے دریافت کر کے مؤخر الذکر کی توثیق آسانی سے کر سکتے تھے۔

ہجرت سے پہلے کی چار سورتیں ایسی ہیں جن میں اس بات کا حوالہ ملتا ہے کہ نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) کے ۶۲۲ء میں مکہ سے روانگی سے قبل قرآن کی کتابت ہوئی تھی (سورہ ۸۰، آیات ۱۶ تا ۱۷)

كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ ۝ فَمَنْ شَاءَ ذَكُرْهُ ۝
 فِي صُحُفٍ مُّكْرَمَةٍ ۝ مَّرْفُوعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ ۝
 بِأَيْدِي سَفَرَةٍ ۝ كِرَامٍ بَرَرَةٍ ۝

ہرگز نہیں، یہ تو ایک نصیحت ہے۔
 جس کا جی چاہے اُسے قبول کرے۔
 یہ ایسے صحیفوں میں درج ہے جو مکرم ہیں۔
 بلند مرتبہ ہیں، پاکیزہ ہیں۔
 معزز اور تمیک کا تہوں کے ہاتھوں میں
 رہتے ہیں۔

(عبداللہ) یوسف علی نے اپنے ترجمہ (۱۹۳۴ء) کی تشریح و تفسیر میں لکھا ہے کہ جب یہ سورہ نازل ہوئی، پیتالیس سورتوں میں سے پیاالیس لکھی جا چکی تھیں۔ اور مکہ کے مسلمانوں کے پاس محفوظ تھیں (یہ تعداد پوری تعداد ۱۱۴ میں سے تھی)۔

سورہ ۸۵ - آیات ۲۱ اور ۲۲

بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَّجِيدٌ ۝ فِي لَوْحٍ مَّحْفُوظٍ ۝
 بلکہ یہ قرآن بلند پایہ ہے۔
 اُس لوح میں (نقش ہے) جو محفوظ ہے۔

۱۱۴ متن میں لفظ قرآن ہے جس کے معنی قرأت اور پڑھنا بھی ہیں۔

سورہ ۵۶، آیات ۷۷ تا ۸۰

یہ ایک بلند پایہ قرآن ہے۔
ایک محفوظ کتاب میں ثبت ہے۔
جیسے مطہرین کے سوا کوئی چھو نہیں سکتا۔
یہ رب العالمین کا نازل کردہ ہے۔

إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ ﴿۷۷﴾ فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ ﴿۷۸﴾

لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ﴿۷۹﴾

تَنْزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ ﴿۸۰﴾

سورہ ۲۵، آیت ۵

یہ پرانے لوگوں کی کھچی ہوئی چیزیں ہیں
جنہیں یہ شخص نقل کرتا ہے اور وہ اسے
صبح و شام سناتی جاتی ہیں۔

وَقَالُوا سَاطِرُ الْأَوَّلِينَ آتَتْهَا فِيهَا

تُمْلَىٰ عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ﴿۵﴾

یہاں ان اعتراضات کا بھی حوالہ ملتا ہے جو معاندین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کرتے
تھے اور آپ کو العیاذ باللہ جعل ساز قرار دیتے تھے۔ انہوں نے یہ افواہ پھیلارکھی تھی کہ ماضی کے
قصر آیت کو املا کر دیئے جاتے ہیں اور آپ ان کو کھ لیتے ہیں یا دوسروں سے لکھوا لیتے ہیں اس لفظ
یعنی "تُمْلَىٰ" کا مفہوم تنازعہ ہے۔ لیکن یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم
امی تھے۔ مطلب خواہ کچھ بھی ہوا۔ آیت سے ضبط تحریر میں لائے جانے کے عمل کا حوالہ ملتا ہے۔ جس
کی جانب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین نے بھی اشارہ کیا ہے۔
ایک سورت میں جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی ان اوراق کا ایک آخری حوالہ ملتا ہے جن پر یہ
سماوی ہدایات کھچی جاتی تھیں۔

سورہ ۹۸، آیات ۲ اور ۳

رَسُولٌ مِّنَ اللَّهِ يَتْلُو صُحُفًا مُّطَهَّرَةً ﴿۲﴾

فِيهَا كُتِبَ قِيمَةٌ ﴿۳﴾

اللہ کی طرف سے ایک رسول جو پاک صحیفے
پڑھ کر سنائے جن میں بالکل راست اور درست
تحریریں لکھی ہوئی ہوں۔

لہذا قرآن ہدایت خود اس حقیقت کے لئے اشارے بہم پہنچاتا ہے کہ اس کی کتابت عہد رسالت
میں ہو گئی تھی۔ یہ واقعہ کا بخوبی علم ہے کہ آپ کے تبعین میں بہت سے کاتب تھے جن میں سب سے
زیادہ مشہور زید بن ثابت تھے جن کا نام آئندہ نسل میں بھی باقی رہا۔

پروفیسر حمید اللہ نے اپنے فرسیسی ترجمہ قرآن مجید (۱۹۷۱ء) کے دیباچہ میں ان حالات کا
نہایت شاندار الفاظ میں تذکرہ کیا ہے جو اس وقت چل رہے تھے جب قرآن کا متن ضبط تحریر میں لایا گیا تھا

اُن کا سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت تک جاری رہا۔

”تمام ذرائع اس بات پر متفق ہیں کہ جب قرآن کا کوئی جز نازل ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خواتمہ اصحابہ میں سے کسی ایک کو بلا تے اور اس وحی کا اس کو اظہار دیتے۔ اسی وقت اس بات کی بھی نشاندہی فرمادیتے تھے کہ جو کچھ پہلے نازل ہو چکا ہے اُس متن کے کسی مقام پر اُس نے جز کو درج کیا جائے۔ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بتوں سے ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ جو کچھ اُن کو اظہار کیا گیا ہے اُس کو آپ کے سامنے پڑھ کر سنا میں تاکہ اگر کوئی کمی رہ گئی ہے تو آپ اُسے درست فرمادیں۔ ایک اور مشہور روایت یہ بھی ہے کہ ہر سال ۱۰ رمضان المبارک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پورا قرآن مجید (جتنا نازل ہو چکا ہوتا) حضرت جبرئیل کو پڑھ کر سنایا کرتے تھے۔ اور یہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت سے پہلے کے مہینہ میں حضرت جبرئیل نے آپ سے دو مرتبہ پڑھوا کر سنا تھا۔ یہ بات معلوم ہے کہ کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ سے مسلمان ماہ رمضان کے دوران شب بیداری کرنے اور عام نمازوں کے علاوہ تمام قرآن کی تلاوت کرنے کے عادی ہو گئے ہیں کئی ذرائع سے مزید انکشاف ہوتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب حضرت زید رضی اللہ عنہ کے آخری مرتبہ جمع کرنے کے موقع پر موجود تھے۔ دوسری جگہ بہت سی دوسری شخصیتوں کا بھی ذکر ملتا ہے۔“

اس پہلی کتابت کے لیے بے انتہا مختلف نوعیت کا سامان کام میں لایا جاتا تھا: جیسے بھلی، چمڑا، چوہنی تختیاں، اونٹ کی ہڈیاں، نرم پتھر کندہ کرنے کے لیے وغیرہ۔ لیکن اس کے ساتھ ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنین کو یہ بھی ہدایت فرمائی تھی کہ وہ قرآن کریم کو حفظ یاد کریں۔ چنانچہ اگر پورا متن نہیں تو اس کا کچھ حصہ جس کی قرأت نمازوں میں کی جاتی تھی ضرور حفظ کر لیتے تھے۔ اس طرح ایسے حفاظ کی ایک جماعت پیدا ہو گئی جن کو تمام قرآن یاد تھا اور اس کو وہ حضرات دور افتادہ مقامات پر بھی پھیلانے تھے۔ متن کو دو طریقوں پر یعنی تحریر اور حفظ کے ذریعہ محفوظ کرتے کا یہ قاعدہ بے انتہا مفید ثابت ہوا۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت (۶۳۲ء) کے کچھ عرصہ بعد آپ کے جانشین پیغمبر اول حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سابق کاتب اعلیٰ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی ایک نقل تیار کرنے کے لیے کہا اور انھوں نے یہ کام انجام دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے تالیف رتاتی کی تحریک پر زید نے مدینہ میں جتنی بھی معلومات فراہم ہو سکتی تھیں حاصل کیں۔ حفاظ کی شہادت، مختلف چیزوں پر افراد کی سچی طور پر لکھی ہوئی کتاب کی نقلیں، سب کچھ اس مقصد کے لیے

تھا کہ نقل کرنے میں تمام ممکنہ غلطیوں سے بچا جاسکے۔ اس طرح قرآن کی ایک بے انتہا قابل
اعتماد نقل تیار ہو گئی۔

بعض ذرائع سے پتہ چلتا ہے کہ خلیفۃ المومنین حضرت عمرؓ نے جو حضرت ابو بکرؓ کے
۶۳۴ء میں جانشین ہوئے ایک جلد (مصحف) تیار کرائی، اس کو انھوں نے محفوظ کیا اور اپنی وفات

کے وقت اپنی صاحبزادی حضرت حفصہؓ زوجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سپرد کی۔
اسلام کے تیسرے خلیفہ، حضرت عثمانؓ نے جن کے پاس منصب خلافت ۶۴۴ء سے
۶۵۵ء تک رہا ماہرین کی ایک خصوصی جماعت کو وہ نسخہ مصحح تیار کرنے کا کام تفویض کیا جس
پر ان کا نام درج ہے۔ اس جماعت نے اس شہادت کی صداقت کی جانچ پڑتال کی جو حضرت
ابو بکر کے سامنے پیش ہوئی تھی۔ اور جو اس وقت تک حضرت حفصہؓ کی تحویل میں تھی۔ اس جماعت
نے ان مسلمانوں سے مشورہ کیا جو پورے تن کے حافظ تھے۔ تن کی صحت کا تنقیدی طور پر تجزیہ بہت
سختی سے کیا گیا۔ پیشتر اس کے کہ کسی ایسی معمولی سی آیت کو بھی جس میں اختلافی مواد شامل ہوتا قبول
کیا جاتا اور قائم رکھا جاتا شاہدوں کے اتفاق رائے کو ضروری سمجھا گیا۔ یہ بات معلوم ہے کہ اختلاف
نسخ کی صورت میں قرآن کی بعض آیات کی بعض سے تصحیح ہو جاتی ہے اس کی توضیح اس صورت میں
آسانی سے کی جاسکتی ہے۔ جب یہ بات ذہن میں رکھی جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی
کے نزول کا سلسلہ بیس سال (پورے اعداد میں) سے کچھ زیادہ مدت پر پھیلا ہوا ہے۔ اس کا نتیجہ
یہ ہوا کہ ایک ایسا متن تیار ہو گیا جس میں سورتوں کی وہ ترتیب قائم رہی جو رمضان کے دوران
جیسا کہ صدر میں بیان کیا گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے پورے قرآن
کی تلاوت مروی ہے۔

ممکن ہے کسی شخص کے ذہن میں یہ بات پیدا ہو کہ آخر وہ کیا چیز تھی جس نے پہلے تین خلفاء
خصوصاً حضرت عثمانؓ کو قرآن کریم کے جمع کرنے اور متن پر نظر ثانی کرنے کی جانب مائل کیا۔ وجوہات
فی الحقیقت نہایت سادہ ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد ابتدائی وہ سالوں
(دہائیوں) میں اسلام کی اشاعت بہت تیزی سے ہوئی اور یہ ان قوموں میں پھیلا جن کی مادری زبان
عربی نہیں تھی۔ اس صورت میں یہ بات ضروری ہوئی کہ ایک ایسا متن تیار کیا جائے جس میں تبدیلی
صحت برقرار رہے۔ حضرت عثمانؓ کے نظر ثانی کرانے کا یہی مقصد تھا۔

حضرت عثمانؓ نے نظر ثانی شدہ متن کی نقلیں سلطنت اسلامیہ کے مختلف مراکز کو روانہ
فرمادی۔ یہی وجہ ہے کہ بقول پروفیسر حمید اللہ، حضرت عثمانؓ سے جن نسخوں کو تسویب کیا جاتا ہے

تاشقند اور استنبول میں موجود ہیں۔ نقل کرنے میں ایک آدھ ممکنہ سہو سے قطع نظر اس وقت جو قدیم ترین نسخے معلوم ہیں اور پوری اسلامی دنیا میں دریافت ہوئے ہیں وہ یکساں ہیں۔ یہی بات ان نسخوں پر بھی صادق آتی ہے جو یورپ میں محفوظ ہیں (پیرس کی نیشنل لائبریری میں ایسے پارے موجود ہیں جو ماہرین کی تحقیق کے بموجب آٹھویں اور نویں صدی عیسوی یعنی دوسری اور تیسری صدی ہجری تک پرانے ہیں)۔

متعدد قدیم متون جن کی موجودگی کا علم ہے سوائے خفیف سی تبدیلیوں کے سب کے سب آپس میں متنقض ہیں اور ان تبدیلیوں سے بھی متن کے عام مفہوم پر قطعاً کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اگر کبھی سیاق عبارت سے ایک سے زیادہ توہمات ہو سکتی ہیں تو اس وقت اس حقیقت کو پیش نظر رکھنا مناسب ہے کہ قدیم ترین، موجودہ زمانہ کی تحریر کی بہ نسبت زیادہ سادہ ہوتی تھی۔

۱۱۴ سورتوں کو ان کی بتدریج کم ہوتی ہوئی لمبائی کے اعتبار سے ترتیب دیا گیا ہے تاہم اس میں مستثنیات بھی ہیں۔ وحی کے نزول کے تاریخی سلسلہ کا خیال نہیں رکھا گیا۔ لیکن بیشتر حالات میں اس سلسلہ کا بھی علم ہے۔ متن میں بہت سے مقامات پر واقعات کثیر تعداد میں دیئے گئے ہیں۔ بعض اوقات ان کی تکرار بھی ہو جاتی ہے۔ اکثر کسی ایک موقع پر ایسے واقعہ کی تفصیل دے دی گئی ہے جو دوسری جگہ غیر مکمل حالت میں بیان کیا گیا ہے۔ قرآن میں مذکور بہت سے واقعات کی طرح جدید سائنس سے متعلق ہر بات کتاب میں واقعات کی یکسانیت کا خیال کے بغیر منتشر حالت میں موجود ہے۔

لے مثال کے طور پر امتیازی نشانات کا فقدان ایک ایسے فعل کو وجود میں لا سکتا تھا جو فعل متعدی ہوتا یا فعل لازم اور بعض صورتوں میں یا مذکر ہوتا یا مؤنث۔ لیکن اکثر بیشتر یہ بات زیادہ نتیجہ نہیں ہوتی اس لیے کہ سیاق عبارت بہت سی صورتوں میں مفہوم کو واضح کر دیتا ہے۔

ارض و سماوات کی تخلیق

بائبل کے بیانات سے اختلافات و اتفاقات

عہد نامہ قدیم کے برعکس قرآن میں تخلیق کا کوئی مربوط بیان نہیں ملتا۔ ایک مسلسل تذکرہ کے بجائے تمام کتاب میں ایسی عبارتیں منتشر حالت میں دکھائی دیتی ہیں جن میں تخلیق کے بعض پہلو بیان ہوئے ہیں اور جو اس کے ارتقاء کی نشاندہی کرنے والے سلسلہ وار واقعات کے بارے میں معلومات بہم پہنچاتے ہیں۔ یہ معلومات تفصیل کے اعتبار سے مختلف درجے کی ہے۔ اس بات کا واضح تصور حاصل کرنے کے لیے کہ یہ واقعات کس طرح پیش کیے گئے ہیں، متعدد سورتوں میں پھیلے ہوئے ان اجزاء کو یکجا کرنا پڑتا ہے۔ تمام کتاب میں ایک ہی مضمون کے حوالوں کا یہ انتشار تخلیق کے موضوع کے ساتھ ہی مخصوص نہیں ہے قرآن میں بہت سے اہم موضوعات کو اسی انداز سے بیان کیا گیا ہے۔ خواہ وہ ارضی حوادث ہوں یا سماوی یا انسان سے متعلق ایسے مسائل ہوں جو سائنسدانوں کی دلچسپی کے ہیں۔ ان موضوعات میں سے ہر ایک کے سلسلہ میں یہی کوشش کی گئی ہے کہ تمام آیات کو ایک جگہ جمع کر دیا جائے۔ یورپ کے بہت سے شارحین کے نزدیک قرآن میں تخلیق کا بیان بہت کچھ بائبل سے ملتا چلتا ہے لہذا وہ دونوں کے بیانات کو نہایت اظہان کے ساتھ پہلو بہ پہلو پیش کر دیتے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ یہ تصور غلط ہے اس لیے کہ ان میں نہایت نمایاں اختلافات ہیں۔ ان موضوعات پر جو سائنسی نقطہ نظر سے کسی طرح بھی غیر اہم نہیں ہیں۔ ہم قرآن میں ایسے بیانات ملتے ہیں جن کے مثل بائبل میں تلاش کرنا بے سود ہے۔ موزر الذکر میں کچھ ایسے بیانات ہیں جن کے ہم معنی قرآن میں نہیں ہیں۔ دونوں متنوں میں واضح یکسانیتیں بخوبی معلوم ہیں۔ ان میں سے پہلی نظر میں جو واقعہ سامنے آتا ہے وہ تخلیق کے سلسلہ وار مدارج کا بیان ہے۔ یہ کیساں ہے۔ بائبل کے چھ دن، قرآن کے سبتہ ایام سے مطابقت رکھتے ہیں۔ لیکن حقیقت میں مسد اس سے زیادہ پیچیدہ ہے۔ اور یہ اس قابل ہے کہ اسکا جائزہ لینے کے لیے تھوڑا سا توقف کیا جائے۔

تخلیق کے چھ ادوار

بائبل میں تخلیق کائنات چھ دن میں ہونے کے سلسلہ میں جو بیان دیا گیا ہے اسی میں کسی قسم

کا کوئی ابہام نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک دن کا آرام یعنی یوم سبت ہے اور یہ سب ہفتے کے دنوں کے ساتھ منطبق ہوئے ہیں۔ یہ بات بتائی جا چکی ہے کہ چھٹی صدی قبل مسیح کے پادریوں کے اختیار کردہ اس طرز بیان سے کس طرح لوگوں میں یوم سبت کو مٹانے کا رجحان پیدا ہوا۔ تمام یہودیوں سے یہ امید کی جاتی تھی کہ وہ سبت کے دن اسی طرح آرام کریں گے جس طرح کہ خداوند نے ہفتے کے چھ دنوں کے دوران محنت کرنے کے بعد آرام کیا تھا۔

جس طرح سے یاہیل میں اس کی تشریح کی گئی ہے لفظ 'دن' سے مراد وہ وقفہ ہے جو کرۂ ارض کے کسی باشندہ کے لیے دو متواتر طلوع آفتاب یا غروب آفتاب کے درمیان پڑتا ہے۔ جب اس کی یہ تعریف کی جائے تو دن کا انحصار زمین کے اپنی محور کے گرد ایک چکر کاٹنے پر ہوا۔ یہ بات واضح ہے کہ منطقی طور پر جس طرح ابھی تعریف کی گئی 'دنوں' کا کوئی سوال نہیں ہو سکتا اگر اس سے وہ ترکیب مراد لی جائے جو ان کے ظہور کا سبب ہوتی ہے۔ یعنی زمین کی موجودگی اور سورج کے گرد اس کی گردش۔ اس لیے کہ تخلیق کے ابتدائی مدارج میں جیسا کہ خود یاہیل کے بیان سے ظاہر ہے اس کا تعین نہیں ہوا تھا اس عدم امکان پر اس کتاب کے جزو اولیٰ میں پہلے ہی زور دیا جا چکا ہے۔

جب ہم قرآن کے متعدد ترجموں سے رجوع کرتے ہیں تو ہمارے مطالعہ میں آتا ہے کہ یاہیل کے بیان سے ملتا جلتا۔ اسلامی تنزیل میں بھی تخلیق کا سلسلہ وہی چھ دنوں میں انجام کو پہنچا۔ مترجمین کی اس حقیقت پر گرفت نہیں کی جاسکتی کہ انہوں نے عربی کے لفظ کا اس کے نہایت عام مفہوم کے اعتبار سے ترجمہ کیا ہے۔ یہی وہ انداز ہے جس میں ترجموں میں عام طور پر اس کو بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ قرآن میں آیت ۵۴، سورۃ ۷۔ اس طرح پر ہے۔

إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ

وَالْأَرْضِ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ -

اور زمین کو چھ دنوں میں پیدا کیا۔

قرآن کے بہت کم تراجم اور تفسیر ایسے ہیں جو یہ بتاتے ہیں کہ لفظ 'ایام' کو حقیقی طور پر کس طرح "ادوار" کے معنوں میں لیا جائے۔ علاوہ ازیں یہ دعویٰ کیا گیا ہے۔ اگر تخلیق کے موضوع پر

۱۵ یاہیل کے جس بیان کا یہاں ذکر کیا گیا ہے وہ نام نہاد مرشدانہ متن سے ماخوذ ہے جس پر اس کتاب کے جزو اولیٰ میں بحث کی گئی ہے۔ نام نہاد یہودی متن میں جو بیان دیا گیا ہے وہ آج کل کے یاہیل کے متن میں صرف چند سطروں میں سمیٹ دیا گیا ہے اور اس لیے اس پر یہاں گفتگو کرنا بیکار اور غیر واقع ہے۔

۱۶ "سبت" کا عبرانی میں مفہوم ہے "آرام کرنا"

قرآنی متون نے اس کے مدارج کو ایام میں تقسیم کیا تھا تو اس کا شعوری مقصد ان عقائد کو اختیار کرنا تھا جو آغاز اسلام کے وقت تمام یہود و نصاریٰ مانتے تھے اور ایسے ہمہ گیر عقیدہ سے شدید مقابلہ سے بچنا تھا۔ اس لفظ نظر کو اس طرح مسترد کیے بغیر غالباً اس مسئلہ کو ذرا زیادہ غور سے دیکھا جائے اور خود قرآن میں اس کا حل تلاش کیا جائے۔ نیز زیادہ عمومی انداز میں اس وقت کی زبان کو سامنے رکھ کر اس لفظ کے اس امکانی مفہوم کو معلوم کیا جائے جس کو بہت سے مترجمین اس وقت بھی ”دن“ کے لفظ سے ظاہر کر رہے ہیں: عربی لفظ یوم ہے جس کی جمع ایام ہے۔

اس کا نہایت عام مفہوم ’دن‘ ہے لیکن زیادہ زور اس بات پر دینا پڑے گا کہ یہ لفظ اس وقت کی لمبائی کے مقابلہ میں جو ایک دن کے غروب آفتاب سے دوسرے دن کے غروب آفتاب تک وقت کی لمبائی کے معنی کے معنوں پر زیادہ صادق آتا ہے اس لفظ کے جمع ایام سے مراد بعینہ دن ممتد ہے دن کی روشنی کے معنوں پر زیادہ صادق آتا ہے اس لفظ کے جمع ایام سے مراد بعینہ دن نہیں ہے بلکہ اس کا مفہوم وقت کا طویل وقفہ بھی ہو سکتا ہے جو وقت کی ایک غیر معینہ مدت ہے (لیکن ہمیشہ ایک طویل مدت)۔ یہ مفہوم یعنی وقت کی مدت، جو اس لفظ میں شامل ہے قرآن میں اور جگہ بھی ملتا ہے۔ چنانچہ حسب ذیل ملاحظہ ہو۔

سورۃ ۳۲، آیت ۵

ایک ایسے دن میں جس کی مقدار تمہارے
شمار سے ایک ہزار سال ہے۔

فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ
قِمَاتًا عُذُوتًا

(یہ بات قابل توجہ ہے کہ چھ ادوار میں تخلیق قطعاً وہی بات ہے جس کا حوالہ آیت ۵

سے پہلے کی آیت میں دیا گیا ہے)

سورۃ ۷۰، آیت ۴:

ایک ایسے دن میں جس کی مقدار پچاس
ہزار سال ہے۔

..... فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ
أَلْفَ سَنَةٍ

یہ حقیقت کہ لفظ یوم سے مراد وقت کا ایک ایسا وقفہ بھی ہو سکتا ہے جو اس مدت سے قطعاً مختلف ہو جو ہمارے نزدیک لفظ دن سے عبارت ہے نہایت ابتدائی دور کے مفسرین کے لیے موجب حیرت تھی جن کو فی الحقیقت کائنات کی تشکیل کے مدارج کی لمبائی سے متعلق وہ معلومات نہیں تھی جو آج ہمیں حاصل ہے۔ مثلاً سولہویں صدی عیسوی میں ’ابو السعود‘ نے جس کو دن کا وہ تصور نہیں تھا جو علم ہیئت کے اعتبار سے زمین کی گردش محوری کی اصطلاح میں واضح کیا جاتا ہے۔ یہ سمجھا تھا کہ تخلیق کے لیے ایک ایسی تقسیم کا تصور کرنا پڑے گا جو دنوں کی شکل میں نہیں تھی جیسا کہ اس لفظ

سے عموماً سمجھ لیا جاتا ہے بلکہ واقعات و حوادث کی صورت میں مثنیٰ (عربی میں بنا ہے) موجودہ دور کے شارحین و مفسرین اس تاویل کی جانب گئے ہیں۔ یوسف علی (۱۹۳۴ء) ہر اس آیت کی تفسیر میں جو تخلیق کے مختلف مدارج سے بحث کرتی ہے اس لفظ کو حقیقتاً نہایت طویل وقفوں یا ادوار یا جگ (قرن) کے معنوں میں لینے پر مہر ہیں حالانکہ دوسرے موقع یا محل پر اس کے معنی دن ہی کے لیے ہیں۔

لہذا یہ بات ممکن ہے دنیا کی تخلیق کی حالت میں قرآن وقت کے ایسے طویل وقفوں کو قائم رکھتا ہو جن کی تعداد چھ ہے۔ یہ بات واضح ہے کہ جدید سائنس نے انسان کو اس واقعہ کے تعین کی اجازت نہیں دی ہے کہ کائنات کی تشکیل تک پہنچانے والے عمل میں جو پیچیدہ مدارج رونما ہوئے ہیں ان کی تعداد چھ ہے بلکہ اُس نے صاف طور پر بتا دیا ہے کہ وقت کے ایسے طویل وقفے پیش آئے جن کے مقابلہ میں دنوں، کئی اکائیاں جن کا ہم تصور کرتے ہیں محکمہ تیز معلوم ہوں گی۔

قرآن کی ایک طویل ترین عبارت جو تخلیق سے بحث کرتی ہے موخر الذکر کو اس طرح بیان کرتی ہے کہ ایک ارضی واقعات اور ایک سماوی واقعات کے تذکرہ کو پہلو بہ پہلو رکھ دیتی ہے۔ زیر غور آیات سورہ ۴۱ کی آیات ۹ تا ۱۲ ہیں۔

اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہے)

قُلْ أَنتَکُمْ تَتَّکَفَرُونَ بِالَّذِیْ خَلَقَ
الْأَرْضَ فِیْ یَوْمَئِیْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهَا
أَنْدَادًا ذَلِکَ رَبُّ الْعَالَمِیْنَ ۚ وَ
جَعَلَ فِیْهَا رَوَاسِیَ مِنْ قَوْفِهَا وَ
بَرَکَ فِیْهَا وَقَدَّرَ فِیْهَا أَقْوَامَهَا
فِیْ أَرْبَعَةِ آیَّامٍ سَوَاءً لِّلسَّائِلِیْنَ ۝
ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ
فَقَالَ لَهَا وَ لِلْأَرْضِ انْعَبِی
طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتِنَا
طَائِعِیْنَ ۝ فَقَضَهُنَّ سَبْعَ

ہے نبی، ان سے کہو، کیا تم اس خدا سے کفر
کرتے ہو اور دوسروں کو اس کا ہمسر ٹھہراتے ہو جس
نے زمین کو دو دنوں میں بنا دیا؟ وہی تو سارے
جہان والوں کا رب ہے اُس نے زمین کو
وجود میں لانے کے بعد اوپر سے اُس پر پہاڑ
بجھا دیئے اور اس میں برکتیں رکھ دیں اور اس
کے اندر سب مانگنے والوں کے لیے ہر ایک
کی طلب و حاجت کے مطابق ٹھیک اندازے
سے خوراک کا سامان مہیا کر دیا یہ سب کام چار
دن میں ہو گئے۔ پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ

لے یہ مطلب نہیں ہے کہ زمین بنانے کے بعد اور اس میں آبادی کا انتظام کرنے کے بعد اُس نے آسمان بنائے یہاں پھر کا لفظ
زبانی ترتیب کے لیے نہیں بلکہ بیانی ترتیب کے لیے استعمال ہوا ہے۔ بعد فقرے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے۔ (سید ابوالاعلیٰ
مودودی)

سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى
فِي كُلِّ سَّمَاءٍ أَمْرَهَا
وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا
بِصَافِرٍ بَيِّنَةٍ وَحِفْظًا ذَلِكَ
تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ
الْعَلِيمِ

جو اس وقت محض دھواں تھا۔ اُس نے آسمان اور
زمین سے کہا "جو دہریں آجاؤ خواہ تم چاہو یا نہ چاہو"
دونوں نے کہا "ہم آگے فرمانبرداروں کی طرح"
تب اُس نے دو دن کے اندر آسمان بنا دیئے
اور ہر آسمان میں اُس کا قانون وحی کر دیا اور
آسمان دنیا کو ہم نے چراغوں سے آراستہ کیا
اور اُسے خوب محفوظ کر دیا۔ یہ سب کچھ ایک

علیم ہستی کا منصوبہ ہے۔

سورہ ۴۱ کی ان چار آیات میں وہ کئی نکات بیان ہوئے ہیں جن کی جانب ہم مراجعت کریں گے!
وہ ہیں سماوی مادہ کی ابتدائی کیسی حالت اور آسمانوں کی تعداد سات کی انتہائی ایمانی تعین۔ اس
تعداد میں مضمحل جو مفہوم ہے وہ ہم تلاش کریں گے نیز ایسا ہی ایمانی نوعیت کا وہ مکالمہ ہے جو ایک
طرف خدا کے اور دوسری جانب ابتدائی آسمان اور زمین کے مابین ہوا۔ بہر کیف یہاں دسموات،
اور ارض، کے وجود میں آنے کے بعد اہلی کے آگے صرف اُن کی اطاعت کا اظہار مقصود ہے۔
ناقدین کو اس عبارت میں تخلیق کے چھ ادوار والے بیان کے ساتھ ایک نوع کا تضاد دکھائی دیتا
ہے۔ زمین کی تشکیل کے دو ادوار کو اس کے باشندوں کے لیے اشیاء کے پھیلانے کی چار ادوار کی
مدت میں جمع کر کے آسمانوں کی تشکیل کے ادوار کا اضافہ کیا جائے تو آٹھ ادوار بنتے ہیں۔ اس صورت
میں مذکورہ بالا چھ ادوار سے اس کا تضاد و تناقض ہو جائے گا۔

لیکن فی الحقیقت یہ تین جو انسان کو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ملہ پر سوچنے کی جانب مائل کرتا ہے
جس میں ابتدا زمین کی تخلیق سے اور انتہا سموات کی تشکیل پر ہوتی ہے اس میں دو اجزاء فراہم کیے
گئے ہیں جن کا اظہار لفظ "ثم" سے ہوتا ہے اور جس کا ترجمہ "علاوہ ازیں" سے کیا جاتا ہے۔
لیکن جس کا مفہوم مزید پراں اور پھر بھی ہو سکتا ہے لہذا ایک سلسل کا مطلب بھی اس سے نکالا جا
سکتا ہے جو واقعات کے تسلسل سے یا اُن واقعات پر جن کا یہاں ذکر کیا گیا ہے انسان کے غور و فکر
کے ایک سلسلہ کی جانب اشارہ کرتا ہے یہ ایک سادہ سا حوالہ بھی اُن واقعات کی جانب ہو سکتا ہے
جو اس قصہ کے بغیر آگے پیچھے رکھ دیئے گئے ہیں کہ اُن سے یہ تصور دیا جائے کہ ایک واقعہ دوسرے کے
بعد ہوا ہے بات خواہ کچھ ہو سماوات کی تخلیق کی مدت زمین کی تخلیق کے دو ادوار کے ساتھ بھی بہ آسانی
منطبق ہو سکتی ہے ہم کچھ ہی بعد میں دیکھیں گے کہ کائنات کی تشکیل کا بنیادی عمل قرآن میں کس طرح

بیان کیا گیا ہے اور ہمیں یہ بھی پتہ چلے گا کہ یہ بات جدید تصورات کے مطابق مشترکہ طور پر سموات اور ارض پر کس طرح منطبق کی جا سکتی ہے۔ اُس وقت ہم محسوس کریں گے کہ یہ طریقہ واقعات کے ہم قدر تصور کے سلسلہ میں جس کا یہاں تصور کیا گیا ہے کس حد تک مکمل طور پر معقول ہے۔

یہاں جو اقتباس پیش کیا گیا ہے اُس میں اور دنیا کے چھ مدارج میں تشکیل پانے کے اُس تصور کے لحاظ سے کوئی تضاد دکھائی نہیں دیتا جو قرآن کے متن میں کسی دوسری جگہ دیا گیا ہے۔ ارض و سموات کی تخلیق کے لئے قرآن کوئی تطابق زمانہ قائم نہیں کرتا

قرآن کے ان دو اقتباسات میں جن کا حوالہ اوپر دیا گیا ہے ایک آیت میں سموات اور ارض کی تخلیق کا حوالہ دیا گیا ہے۔ (سورۃ ۷۰ - آیت ۵۴) اور ایک دوسری جگہ ارض اور سموات کی تخلیق کا (سورۃ ۴۱ - آیات ۹ تا ۱۲) لہذا قرآن سموات اور ارض کی تخلیق کے لیے کوئی تطابق زمانی قائم کرتا ہوا دکھائی نہیں دیتا۔

جن آیات میں ارض (زمین) کا ذکر پہلے ہے اُن کی تعداد بہت تھوڑی ہے یعنی سورۃ ۲ آیت ۲۹ - اور سورۃ ۲۰ - آیت ۴۴ جہاں یہ حوالہ اس طرح دیا گیا ہے تَنْزِيلًا مِّنْ خَلْقِ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتِ الْعُلَىٰ [اِس ذات کی طرف سے جس نے پیدا کیا ہے زمین کو اور بلند آسمانوں کو] اس کے برعکس اُن آیات کی تعداد کہیں زیادہ ہے جن میں سموات (آسمانوں) کا ذکر ارض (زمین) سے پہلے کیا گیا ہے۔ (سورۃ ۷، آیت ۵۴؛ سورۃ ۱۰، آیت ۳؛ سورۃ ۱۱، آیت ۷؛ سورۃ ۲۵ - آیت ۵۹؛ سورۃ ۳۲، آیت ۴؛ سورۃ ۵۰، آیت ۳؛ سورۃ ۱۱، آیت ۷؛ سورۃ ۲۵ - آیات ۲۷ تا ۳۳؛ سورۃ ۹۱، آیات ۵ تا ۱۰)

حقیقت یہ ہے کہ سورۃ ۷ کے علاوہ قرآن میں کوئی بھی عبارت ایسی نہیں ہے جس میں واضح طور پر تطابق زمانی قائم کیا گیا ہو ورنہ ایک معمولی سی حرف عطف (وَ) کے ساتھ جس کا مفہوم "اور" ہے دو الفاظ کو مربوط کیا گیا ہے۔ یا لفظ "ثم" (پھر) ہے جو جیسا کہ مقولہ بالا عبارت میں دیکھا جا چکا ہے یا تو ایک سادہ سے مرکب امتراجی کو ظاہر کرتا ہے یا تطابق زمانی کو۔ مجھے قرآن میں صرف ایک عبارت ایسی دکھائی دیتی ہے جس میں تخلیق کے مختلف واقعات کے درمیان صاف طور پر ایک واضح تطابق زمانی قائم کیا گیا ہے۔ یہ مضمون سورۃ ۷ کی آیت ۲ تا ۳ میں بیان ہوا ہے

عَٰلَمًا مِّنْ دُونِهَا خَلَقْنَا أُمَّ السَّمَٰوٰتِ
بَنِيهَا ۚ وَرَفَعْنَا سَمَاٰتَهَا فَسَوَّيْنَاهَا ۚ

کیا تم لوگوں کی تخلیق زیادہ سخت کام ہے
یا آسمان کی۔ اللہ نے اس کو بنایا۔ اِس

کی چھت خوب اونچی اٹھائی۔ پھر اُس کا توازن قائم کیا۔ اور اس کی رات ڈھانکی اور اُس کا دن نکالا۔ اُس کے بعد زمین کو اُس نے بچھایا۔ اُس کے اندر سے اُس کا پانی اور چارہ نکالا اور پہاڑ اُس میں کاڑ دیئے۔ سامانِ زیت کے طور پر تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے لیے۔

وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ
ضُحَاهَا وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ
دَحَاهَا أَخْرَجَ مِنْهَا
مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا وَالْجِبَالَ
أَرْضَهَا مَتَاعًا لَكُمْ
وَلِأَنْعَامِكُمْ

اللہ جل شانہ کی جانب سے انسان کے لیے ارضی انعامات کی یہ فہرست، جو ایسی زبان میں بیان ہوئی ہے جو جزیرہ نمائے سرب کے کاشتکاروں اور یدوؤں کے لیے موزوں ہے، دینے سے پہلے آسمانوں کی تخلیق پر غور کرنے کی دعوت دی گئی ہے اس میں اس مرحلہ کا حوالہ جب خدا زمین کو بچھاتا اور اس کو قابل کاشت بناتا ہے وقت کے لحاظ سے تہایت واضح طور پر اُس جگہ دیا گیا ہے جب رات اور دن کا سلسلہ قائم ہو چکا ہوتا ہے لہذا یہاں دو گروپوں کے حوالے دیئے گئے ہیں۔ ایک سماوی حوادث کا دوسرا ارضی حوادث کا جن کو وقت کے اعتبار سے الگ الگ کر دیا گیا ہے۔ یہاں جو حوالہ دیا گیا ہے اس کا اطلاق اس بات پر ہوتا کہ لازمی طور پر زمین کا وجود اُس کے پھیلانے جانے سے پہلے سے تھا اور یہ کہ نتیجتاً یہ اُس وقت موجود تھی جب اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو تخلیق کیا۔ اس لیے سماوی اور ارضی ارتقاء کے دونوں حوادث کے ساتھ باہم تسلسلہ ہونے سے جو بات نکلتی ہے اُس سے ان دونوں کو لازم و ملزوم ہونے کا تصور پیدا ہوتا ہے۔ لہذا قرآنی متن میں جو حوالہ ملتا ہے اُس میں ارض کی تخلیق سموات سے پہلے یا سموات کی ارض سے پہلے کے تصور کو کوئی خاص اہمیت نہیں دی جانی چاہیے۔ الفاظ کا محل استعمال اُس وقت تک اس ترتیب پر اثر انداز نہیں ہوتا جس میں تخلیق کا عمل رونما ہوا جب تک کہ مخصوص طور پر اس کا ذکر نہ کیا جائے۔

قرآن کریم میں اُس حادثہ کی مختصر ترکیب دو آیات میں پیش کی گئی ہے جن سے کائنات کی تشکیل کا بنیادی طریق عمل ظہور پذیر ہوا۔

سورۃ ۲۱، آیت ۳۰۔

کیا وہ لوگ جنہوں نے (نبی کی بات ماننے سے)

الْحَرِيدَاتِ كَفَرُوا أَتَى

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ كَانَتْ
رَتْقًا فَفَتَقْنَهُمَا وَجَعَلْنَا
مِنَ السَّمَاءِ كُلِّ مَشْيٍ سَحَابًا
أَفَلَا يُؤْمِنُونَ

انکار کر دیا ہے غور نہیں کرتے کہ یہ سب
آسمان اور زمین باہم ملے ہوئے تھے۔ پھر ہم
نے ان کو جدا کیا اور پانی سے ہر زندہ چیز
کو پیدا کیا؟ کیا وہ ہمارے اس خلاق کو
نہیں مانتے۔

سورہ ۲۱ - آیت ۱۱ -

اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین کی تخلیق کے موضوع پر غور و نحوص کی دعوت
دینے کے بعد یہ بتانے کا حکم دیتا ہے۔

پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا جو اس
وقت محض دھواں تھا۔ اس نے آسمان اور
زمین سے کہا۔

ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ
وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا
وَاللَّارِضِ ...

اس کے بعد اطاعت کے احکام ہیں جن کا حوالہ صفحہ ۳۸ پر دیا گیا ہے۔
ہم "حیات کی ابتداء پانی سے" کے موضوع کی جانب بعد میں مراجعت کریں گے اور دیگر
حیاتیاتی مسائل کے ساتھ جو قرآن میں اٹھائے گئے ہیں ان کا جائزہ لیں گے۔ فی الحال یاد کرنے
کے قابل سب اہم امور حسب ذیل ہیں۔

(۱) نہایت چھوٹے ذرات پر مشتمل ایک کیسی مرغولہ کے وجود کا ذکر، اس لیے کہ یہی وہ بات
ہے جس کے ذریعہ لفظ دھوئیں (عربی میں دُخَان) کی توضیح و تشریح کی جاسکتی ہے۔ دھواں
عموماً ایک کیسی تہہ جمع کم و بیش مستحکم تعلیق کی حالت میں مہین ذرات سے مرکب ہوتا ہے، یہ ذرات ایسے
مادہ کی مٹھوس اور رقیق حالتوں پر مشتمل ہوتے ہیں جن کا درجہ حرارت زیادہ یا کم ہوتا ہے۔

۱۔ کائنات کے وجود میں آنے کا جدید ترین نظریہ یہ ہے کہ ابتداءً صرف توانائی تھی۔ اسی نے بعد میں مادہ کی شکل اختیار کر لی۔
یہ وہ ابتداءً کیسی یا دُخَان کی شکل میں ظاہر ہوا۔ بعد ازاں اس میں سے بادلوں کی طرح کے ٹکڑے ٹوٹ ٹوٹ کر سدیم وجود
میں آئے جن سے کہکشائیں بنیں۔ اس عمل کے لیے بھی دو طریقے بیان کئے جاتے ہیں ایک کائناتی جوہر کا اور دوسرا
حالت قائمہ کا پہلی نظریہ کے مطابق شروع میں ایک بہت بڑا جوہر تھا جس میں الیکٹرون اور پروٹون منتشر حالت
میں ٹھنسنے ہوئے تھے۔ پھر ایک دھماکے کے ساتھ یہ جوہر پھٹا اور مادہ پھیل گیا۔ الیکٹرون اور پروٹون کی ترتیب
قائم ہوئی جس سے کیسی مادہ تیار ہوا۔ دوسرے نظریہ کے بموجب توانائی نے رفتہ رفتہ مادہ کی شکل اختیار کی
اور سدیم وجود میں آئے۔ یہ سلسلہ اب بھی جاری ہے اور کائنات میں وسعت پیدا ہو رہی ہے (مترجم)

(ب) ایک بنیادی سادہ سے مادہ میں جس کے عناصر ابتداً باہم گتھے ہوئے تھے (رتق) ایک دوسرے سے جیدائی (فتق) کا حوالہ۔ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ عربی میں "فتق" ٹوٹنے، منتشر ہونے اور جدا ہونے کا عمل ہے اور "رتق" آمیزش ہونے یا عناصر کے اس طرح باہم مربوط ہونے کا نام ہے کہ ان سے مل کر ایک متجانس کل بن جائے۔
ایک کل میں افتراق کے اس عمل کو اکتاب کی دوسری عبارتوں میں بھی بیان کیا گیا ہے اور اسی میں متعدد عالموں کا حوالہ دیا گیا ہے۔ قرآن کی پہلی سورۃ کی پہلی ہی آیت میں ابتداء ہی اس طور پر ہوئی ہے۔

شروع کرتا ہوں اللہ کے نام جو رحمن و رحیم ہے۔
سب اچھی تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام عالموں
کا رب ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ

لفظ "عالمین" قرآن میں متعدد بار استعمال ہوا ہے آسمانوں کا ذکر بھی کثرت تعداد کے ساتھ کیا گیا ہے۔ بات محض ان کی جمع کی شکل کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ ان کی علامتی تعداد سات کی وجہ سے ہے۔ یہ عدد پورے قرآن میں مختلف عددوں کو ظاہر کرنے کے لیے ۲۲ مرتبہ استعمال ہوا ہے اس کا مفہوم اکثر "بہت" ہوتا ہے۔ اگرچہ ہم صحیح طور پر نہیں جانتے کہ اس عدد کا یہ مفہوم کس لیے لیا جاتا ہے معلوم ہوتا ہے کہ یونانی اور رومی بھی سات کے عدد کو ایک غیر معینہ کثرت تعداد کا تصور لگاتے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ قرآن میں سات کا عدد خود آسمانوں (سموات) کو ظاہر کرتا ہے اس سے صرف آسمان مراد لیے جاتے ہیں۔ ایک جگہ آسمانوں کے سات راستوں کی جانب بھی اشارہ ہے۔

سورۃ ۲ - آیت ۲۹ -

وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کی
ساری چیزیں پیدا کیں۔ پھر اوپر کی طرف توجہ
فرمائی اور سات آسمان استوار کیے اور وہ
ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔

هُوَ الَّذِیْ خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِی
الْاَرْضِ جَمِیْعًا ثُمَّ اسْتَوٰی اِلَی
السَّمٰوٰتِ فَسَوَّھُنَّ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ
وَهُوَ بِکُلِّ شَیْءٍ عَلِیْمٌ

سورۃ ۲۳، آیت ۱۷ -

اور تمہارا اوپر ہم نے سات راستے بنائے

وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَکُمْ سَبْعَ طَرٰقٍ

۱۷ سدھی مادہ عمل انجام دے ستاروں کی شکل اختیار کر گیا۔ پھر ان ستاروں میں افتراق کا عمل ہو کر سیارے بنے۔
جن میں سے ایک سیارہ زمین ہے۔ جو نظام شمسی سے مربوط ہے۔ (مترجم)

وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ ۝

تخلیق کے کام سے ہم کچھ نا بلند نہ تھے۔

سورۃ ۶۷ - آیت ۳ :

الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا
مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ
تَفَوُّتٍ ۖ فَارْجِعِ الْبَصَرَ ۖ هَلْ
تَرَى مِنْ فُطُورٍ ۝

خدا ہی کی وہ ذات ہے جس نے تہ بہ تہ سات
آسمان بنائے۔ تم رحمان کی تخلیق میں کسی قسم کی
بے ربطی نہ پاؤ گے۔ پھر پلٹ کر دیکھو، کہیں
تمہیں کوئی خلل نظر آتا ہے۔

سورۃ ۷۱ - آیات ۱۵، ۱۶ :

أَلَمْ تَرَ ذَا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ
سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا ۖ وَجَعَلَ
الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا ۖ وَجَعَلَ
الشَّمْسَ سِرَاجًا ۝

کیا دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے کس طرح سات
آسمان تہ بہ تہ بنائے اور ان میں چاند
کو نور اور سورج کو چراغ بنایا۔

سورۃ ۷۸ - آیت ۱۲ :

وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا
شِدَادًا ۖ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا
وَهَا جَاه ۝

اور تمہارے اوپر ہم نے سات مضبوط آسمان
قائم کیے اور ایک تہایت روشن اور گرم
چراغ پیدا کیا۔

یہاں گرم چراغ سے مراد سورج ہے۔

قرآن شریف کے مفسرین ان سب کی سب آیتوں پر متفق ہیں کہ سات کا عدد کثرت کے
اظہار کے سوا کچھ نہیں۔

لہذا بہت سے آسمان ہیں اور بہت سی زمینیں ہیں۔ اور قرآن کے قاری کو یہ جان کر کچھ کم حیرت

لے یہ بات قابل توجہ ہے کہ جہاں بائبل میں سورج اور چاند دونوں کو روشنیاں کہا گیا ہے۔ یہاں جیسا
کہ قرآن میں ہمیشہ ہی ہوا ہے، ان کو مختلف نام دیئے گئے ہیں پہلے کو روشنی (نور) کہا گیا ہے اور دوسرے
کو اس آیت میں ایک لیے چراغ (سراج) سے مشابہ قرار دیا گیا ہے جس سے روشنی پیدا ہو رہی ہے۔ ہم بعد میں
دیکھیں گے کہ کس طرح اور دوسری صفتیں بھی سورج کے لیے استعمال کی جاتی ہیں۔

قرآن سے ہٹ کر بھی ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ سے کتابوں میں سات کا
عدد کثرت کے معنوں میں استعمال ہوا ہے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابتدائی صدیوں ہی ان متون میں
یہ کام میں لایا گیا ہے جن میں آپ کے اقوال بیان ہوئے ہیں (یعنی احادیث)

نہیں ہوتی کہ ہماری زمین کی طرح کائنات میں اور بھی زمینیں ہو سکتی ہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے جس کی تصدیق ہمارے زمانہ میں بھی ابھی انسان نہیں کر سکا ہے۔

تاہم سورہ ۶۵ کی آیت ۱۲ سے مندرجہ ذیل پیشینگوئی ہوتی ہے۔

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَ
مِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ
الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ
اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝
وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ
عِلْمًا ۝

اللہ وہ ہے جس نے سات آسمان بنائے اور
زمین کی قسم سے بھی ان ہی کے مانند ان
کے درمیان حکم نازل ہوتا رہتا ہے (یہ
بات تمہیں اس لیے بتانی جا رہی ہے تاکہ تم
جان لو کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اور
یہ کہ اللہ کا علم ہر چیز پر محیط ہے۔

چونکہ ۷ کا عدد ایک غیر معین کثرت کو ظاہر کرتا ہے (جیسا کہ ہم دیکھ چکے ہیں) اس لیے اس سے
یہ نتیجہ نکالنا ممکن ہے کہ قرآنی متن میں صاف طور پر ہماری اپنی زمین کے علاوہ ایک سے زیادہ زمینوں
کے وجود کا اظہار ہو رہا ہے۔ یعنی کائنات میں اس کے مانند اور زمینیں بھی ہیں۔
ایک اور مشاہدہ جو قرآن کے بیسیویں صدی کے کسی قاری کو محو حیرت کر دیتا ہے یہ حقیقت
ہے کہ آیات قرآنی میں مخلوقات کی تین جماعتوں کا حوالہ ملتا ہے یعنی

_____ وہ اشیاء جو آسمانوں میں ہیں۔

_____ وہ اشیاء جو زمین پر ہیں۔

_____ وہ اشیاء جو آسمانوں اور زمین کے درمیان ہیں۔

ذیل میں ان آیات میں سے کئی درج ہیں۔

_____ سورہ ۲۰- آیت ۶-

وہی مالک ہے ان سب چیزوں کا جو آسمانوں
اور زمین میں ہیں اور جو زمین و آسمان کے
درمیان ہیں اور جو مٹی کے نیچے ہیں۔

لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي
الْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ
الْثَّرٰى ۝

_____ سورہ ۲۵، آیت ۵۹؛

وہ ذات جس نے چھ دنوں (ادوار) میں زمین
اور آسمانوں کو اور ان ساری چیزوں کو بنا کر رکھ
دیا جو آسمانوں اور زمین کے درمیان ہیں۔

الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي
سِتَّةِ اَيَّامٍ ۝

— سورۃ ۳۲، آیت ۴:

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ
أَيَّامٍ

وہ اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو
اور ان ساری چیزوں کو جو ان کے درمیان ہیں
چھ دنوں (ادوار) میں پیدا کیا۔

— سورۃ ۵، آیت

وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ
وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا
مَسْتَأْذِنُ لَغُوبٍ لَهُ

ہم نے زمین اور آسمانوں کو اور ان کے درمیان
کی ساری چیزوں کو چھ دنوں میں پیدا کر دیا
اور ہمیں کوئی تکلیف لاحق نہیں ہوئی۔

قرآن میں اس بات کا ذکر کہ ”آسمانوں اور زمین کے درمیان کیا ہے“ مندرجہ ذیل آیات
میں پھر ملتا ہے: سورۃ ۲۱، آیت ۱۶ اور سورۃ ۴۲، آیت ۷، اور آیت ۸۸: سورۃ ۷۸،
آیت ۸۷: سورۃ ۱۵، آیت ۸۵: سورۃ ۴۶، آیت ۳: سورۃ ۴۸، آیت ۸۵۔

آسمانوں کے ماورا اور زمین سے باہر یہ تخلیق جس کا ذکر کئی مرتبہ کیا گیا ہے وہ چیز بے جس
کا تصور مشکل ہے۔ ان آیات کو سمجھنے کے لیے کائنات کے ماورائے کھشائی مادہ کے بارے میں
انسان کے جدید ترین مشاہدات و تجربات کا حوالہ دینا پڑے گا۔ اور کائنات کی تشکیل کے سلسلہ
میں عصری سائنس نے جو تصورات قائم کیے ہیں ان کی جانب رجوع کرنا ہوگا۔ سادہ ترین سے شروع
کر کے انتہائی پیچیدہ باتوں تک جانا پڑے گا۔ درج ذیل پارہ کے موضوعات یہی ہیں۔

لیکن ان تھلے سائنسی مواد تک پہنچنے سے قبل یہ بات قرآن مصلحت ہے کہ ان مخصوص نکات
کا اعادہ کر دیا جائے جن پر قرآن ہمیں تخلیق کے بارے میں آگاہ کرتا ہے۔ سابقہ اقتباسات کے
مطابق یہ نکات حسب ذیل ہیں:

۱۔ عام تخلیق کے لیے چھ ادوار کا ہونا۔

۲۔ آسمانوں اور زمین کی تخلیق کے مارج کا آپس میں جڑا ہونا۔

۳۔ کائنات کی تخلیق ایک ابتدائی نوعیت کے ایسے مادہ سے جو ایک بڑے توڑے کی شکل

میں تھا اور بالآخر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔

لہٰذا یہ بیان کہ تخلیق کے کام سے خداوند قدوس کو کوئی تکلیف لاحق نہیں ہوتی صریحی طور پر بائبل کے اس
بیان کے جواب میں ہے جس کا حوالہ موجودہ کتاب کے پہلے حصہ میں دیا گیا ہے۔ جہاں یہ بات بتائی گئی ہے
کہ گزشتہ چھ دنوں کی محنت کے بعد اللہ تعالیٰ نے ساتویں دن آرام کیا۔

۴۔ آسمانوں اور زمینوں کی کثرت
 ۵۔ آسمانوں اور زمین کے درمیان ایک متوسط تخلیق کا وجود
 کائنات کی تشکیل سے متعلق بعض جدید سائنسی معلومات

نظام شمسی

زمین اور سیارے جو سورج کے گرد گردش کر رہے ہیں ان سے الیاد ثلاثہ کا ایک منظم جہاں تیار ہوا ہے جو ہمارے دنیوی پیمانہ سے نہایت وسیع و عریض اور قوی الجذبہ معلوم ہوتا ہے۔ زمین سورج سے تقریباً ۹ کروڑ ۳۰ لاکھ میل دور ہے یہ ایک انسان کے لیے بہت بڑا فاصلہ ہے لیکن اس فاصلہ کے مقابلہ میں یہ بہت ہی کم ہے جو سورج کا نظام شمسی میں واقع بعید ترین سیارے (پلوٹو) سے پورے پورے اعداد میں دیکھا جائے تو یہ فاصلہ زمین سے سورج کا فاصلہ کا ۴۰ گنا ہے یعنی تقریباً تین ارب ستر سٹھ کروڑ بیس لاکھ میل ہے۔ اس فاصلہ کو دگنا کر دیا جائے تو ہمارے نظام شمسی کی سب سے بڑی وسعت معلوم ہو جاتی ہے۔ سورج کی روشنی کو پلوٹو تک پہنچنے میں تقریباً ۵ گھنٹے لگتے ہیں حالانکہ یہ فاصلہ ۱۸۶۰۰۰ میل فی سیکنڈ کی ہیڈیت ناک رفتار سے طے ہوتا ہے۔ لہذا روشنی کو ان ستاروں سے جو معلوم سماوی جہاں کے اس سرے پر واقع ہیں ہم تک پہنچنے میں اربوں سال لگ جاتے ہیں۔

کہکشاں

سورج جس کے ارد گرد کے دیگر سیاروں کی طرح ہم بھی ایک طفیلی ہیں۔ یذات خود ایک گل کے جس کو کہکشاں کہا جاتا ہے۔ ایک کھرب انتہائی چھوٹے چھوٹے ارکان میں سے ایک ہے موسم گرما کی کسی خوشگوار رات میں تمام قضا ان ستاروں سے بھری ہوئی معلوم ہوتی ہے جس سے وہ چیز بنتی ہے جس کو آکاش گنگا کہا جاتا ہے۔ اس مجموعہ کی وسعتیں بے پناہ ہیں جبکہ روشنی نظام شمسی کو گھنٹوں کی اکائیوں میں طے کرتی ہے اس کو ہماری کہکشاں کے ستاروں کے بے انتہا گتھے ہوئے مجموعہ کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک جانے میں تخمیناً ۹۰۰۰۰ سال کی مدت درکار ہوگی۔

تاہم وہ کہکشاں جس سے ہمارا تعلق ہے۔ باوجودیکہ اس قدر حیرت خیز طور پر وسیع ہے۔ لیکن سموات کا محض ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ آکاش گنگا کی طرح ستاروں کے اور یو پیکر ذخیرے یا مجموعے ہیں جو ہماری کہکشاں کے باہر واقع ہیں۔ ان کو دریافت ہونے سے پہلے سال سے کچھ زیادہ کی مدت ہوئی

اسے ان کو ماورائے کہکشاں جہاں یا ماورائے کہکشاںی سدیم کہا جاتا ہے بعض ان میں سے ستاروں کی بقیہ اگلے صفحہ پر

ہے جب علم ہیئت کو ایک ایسے بھری آلہ کے استعمال کا موقع ملا جو ایسا ہی پُر فریب تھا جیسا کہ وہ آلہ جس کی بنا پر ریاستہائے متحدہ میں ماؤنٹ ولسن کی دور بین بنانے میں مدد ملی۔ اس طرح ایسے الگ الگ کہکشاکی جہان اور کہکشاؤں کے مادوں کی ایک نہایت کثیر تعداد دریافت ہو چکی ہے جو اتنی دور واقع ہیں کہ ان کے لیے خاص قسم کی اکائیاں وضع کرنا ضروری ہو جو نوری یا روشنائی سال اور پارسک کے نام موسوم کی جاتی ہیں (پارسک وہ فاصلہ ہے جس کو ایک لاکھ چھبیس ہزار میل فی سینڈ کی رفتار سے طے کرنے میں روشنی کو ۳۶۵ سال یعنی تقریباً سو اسی سال لگ جاتے ہیں۔)

کہکشاؤں، ستاروں اور نظامہائے سیارگان کی تشکیل اور ان کا ارتقاء جس بے پناہ وسیع مکان کو اس وقت کہکشا میں گھیرے ہوئے ہیں وہاں ابتدا کیا تھا؟ جدید سائنس اس سوال کا جواب کائنات کے ارتقاء میں ایک خاص وقفہ کی شکل میں دے سکتی ہے۔ یہ اس وقت کے طول کو اعداد میں بیان نہیں کر سکتی جو اس وقفہ اور ہمارے درمیان پھیلا ہوا ہے۔ اس ابتدائی زمانہ میں جس کا سائنس ہمیں پتہ دے سکتی ہے اس کے پاس اس بات کی قومی دلیل موجود ہے کہ کائنات کی تشکیل ایک ایسی کیسی مادے سے ہوئی تھی جو ہائیڈروجن اور ہیلیم کی کچھ مقدار سے مرکب تھا اور آہستہ آہستہ گردش کر رہا تھا۔ یہ سدیم انجام کار متعدد ٹکڑوں میں بٹ گیا جن کی لمبائی چوڑائی اور جن کا مقدار مادہ بہت زیادہ تھا جو فی الحقیقت اتنا زیادہ تھا کہ کجی طبیعیات کے ماہرین اس کے مقدار مادہ کا اندازہ سورج کے موجودہ مادہ کے ایک ارب لگا کر ایک کھرب گنے تک لگاتے ہیں (مؤخر الذکر اس قدر مقدار مادہ کو ظاہر کرتا ہے جو زمین کے مقدار مادہ سے تین لاکھ گنے

سابقہ حاشیہ :- ایسے ہی مجموعے بن گئے ہیں جیسا ہمارا کہکشاکی جہان ہے اور بعض ہنوز گرد و بخارا و گیس کے مرغولے ہیں جو بڑی تیزی سے ایک دوسرے سے جدا ہو رہے ہیں اور کائنات میں وسعت پیدا کر رہے ہیں ابھی تک جن سدیموں کو دور بینوں کی مدد سے دیکھ لیا گیا ہے ان کی تعداد ہی دس کروڑ ہے۔ ان کے علاوہ اور کتنے ہیں ان کے بارے میں سولے خدا کے اور کسی کو علم نہیں۔ جو سدیم یا کہکشاکی جہان ہم سے قریب ترین ہے اس کا فاصلہ ہی اتنا ہے کہ وہاں سے روشنی کو ہم تک پہنچنے میں تقریباً نو لاکھ سال لگ جاتے ہیں۔ یہ سدیم مرآۃ السلسلہ (اینڈرومیڈا) نامی مجمع النجوم میں واقع ہے اور خالی آنکھ سے دکھائی دے جاتا ہے۔ (مترجم) آلہ ماؤنٹ ولسن کی دور بین کے شیشہ کا قطر ۱۰۰ اینچ اور ماؤنٹ پائور کا ۲۰۰۔ ۱۰۰ اینچ ہے۔ دونوں ایری زون میں (مترجم) آلہ روشنائی سال یا نوری سال اس فاصلہ کو کہا جاتا ہے جو روشنی ۱۸۶۰۰۰ میل فی گھنٹہ کی رفتار سے ایک سال میں طے کرتی ہے۔ زمین پر استعمال ہونے والے پیمانوں کے مطابق یہ فاصلہ ٹھانڈا کھرب، ستر ارب میل کے برابر ہوتا ہے۔ پارسک اس فاصلہ کو کہا جاتا ہے جہاں زمین سے سورج کا فاصلہ (یعنی ۹ کروڑ ۳۰ لاکھ میل) ایک سینڈ کا زاویہ بنا تا ہے۔ پارسک ۳۶۵ نوری سال یا ایک نیل ۹۲ کھرب میل کے لگ بھگ ہوتا ہے (مترجم)

سے بھی زیادہ ہے) ان اعداد سے ابتدائی گیسو مقدار مادہ کے ان ٹکڑوں کے عظیم جثوں کا کچھ تصور ملتا ہے جن سے کہکشاں پیدا ہوئیں۔

ایک جدید انشقاق سے ستاروں کی تشکیل ہونے والی تھی۔ درمیان میں اتحاد کا عمل حاصل ہو گیا جس میں کشش قوتیں روبہ عمل آئیں (اس لیے کہ یہ اجسام زیادہ سے زیادہ سرعت سے حرکت اور گردش کر رہے تھے) ان ہی کے ساتھ دباؤ اور مناطیسی میدانوں اور اشعاع کا اثر ظہور پذیر ہوا۔ ستارے جیسے جیسے سکڑتے گئے اور ان کی کشش قوتیں، حرارتی توانائی میں تبدیل ہوتی گئیں ان میں چمک پیدا ہوتی گئی۔ مرکزی حرارت کے رد عمل رو بکار آئے اور انشقاق کے عمل سے ہلکے جوہروں کی جگہ بھاری جوہر بنے۔ اس طرح ہائیڈروجن سے ہلیم میں، پھر کاربن اور آکسیجن میں تبدیلی ہوئی جو دھاتوں اور فلزات پر پہنچ کر اختتام پذیر ہوئی۔ اس طرح ستاروں کی اپنی ایک زندگی ہے اور جدید علم مہیبت ان کو ان کے موجودہ ارتقائی درجہ کے مطابق اقسام میں بانٹتے ہیں۔

ستاروں کا ایک مرحلہ مہمات بھی ہے۔ اپنے ارتقاء کے آخری دور میں اکثر ستاروں کو شدت کے ساتھ پھٹتے ہوئے دیکھا گیا ہے جس سے وہ سچ سچ کی لائیں بن جاتے ہیں۔

سیارات اور خصوصیت سے زمین کی ابتداء علیحدگی کے عمل سے ہوئی جو ایک ایسے بنیادی نوعیت کے ٹکڑے سے شروع ہوئے جو ابتداءً ایک صحابہ تھا۔ یہ وہ حقیقت ہے جس پر پچیس سال سے زیادہ کی مدت سے کوئی تنازعہ اور اختلاف نہیں ہے کہ سورج اسی ایک صحابہ کے اندر کی جانب منجمد ہوا اور سیاروں نے یہی عمل گردو پیش کی صحابی قرص کے اندر دبا ہوا ہے۔ زور اس بات پر ہونا چاہیے۔ اور مضمون زیر غور کے لیے یہی چیز بنیادی اہمیت کی ہے کہ نہ اجرام سماوی مثلاً سورج کی تشکیل میں اور نہ ارضی عناصر کی تشکیل میں کوئی تسلسل ہے بلکہ اس میں معاد کی مماثلت کے ساتھ ایک ارتقائی متوازیت ہے۔

اس موقع پر سائنس ہمیں اس مدت سے آگاہ کرتی ہے جس کے دوران یہ واقعات جن کا ابھی ذکر کیا گیا ہے ظہور پذیر ہوئے۔ اس نظریہ کے مطابق ہماری کہکشاں کی عمر کا اندازہ کم و بیش دس ارب سال لگایا جائے تو نظام شمسی کی تشکیل کچھ اوپر پانچ ارب سال بعد ہوئی۔ قدرتی تابکاری کے

اہ یہاں یہ بنیاد بنا ضروری ہے کہ یہ ایک نظریہ ہے جس کو حقیقت نہیں سمجھا چاہیے۔ اس سے پہلے بھی کئی نظریے قائم ہوئے اور مسترد کئے گئے مثلاً کافی عرصہ تک لیلیس کا نظریہ مقبول رہا پھر مدی نظریہ کو حقیقت سمجھا جاتا رہا۔ اس کے بعد اس میں رد و بدل ہوتی رہی اور اب اس نظریہ کو پر اکثر سائنسدانوں کا اتفاق ہے لیکن معلوم نہیں کب اس کا بھی قلع قمع ہو جائے۔ حقیقت کا حال سوائے خدا کے اور کسی کو نہیں اور نہ ہو سکتا ہے۔ تمام عمارت قیاسات پر قائم ہے۔ (مترجم)

عمل سے زمین کی عمر اور اُس وقت کا تعیین ساڑھے چار ارب سال کرنا ممکن ہو جاتا ہے جب سورج کی تشکیل عمل میں آئی۔ اور بعض سائنسدانوں کے حسابات کے مطابق موجودہ زمانہ میں یہ عدد دس کروڑ سال کی بقدر کم زیادہ ہو سکتے ہیں۔ یہ صحت قابل تحسین ہے اس لیے کہ اگر وڑ سال کی مدت ہمارے نزدیک کافی طویل ہے لیکن جو نسبت بیٹھتی ہے وہ زیادہ سے زیادہ غلطی تقسیم زیر غور پور می مدت $\frac{1}{765}$ یعنی ۲۶۲ فیصد ہے۔

بتا رہیں نجمی طبیعیات کے ماہرین نے نظام شمسی کی تشکیل سے متعلق عام عمل کے بارے میں بڑی حد تک صحیح معلومات حاصل کر لی ہے۔ اس کا خلاصہ حسب ذیل طریقہ پر بیان کیا جاسکتا ہے: گردش کرتے ہوئے کیسی مادہ کا انجماد اور اُس کا سکڑنا۔ پھر نخت نخت ہو کر سورج اور سیاروں کا اُس کی جگہ لے لیتا۔ ان ٹکڑوں میں زمین بھی ہے۔ جو معلومات ابتدائی سدیم کے بارے میں اور اُس طریقہ کے متعلق جس سے یہ سدیم ان گنت ستاروں میں بٹ کر کہکشاؤں کی شکل میں مجتمع ہوئے حاصل ہوئی وہ عالمین کے تصور کے تصور کے متعلق ہونے میں قطعاً کوئی شبہ باقی نہیں رہنے دیتی۔ تاہم اس سے کائنات کے اندر کسی ایسی چیز کے وجود کے یقینی ہونے کی شہادت فراہم نہیں ہوتی جو قریب قریب یا غیر واضح طور پر زمین سے مشابہ ہو۔

عالمین کے تصور کا تصور

مذکورہ بالا بیان کے باوجود، موجودہ دور کے نجمی طبیعیات کے ماہرین کا خیال ہے کہ اس بات کا سیدھا مکان ہے کہ کائنات میں زمین کے مانند اور بھی سیارے موجود ہوں۔ یہاں تک نظام شمسی کا تعلق ہے کوئی شخص بھی اس امکان کا سنجیدگی سے قائل نہیں ہے کہ اس نظام میں کسی دوسرے سیارے پر عام حالات وہی ہوں گے جو زمین پر ہیں۔ لہذا ہمیں ایسے حالات نظام شمسی کے باہر کہیں تلاش کرنے پڑیں گے۔ اس نظام کے باہر ان کے وجود کے امکان کو حسب ذیل دلائل کی بنا پر اغلب سمجھا جاتا ہے۔

خیال کیا جاتا ہے کہ ہمارے کہکشان جہان میں ہی ایک کھرب کے نصف ستارے ایسے ہوتے چاہئیں جن کے سورج کی طرح نظام سیارگان ہوں۔ پچاس ارب ستارے یقیناً ایسے ہیں جو سورج کے مانند نہایت آہستہ آہستہ گردش کر رہے ہیں۔ یہ ایک ایسی خصوصیت ہے جو اس امر پر

۱۵ جہاں تک چاند کا تعلق ہے۔ زمین کی اپنی گردش محوری کے نتیجہ میں بالآخر اُس کا پیدا ہو کر وجود میں آنا ایک تسلیم شدہ امکان ہے۔

دلالت کرتی ہے کہ وہ ایسے سیاروں سے گھرے ہوئے ہیں جو ان کے طفیلی ہیں۔ یہ ستارے اتنے بعید
فاصلہ پر ہیں کہ ان کے امکانی سیارے ناقابل مشاہدہ ہیں۔ لیکن بعض حرکتی خاصیتوں کے سبب ان
کی موجودگی کے امکان کو نہایت قوی سمجھا گیا ہے۔ ستارہ کے خط حرکت میں حقیقت سا ارتعاش
ایک ساتھی طفیلی سیارے کی موجودگی پر دلالت کرتا ہے۔ چنانچہ ستارہ برنارڈ کاغالیان کم از کم ایک
رقیق سیارہ ضرور ہے جس کا مقدار مادہ، مشتری کے مقدار مادہ سے بھی زیادہ ہے اور جس کے دو
طفیلیوں کے وجود کا بھی امکان ہے۔ جیسا کہ پی۔ کیپرین لکھتا ہے۔

”اس شہادت سے اس حقیقت کی نشاندہی ہوتی ہے کہ نظام مہائے سیارگان تمام
کائنات میں کثرت سے پھیلے ہوئے ہیں۔ نظام شمسی اور کہہ ارض ہی اس معاملہ میں
منفرد نہیں ہیں۔“

اور ایک منطقی نتیجہ کے طور پر

”ان سیاروں کی طرح جو اس میں گھریے ہوئے ہیں پوری کائنات میں حیات بھی پھیلی ہوئی ہے۔
بالخصوص ان جگہوں میں جہاں وہ طبعی کیمیاوی حالات پائے جاتے ہیں جو اس کے نشوونما پانے اور ترقی
کرنے کے لیے ضروری ہیں۔“

بین کوہی مادہ

بنابریں کائنات کی تشکیل کا بنیادی عمل ابتدائی سدیم کے مادہ کے انجماد سے ہوا جس کے بعد اس
کی تقسیم ٹکڑوں میں ہو گئی جنہوں نے ابتداء کہکشانی مرغولوں کی شکل اختیار کی۔ مؤخر الذکر اپنی باری سے
ٹوٹ کر ستارے بنے جنہوں نے اس عمل کو دہراتے ہوئے ثانوی اجرام یعنی سیاروں کو جنم دیا۔ ان
متواتر علیہ گویوں سے مخصوص ارکان کے مجموعوں کے درمیان کچھ ایسا مادہ رہ گیا جس کو غالباً باقیات کا نام
دیا جاسکے۔ ان باقیات کا زیادہ سا تئسی نام ”بین کوہی کہکشانی مادہ“ ہے، اس کو مختلف طریقوں سے
بیان کیا گیا ہے۔ کچھ روشن سدیم لیسے ہیں جو دوسرے ستاروں سے حاصل شدہ روشنی کو منعکس
کرتے ہیں۔ اور اگر نجی طبیعیات کے ماہرین کی اصطلاح استعمال کی جائے تو یہ سدیم شاید گرو وغیر
اور دھوئیں (دخان) سے مرکب ہیں۔ اس کے بعد کچھ تاریک سدیم ہیں جن کی دیانت کم ہے اور جن
میں وہ بین کوہی مادہ شامل ہے جو اور بھی زیادہ رقیق ہے اور جس کی خاصیت یہ ہے کہ فلکیات
میں نور پیمائے کی پیمائشوں میں مزاحمت کا موجب ہوتا ہے۔ خود کہکشاؤں کے مابین مادہ کے قناطر
کی موجودگی کے بارے میں تو کوئی شک و شبہ نہیں کیا جاسکتا۔ اگرچہ یہ گیس بہت ہی رقیق ہو سکتی ہیں

تاہم یہ حقیقت کہ وہ اتنے لمبے چوڑے مکان کو گھیرے ہوئے ہیں اس وسیع فاصلہ کو دیکھتے ہوئے جو کہکشاؤں کے درمیان پھیلا ہوا ہے ایک ایسے مقدار مادہ سے مطابقت رکھتی ہیں جو اول الذکر کی کثافت کم ہونے کے باوجود کہکشاؤں کی مجموعی مقدار مادہ سے غالباً زیادہ ہے۔ اے۔ لو کو ان بین کہکشانی مادوں کی موجودگی کو بنیادی اہمیت کا حامل سمجھتا ہے جو کائنات کے ارتقار کے تصورات کو بڑی حد تک تبدیل کر سکتے ہیں۔

اب ہم کو کائنات کی تخلیق کے ان بنیادی تصورات کی جانب مراجعت کرنا چاہیے جو قرآن سے لیے گئے تھے اور جدید سائنسی معلومات کی روشنی میں ان پر غور کرنا چاہیے۔

تخلیق سے متعلق قرآن میں دی ہوئی معلومات کے ساتھ مقابلہ

ہم ان پانچ مخصوص نکات کا جائزہ لیں گے جن پر تخلیق سے متعلق قرآن میں معلومات فراہم کی گئی ہیں۔

(۱) آسمانوں اور زمین کے چھارادوار، قرآن کے بموجب اجرام سماوی اور زمین کی تشکیل اور موخر الذکر کی ترقی پر محیط ہیں یہاں تک کہ وہ (مع اپنے سامان زیست کے) انسان کا مسکن بنی۔ جہاں تک کہ زمین کا تعلق ہے اس کے جس حوادث کا قرآن میں ذکر کیا گیا ہے وہ چارادوار میں رونما ہوئے۔ غالباً ان سے وہ چار ارضیاتی ادوار مراد لیے جائیں گے جن کا جدید سائنس میں ذکر ہے اور جن میں سے دو رابع میں جیسا کہ ہمیں معلوم ہے انسان کا ظہور ہوا۔ یہ بالکل ایک مفروضہ ہے کیونکہ اس سوال کا کسی شخص کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔

لیکن یہ بات قابل غور ہے کہ اجرام سماوی اور زمین کی تشکیل جیسا کہ سورہ ۴۱ کی آیات ۹ تا ۱۲ میں بیان کیا گیا ہے دو کیفیات کی طالب ہے۔ اگر ہم سورج اور اس کی ذیلی تخلیق زمین کو بطور مثال سامنے رکھیں (کیونکہ یہ صرف وہ شے ہے جس تک ہماری رسائی ہے) تو اس کے بارے میں سائنس میں یہ اطلاع بہم پہنچاتی ہے کہ ان کی تشکیل ابتدائی قسم کے سدیم کے انجماد اور بعد میں ان کی ایک دوسرے

۱۔ ان چارادوار کی تقسیم ماہر ارضیات اس طرح کرتے ہیں (۱) ابتدائی دور (یکوزوٹیک) جس کا زمانہ ۶۰۰ ملین سال (۶۰ کروڑ سال) سے قبل کا۔ (۲) قدیم دور (پیلیوزوٹیک) جس کا زمانہ ۶۰۰ تا ۲۲۵ ملین سال (۲۲ کروڑ ۵۰ لاکھ سال تا ۶۰ کروڑ سال) کا (۳) وسطی دور (میسوزوٹیک) جس کا زمانہ ۶۰ تا ۲۲۵ ملین (۶ کروڑ تا ۲۲ کروڑ ۵۰ لاکھ سال) کا اور (۴) جدید دور (کینوزوٹیک) جس کا زمانہ ۲۰ ملین (۲ کروڑ سال) سے بعد کا بتایا گیا ہے۔

ان بڑے بڑے ادوار کو پھر چھوٹے ادوار میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ان ہی چھوٹے ادوار میں درجہ ہے جو جدید دور کا آخری حصہ (منزجم) ہے

سے علیحدگی کے عمل سے ہوتی ہے۔ یہ بالکل وہی بات ہے جو قرآن نہایت صاف طور پر بتاتا ہے۔
جب وہ ایک سماوی دُخان سے شروع کر کے اس عمل کا حوالہ دیتا ہے جس سے مختلف مادوں کی آمیزش (رتق) ہوئی اور نتیجتاً وہ ایک دوسرے سے جدا ہو گئے (فتق) لہذا قرآن کریم کے بیان کردہ حقائق اور سائنس کے حقائق کے مابین مکمل طور پر مطابقت ہے۔

(۲) سائنس ایک ستار (جیسے سورج) اور اُس کے طفیلی (جیسے زمین) کی تشکیل کے دو مدارج کے یا ہم ملے ہونے کو ظاہر کرتی ہے۔ آپس کا یہ تعلق قرآن کے متن میں یقیناً نہایت نمایاں ہے۔
(۳) کائنات کے ابتدائی مرحلہ میں دُخان کی موجودگی جس کا حوالہ قرآن میں موجود ہے اور جس سے مراد مادہ کے زیادہ تر کیسی حالت ہے صریحاً اُس ابتدائی سدیم کے تصور سے مطابقت رکھتا ہے جو جدید سائنس نے پیش کیا ہے۔

(۴) سموات کا تعدد جس کی تعداد قرآن میں بیان کی جاتی ہے اور جس کے مفہوم پر ہم بحث کر چکے ہیں جدید سائنس سے اُس کی تصدیق ان مشاہدات کی بنا پر ہوتی ہے جو نجی طبیعیات کے ماہرین نے کہستانی جہانوں اور ان کی بڑی کثیر تعداد پر کیے ہیں۔ اس کے برخلاف ایسی زمینوں کی کثرت جس طرح کی ہماری زمین ہے۔ (خواہ یہ مماثلت محض چند ہی نکات میں ہو)۔ یہ ایک ایسا تصور ہے جو قرآن میں اُبھرتا ہے لیکن ابھی تک سائنس نے اس کو حقیقت و صداقت بنا کر پیش نہیں کیا تاہم ماہرین اس چیز کو قطعاً ممکن العمل قرار دیتے ہیں۔
(۵) سموات اور ارض کے بیچ میں ایک درمیانی تخلیق کے وجود کو جس کا ذکر قرآن میں ہوا ہے مادہ کے ان قناطر (پلوں) کی ریافت سے مماثل قرار دیا جاسکتا ہے جو باقاعدہ فلکیاتی نظاموں کے ماوراء موجود ہے اگرچہ ان تمام سوالات کی جو قرآن کے بیانات میں پیش ہوئے ہیں سائنسی معلومات سے مکمل طور پر تائید نہیں ہوئی ہے تاہم کسی حالت میں بھی تخلیق کے متعلق قرآن کی فراہم کردہ معلومات اور کائنات کی تشکیل کے بارے میں جدید واقفیت میں قطعاً کوئی تباہی نہیں ہے۔ یہ حقیقت اس قابل ہے کہ اُس سے قرآن کی منزل من اللہ ہونے پر خاص طور پر زور دیا جاسکتا ہے۔ جبکہ عہد نامہ قدیم کا راسخ الوقت متن ان ہی حواذیث کے بارے میں ایسی معلومات بہم پہنچاتا ہے جو سائنسی نقطہ نظر نا قابل قبول ہیں۔ یہ بات مشکل سے عبرت خیز ہوتی ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ بائبل لہ کے مرشدانہ متن میں تخلیق کا بیان اسیریا بابل کے زمانہ میں ان قسین نے تحریر کیا تھا جن کے وہ شرعی مقاصد تھے جن کا ذکر پیشتر کیا جا چکا ہے۔ لہذا انھوں نے ایک ایسا بیان ترتیب دیا جو ان کے ذہنی نظریات سے ہم آہنگ ہوتا تھا۔ بائبل کے بیان اور قرآن کی فراہم کردہ

۱۵۔ یہ متن کلی طور پر ان چند سطور کو پس منظر میں ڈال دیتا ہے جو یہودی اشاعت میں شامل ہیں۔ مؤخر الذکر اس قدر مختصر اور اتنا بہم ہے کہ سائنسدان اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتے۔

معلومات کے درمیان اتنا زبردست فرق جو تخلیق سے متعلق ہے ایک بار پھر اس لیے قابل غور ہے کہ آغاز اسلام سے ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر خواہ مخواہ کا یہ الزام عائد کیا جا رہا ہے کہ آپ نے بائبل کے بیانات کی ہو یہ نقل کر ڈالی ہے۔ جہاں تک تخلیق کا تعلق ہے یہ الزام قطعاً بے بنیاد ہے کوئی شخص جو چودہ سو سال قبل رہا ہو کیسے اُس وقت کے موجود بیان میں اس حد تک تصحیح کر سکتا تھا کہ وہ سائنسی اعتبار سے غیر صحیح مواد کو خارج کر دیتا اور اپنی ذاتی اختراع پر ایسے بیانات پیش کر دیتا جن کی سائنس نے بھی دور جدید میں ہی تائید کی ہے۔ یہ مفروضہ کلیتہً ناقابل قبول ہے تخلیق سے متعلق بیان جو قرآن میں دیا گیا ہے وہ اُس سے بالکل مختلف ہے جو بائبل میں ہے۔

بعض اعتراضات کے جوابات

یقینی طور پر، بعض دوسرے موضوعات سے متعلق بالخصوص مذہبی تاریخ کے بارے میں بائبل اور قرآن میں یکسانیتیں ضرور موجود ہیں۔ علاوہ ازیں اس نقطہ نظر سے یہ بات خاصی دلچسپ ہے کہ یسوع کے خلاف کوئی شخص بھی اس حقیقت کا اظہار نہیں کرتا کہ وہ بھی بائبل کی تعلیمات سے اسی نوع کے حقائق لیتے ہیں۔ یہ بات دراصل مغرب میں بسنے والے حضرات کو اس امر سے باز نہیں رکھتی کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی اپنی تعلیم میں اس قسم کے واقعات کو پیش کرتے پر الزام دیں وہ بھی اس فتوحی کے ساتھ کہ وہ ایک فریبی (نعوذ باللہ من ذلک) شخص تھے اس لیے کہ انھوں نے ان باتوں کو وحی و تنزیل کہہ کر پیش کیا جہاں تک ثبوت کا تعلق ہے لا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن میں وہ باتیں دہرائیں جو آپ کو ربیوں نے بتائی تھیں یا املاک تھیں تو اُس کے لیے اس بیان کے علاوہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ ایک عیسائی راہب آپ کو اسلی قسم کی مذہبی تعلیم دی تھی۔ بہتر ہو گا کہ کوئی شخص دوبارہ اُس بیان کو پڑھے جو آر۔ پلیشر اپنی کتاب محمد کا مسئلہ (یعنی پروولیم و ما جو مٹ) میں اس افسانہ کے بارے میں بتانے کے لیے دیا ہے۔

یکسانیت کا ایک اور نکتہ بھی قرآن میں دیگر بیانات اور عقاید کے دوران پیش کیا جاتا ہے جو نہایت ہی دور لے جاتا ہے غالباً وقت کے اعتبار سے بائبل سے بھی کہیں بعید زمانہ ہیں۔

کچھ زیادہ عمومیت سے گفتگو کی جائے تو پتہ چلے گا کہ آفرینش سے متعلق بعض اساطیر صحف مقدسہ میں سے تلاش کر لیے گئے ہیں۔ مثلاً یہ عقیدہ جو پالیٹیشیا کے باشندے دور اولین کے ان سمندروں کے وجود کے بارے میں رکھتے ہیں۔ جو تاریکی میں لپٹے ہوئے تھے یہاں تک کہ روشنی ہوئی تو وہ الگ الگ ہوئے اور اس طرح آسمان اور زمین بنے۔ یہ اسطوره تخلیق سے متعلق اُس بیان کے مانند ہے جو بائبل میں دیا گیا ہے جنہیں

۱۹۵۲ء - پریس ۱۹۵۲ء -

بلاشبہ ایک نوع کی مماثلت ہے۔ لیکن یہ ایک سطحی سی بات ہوگی اگر بائبل کو یہ الزام دیا جائے کہ اس نے آفرینش کے بارے میں اس اسطورہ کو نقل کر دیا ہے۔

یہ کہنا بھی اس طرح کی ایک سطحی بات ہے کہ دور اولین کا وہ مادہ جس سے ابتدائی مرحلہ میں کائنات کا بیوی تیار ہوا۔ ایک ایسا تصور جو جدید سائنس نے قائم کیا ہے۔ اسکی تقسیم کے بارے میں قرآن کا تصور ہی ہے جو آفرینش سے متعلق کسی نہ کسی شکل میں مختلف اساطیر میں موجود تھا اور قرآن نے اسکو وہیں سے اخذ کیا ہے۔ ان اساطیر عظامہ اور بیانات کا زیادہ وضاحت سے تجزیہ کرنا مناسب ہے۔ ان میں بھی ایک ابتدائی تصور ایسا دکھائی دیتا ہے جو بذات خود معقول ہے اور بعض حالتوں میں اس معلومات سے جس کو آج ہم صحیح سمجھتے ہیں (یا ہمارا خیال ہے کہ ہم اسے صحیح سمجھتے ہیں) سوائے ان تصورات و توہمات کے جو اسطورہ میں اس سے وابستہ کر دیئے گئے ہیں۔ اس کی تائید بھی ہو جاتی ہے یہی حالت اس تصور کی ہے کہ آسمان اور زمین پہلے ایک دوسرے سے ملے ہوئے تھے بعد میں الگ الگ ہو گئے۔ یہ ایک عام تصور رہا ہے جیسا کہ جاپان میں ہے۔ لیکن وہاں جب بیضے کی شبیہ جمع بیوی قبل تکوین کی ایک داستان بیضے کے اندر دنی جاتے کے ایک خم (جیسا کہ تمام بیضوں میں ہوتا ہے) سے جیسا کہ بیان کیا جا چکا ہے وابستہ کر دی جاتی ہے تو یہ تخیلی اضافہ اس تصور کو سنجیدگی کے عنصر سے عاری کر دیتا ہے دوسرے ممالک میں ایک پودے کا تصور اس سے وابستہ کر دیا جاتا ہے۔ اس تصور کے موجب پودا بڑھتا ہے تو اس عمل کے دوران آسمان کو بلندی کی طرف لے جاتا ہے اور اس طرح سموات کو ارض سے علیحدہ کر دیتا ہے۔ یہاں پھر مسترد تفصیل کی تصویری نوعیت اس اسطورہ کی ایک امتیازی خصوصیت بن جاتی ہے اس کے باوجود مشترک خصوصیت باقی رہتی ہے۔ یعنی ارتقائی عمل کے شروع میں مادہ کے ایک ڈھیر کا تصور جس سے کائنات کی تشکیل ہوئی جو تقسیم ہو کر وہ مختلف دنیا میں نہیں جو آج ہمارے علم میں ہیں۔

جس دلیل کی وجہ سے ان آفرینشی اساطیر کو اس جگہ بیان کیا گیا ہے اس سے وہ طریقہ بتانا مقصود ہے جس کے ذریعہ انسانی تخیل نے ان اساطیر کے گرد حاشیہ آرائی کی نیز وہ بنیادی فرق بتاتا ہے جو اسی موضوع پر ان کے اور قرآن میں دیتے گئے بیانات کے درمیان ہے مگر الذکر تمام تر ان فرضی تفصیلات سے آزاد ہے جو ان عقائد کے ساتھ وابستہ کر دی گئی ہیں۔ اس کے برخلاف قرآن کے بیانات اپنے ان الفاظ کی سنجیدگی و متانت کے لحاظ سے ایک امتیازی درجہ رکھتے ہیں جن کے ذریعہ وہ بیانات پیش کئے گئے ہیں اور ان کو اس لفظ سے بھی ایک گونہ امتیاز حاصل ہے کہ سائنسی معلومات سے بھی ان کی مطابقت ہوتی ہے۔ تخیل سے متعلق قرآن کے اس نوع کے بیانات جو تقریباً چودہ صدی پیشتر ظہور میں آئے تھے صاف طور پر کسی انسانی توہم و تشریح پر محمول نہیں کیے جا سکتے۔

قرآن میں علم ہیئت

قرآن سموت کے بارے میں اقوال و آراء سے بھرا ہوا ہے۔ تخلیق سے متعلق سچے باب میں ہم نے دیکھا تھا کہ کس طرح آسمانوں اور زمینوں کا ذکر کیا ہے۔ نیز اس شے کا ذکر ہے جس کو قرآن ایک درمیانی تخلیق "بین السماء والارض" قرار دیتا ہے۔ جدید سائنس نے مؤخر الذکر کی تائید کی ہے۔ تخلیق سے متعلق جو آیات ہیں ان میں ایک وسیع تصور ان اشیاء کا بھی ہے جو آسمانوں میں ملتی ہیں یعنی ہر وہ شے جو زمین سے ماوراء ہے۔

ان آیات سے ہٹ کر جن میں خصوصیت سے تخلیق کا ذکر ہے، قرآن میں ایک موٹے سے انداز کے مطابق تقریباً چالیس اور آیتیں ایسی ہیں جو علم ہیئت پر وہ معلومات بہم پہنچاتی ہیں جو اس معلومات کا جو پہلے ہی دی جا چکی ہے تکملہ کرتی ہیں، ان میں سے کچھ کی حیثیت اس سے زیادہ نہیں ہے کہ ان سے خالق کی شان و عظمت پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ وہ خالق جو ناظم ہے تمام ستاروں اور سیاروں کے نظاموں کا۔ ہمیں معلوم ہے کہ یہ اجرام ایسی توازن کی حالت میں ہیں جس کے استحکام کی وضاحت نیوٹن نے اجرام کی کشش باہمی کے اصول سے کی تھی۔

پہلی آیات جو یہاں پیش کی جانی ہیں۔ سائنسی تجزیہ کے لیے مشکل سے کچھ زیادہ مواد فراہم کرتی ہیں، ان کا تو مقصد ہی خداوند کریم کی قدرت کاملہ کی جانب توجہ مبذول کرانا ہے۔ تاہم ان کا ذکر یہاں اس غرض سے کرنا پڑے گا کہ اس سے اس طریقہ کا حقیقت پسندانہ تصور دلایا جائے۔ جس طریقہ سے قرآنی متن میں اب سے چودہ صدی قبل نظام کائنات کو بیان کیا گیا ہے۔

یہ حوالے وحی الہی کی ایک نئی حقیقت کو ظاہر کرتے ہیں۔ نظام دنیا کا ذکر نہ تو اناجیل میں کیا گیا اور نہ عہد نامہ قدیم میں (سوائے چند تصورات کے جن کی عمومی عدم صحت کو ہم تخلیق کے بارے میں بائبل کے بیان میں پہلے ہی دیکھ چکے ہیں) لیکن قرآن اس موضوع کو گہرائی میں اتر کر بیان کرتا ہے جو کچھ اس میں بیان ہوا ہے وہ اہم ہے لیکن جو کچھ اس میں نہیں ہے اس کی حیثیت بھی یہی ہے دراصل یہ ان نظریات کا کوئی بیان پیش نہیں کرتا جو نزول کے وقت رائج تھے اور جو آسمانی دنیا کے نظام سے بحث کرتے ہیں۔ یہ وہ نظریات ہیں جن کو آگے چل کر سائنس نے غیر صحیح قرار دیا ہے

اس کی ایک مثال بعد میں دی جائے گی، تاہم اس منفی تصور کی نشاندہی کرنی پڑے گی۔

(الف) آسمان سے متعلق عام تصورات

سورۃ: ۵۰، آیت ۶۔ عام طور پر اس کا موضوع آسمان ہے۔

کیا انھوں نے کبھی اپنے اوپر آسمان کی
طرف نہیں دیکھا؟ کس طرح ہم نے اسے
بنایا اور آراستہ کیا اور اس میں کہیں کوئی
رنجنہ نہیں ہے۔

سورۃ: ۳۱، آیت ۲۔
خَلَقَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ
تَرَوْنَهَا.....

اس نے آسمانوں کو پیدا کیا بغیر ستونوں کے
جو تم کو نظر آئیں.....

سورۃ: ۱۳، آیت ۲۔

اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَوَاتِ
بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوَى
عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ
وَالْقَمَرَ.....

وہ اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں کو ایسے سہاروں
کے بغیر قائم کیا جو تم کو نظر آتے ہوں، پھر وہ
اپنے تخت پر جلوہ فرما ہوا اور اس نے آفتاب و
ماہتاب کو ایک قانون کا پابند کیا.....

یہ دو آیات اس عقیدہ کی ترویج کرتی ہیں کہ گنبد سماوی ستونوں پر ٹھہرا ہوا ہے کہ وہی ایسی
چیزیں ہیں جو اول الذکر اس بات سے روکے ہوئے ہیں کہ وہ زمین کو کچل کر رکھ دے۔

سورۃ: ۵۵، آیت ۷۔

اور آسمان کو (خدا نے) بلند کیا۔

وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا

۱۔ قرآن میں ملکیت سے متعلق جو معلومات دی گئی ہیں ان کی صداقت کو دیکھ کر بعض عقلیت پسند یہ تاویل کرتے ہیں کہ "عرب
ہمیشہ سے ملکیت کے ماہر رہے ہیں اس لئے رسول اللہ نے بھی عربوں کی معلومات کو قرآن میں درج کر دیا" لیکن ایسا کہتے وقت
وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ عرب میں ملکیت کو ترقی آغاز اسلام سے صدیوں بعد ہوئی۔

۲۔ الفاظ دیگر آسمانوں کو غیر محسوس اور غیر مرئی سہاروں پر قائم کیا۔ بظاہر کوئی چیز فضا میں بسیط میں ایسی نہیں ہے
جو ان بحد و بحساب اجرام فلکی کو تھامے ہوئے ہو مگر ایک غیر محسوس طاقت ہے جو ہر ایک کو اس کے مقام اور
مدار پر روکے ہوئے ہے اور ان عظیم الشان اجسام کو زمین پر یا ایک دوسرے پر گرنے نہیں دیتی (ابوالاعلیٰ مودودی)

سورة ۲۲، آیت ۶۵ :-

وَيُمسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى
الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ ط

اور وہی (اللہ تعالیٰ) آسمان کو اس طرح تھامے
ہوئے ہے کہ اس کے اذن کے بغیر وہ زمین
پر گر نہیں سکتا۔

یہ بات معلوم ہے کہ نہایت عظیم قاصلوں پر فضائی مادوں کی دوری اور خردان کے مادہ کی
مناسبت سے ان کی عظمت ان کے توازن کو قائم رکھنے میں بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ مادے جتنے
زیادہ بعید ہونگے اتنی ہی کمزور وہ قوت ہوگی جو ان کو ایک دوسرے کی جانب کھینچتی ہے۔ وہ جتنے
قریب ہوں گے اتنی ہی شدید وہ قوت کشش ہوگی جو ایک کی دوسرے کے ساتھ رہتی ہے۔ یہی
بات چاند پر صادق آتی ہے جو کرۂ ارض کے متصل ہے (فلکیات کی زبان میں) اور کشش کے اصولوں
کے تحت اس حصہ پر اثر انداز ہوتا ہے جس کو سمندر کا پانی گھیرے ہوئے ہے۔ اسی سے مدوجزر کا حادثہ
روٹا ہوتا ہے اور دو فضائی مادے ایک دوسرے کے بہت قریب آجائیں تو ان کے مابین تصادم
ناگزیر ہوگا۔ یہ حقیقت کہ وہ ایک نظام کے تحت قائم ہیں کسی گڑبڑ کی عدم موجودگی کے لیے ایک ناگزیر حالت
ہے۔ آسمانوں کا حکم ربی کا تابع ہونا ایک ایسی چیز ہے جس کا اکثر حوالہ دیا گیا ہے۔

سورة ۲۳، آیت ۸۶ - اللہ تعالیٰ نبی کریم سے مخاطب ہو کر فرماتا ہے۔

قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَ
رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ط

ان سے کہو، ساتوں آسمانوں اور عرش عظیم
کا مالک کون ہے؟

ہم پہلے ہی اس بات کا جائزہ لے چکے ہیں کہ 'سبع سموات' (ساتوں سے) کا مفہوم سات کا
عدد نہیں ہے بلکہ اس سے مراد لاتعداد آسمان ہیں۔

سورة ۲۵، آیت ۱۳ :-

وَسَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا
فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ ط إِنَّ
فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ط

اس نے زمین اور آسمانوں کی ساری ہی
چیزوں کو تو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، سب
کچھ اپنے پاس سے۔ اس میں بڑی نشانیاں ہیں
ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کریں گے۔

سورة ۵۵، آیت ۵۔

الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ ط
سورة

سورج اور چاند ایک حساب کے پابند ہیں۔

اور اسی (خدا) نے رات کو سکون کا وقت بتایا
اور چاند اور سورج کے طلوع اور غروب کا
حساب مقرر کیا۔

وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ
وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا

سورة ۱۲، آیت ۳۳ :-

جس تے سورج اور چاند کو تمہارے لیے
مسخر کیا کہ لگاتار چلے جا رہے ہیں اور رات
اور دن کو تمہارے لیے مسخر کیا ہے۔

وَسَخَّرَ لَكُمْ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ
دَائِبِينَ وَسَخَّرَ لَكُمْ اللَّيْلَ
وَالنَّهَارَ

یہاں ایک آیت دوسری کا تکملہ کرتی ہے۔ جس حساب کا، جو اس راستہ کی باقاعدگی پر منتج ہوتی
ہے، حوالہ دیا گیا ہے جو زیر نظر اجرام سماوی اختیار کرتے ہیں اس کو لفظ ”دائب“ سے ظاہر کیا گیا ہے
جو ایک ایسے فعل کی استمراری شکل ہے جس کا ابتدائی مفہوم ہے ”کسی کام کو لگن اور تندی سے انجام دینا“
یہاں اس کا اطلاق ان معنوں میں ہو رہا ہے ”توہ کو کسی کام میں ایک مقررہ عادت کے مطابق مستقل مزاجی
سے اور غیر متغیر طریقہ پر لگا دینا“

سورة ۳۶، آیت ۳۹۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے :-

اور چاند، اس کے لیے ہم نے منزلیں مقرر کر دی
ہیں یہاں تک کہ ان سے گذرتا ہوا وہ پھر کھجور کی
سوکھی شاخ کے مانند زہ جاتا ہے۔

وَالْقَمَرَ قَدَارًا مِّنَ
حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ
الْقَدِيمِ

یہ حوالہ ہے کھجور کی شاخ کی شکل خمیدہ کا جو سوکھ جانے کے بعد ہلال قمر کی شکل اختیار کر لیتی ہے
اس کی تشریح بعد میں مکمل کی جائے گی۔

سورة ۱۶، آیت ۱۲ :-

اس نے تمہاری بھلائی کے لیے رات اور دن کو
اور سورج اور چاند کو مسخر کر رکھا ہے۔ اور
سب تارے بھی اسی کے حکم سے مسخر ہیں۔
اس میں بہت نشانیاں ہیں ان لوگوں کیلئے
جو عقل سے کام لیتے ہیں۔

وَسَخَّرَ لَكُمْ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ
وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ
مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِہٖ إِنَّ فِي
ذٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

وہ عملی زاویہ نظر جس سے اس مکمل نظام سماوی کا جائزہ لیا گیا ہے، اس کی وہ افادیت ہے جو
انسان کے بری اور بخری سفر میں بطور امداد اس کو حاصل ہوتی ہے اور اس سے وہ اپنے وقت کا

حساب لگا لیتا ہے۔ یہ تشریح اس وقت اور بھی واضح ہو جاتی ہے جب ذہن میں اس حقیقت کو رکھا جائے کہ قرآن شروع میں ان لوگوں کے لیے ایک پسند و نصیحت تھی جو محض اپنی روزمرہ کی زندگی میں استعمال ہونے والی زبان ہی کو سمجھتے تھے۔ اس سے مندرجہ ذیل خیالات کی بھی توضیح و تشریح ہو جاتی ہے۔

سورة ۶، آیت ۹۷ :-

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ النُّجُومَ
لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ
وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ
يَعْلَمُونَ ۝

اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے تاروں کو
صحرا اور سمندر کی تاریکیوں میں راستہ معلوم
کرنے کا ذریعہ بنایا۔ دیکھو ہم نے نشانیاں کھوکھو کر
بیان کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم
رکھتے ہیں۔

سورة ۱۶، آیت ۱۶ :-

وَعَلَّمَتْهُ وَالنُّجُومِ هُمْ
يَهْتَدُونَ ۝

اس نے زمین میں راستہ بتانے والی علامتیں
رکھ دیں اور تاروں سے بھی لوگ ہدایت
پاتے ہیں۔

سورة ۱۰، آیت ۵ :-

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ
ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ
مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ
وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ
إِلَّا بِالْحَقِّ - يُفَصِّلُ الْآيَاتِ
لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ۝

وہی ہے جس نے سورج کو اجیالا بنایا اور چاند کو
چمک دی اور چاند کے گھٹنے بڑھنے کی منزلیں
ٹھیک ٹھیک مقرر کر دیں تاکہ تم اس سے برسوں
اور تاریخوں کے حساب معلوم کرو، اللہ نے یہ سب
کچھ برحق ہی پیدا کیا ہے۔ وہ اپنی نشانیوں کو
کھول کھول کر پیش کر رہا ہے ان لوگوں کیلئے
جو علم رکھتے ہیں۔

قرآن مجید کے اس بیان کی کچھ تشریح درکار ہے، جہاں بائبل سورج اور چاند کو روشنیوں
کے نام سے موسوم کرتی ہے اور ایک کے ساتھ محض "عظیم تر" اور دوسرے کے ساتھ "کمتر" کی صفات
کا اضافہ کرتی ہے۔ قرآن مجید ایک دوسرے کے ساتھ لیائی چوڑائی کے علاوہ دوسرے اختلافات
کا ذکر کرتا ہے۔ مان لیا کہ یہ ایک لفظی اختلاف کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ تاہم یہ امر ممکن کیسے ہوا

کہ اس وقت کوئی شخص انسانوں کو مغالطہ میں مبتلا کیے بغیر یہ بات بتا سکا۔ اور اسی وقت ان کو یہ تصور بھی دے دیا کہ سورج اور چاند کلیتہً یکساں روشنیاں نہیں ہیں۔

(ب) اجرام سماوی کی نوعیت

سورج اور چاند۔

سورج ایک جلال فروزاں رضیائی ہے اور چاند ایک روشنی دنور ہے۔ یہ ترجمہ دیگر حضرات کے بتائے ہوئے ترجموں سے زیادہ صحیح معلوم ہوگا، دوسروں نے دونوں اصطلاحوں کو الٹ دیا ہے حقیقت میں معنوں کے اعتبار سے دونوں میں بھٹوڑا سا ہی فرق ہے، اس لیے کہ ضیاء کی اصل ضوء ہے جس کا مفہوم کازیمی رسی مستند عربی، فرانسیسی لغت کے بموجب "روشن ہونا یا چمکنا" ہے۔ (مثال کے طور پر آگ کی طرح) وہی مصنف زیر بحث شے کو روشنی کے معنی میں استعمال کرتا ہے۔ سورج اور چاند کے درمیان جو فرق ہے وہ قرآن کے مزید حوالوں سے زیادہ واضح ہو جائے گا

سورة ۲۷، آیت ۶۱ :-

بڑی متبرک ہے ذات اس کی جس نے آسمان
میں بُرج بنائے اور اس میں ایک چراغ اور
ایک چمکتا چاند روشن کیا۔

تَبْرَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ
بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا
وَقَمَرًا مُنِيرًا

سورة ۷۱، آیات ۱۵-۱۶ :-

کیا دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے کس طرح سات
آسمان تہ برتہ بنائے اور ان میں چاند کو نور
اور سورج کو چراغ بنایا۔

أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ
سَمَوَاتٍ طِبَاقًا ۚ وَجَعَلَ الْقَمَرَ
فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسُ سِرَاجًا

سورة ۷۸، آیات ۱۲، ۱۳ :-

اور ہم نے تمہارے اوپر سات مضبوط
آسمان قائم کیے اور ایک نہایت روشن اور
گرم چراغ پیدا کیا۔

وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شَدَادًا ۚ
وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا

روشن اور گرم چراغ سے مراد واضح طور پر سورج ہے۔

یہاں چاند کو ایک ایسا جرم قرار دیا گیا ہے جس سے روشنی منعکس ہوتی ہے (مینیر) جس کا مادہ
وہی ہے جو نور کا (وہ روشنی جس کا اطلاق چاند پر ہوتا ہے) لیکن سورج کو ایک مشعل (سراج) سے یا

ایک گرم چراغ (رواج) سے مشابہ قرار دیا گیا ہے۔

حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کا کوئی شخص بھی سورج کے، جو صحر کے باشندوں کیلئے ایک بخوبی جانا پہچانا دکھتا ہوا جرم سماوی ہے۔ اور چاند کے، جو رات کی خنکی کا ایک جرم ہے، درمیان آسانی سے امتیاز کر سکتا تھا، لہذا قرآن میں اس موضوع پر جو موازنہ دیا گیا ہے وہ قطعاً ایک عام بات ہے۔ جو بات یہاں قابل غور ہے وہ ہے موازنہ کا ایک سنجیدہ انداز جو ممکن ہے اس زمانہ میں رہا اور جو ہمارے زمانہ میں فریب نظر کی نائش معلوم ہو۔

یہ بات معلوم ہے کہ سورج ایک ستارہ ہے جو اپنے اندرونی دھماکوں سے شدید گرمی اور روشنی پیدا کرتا رہتا ہے اور یہ کہ چاند جو بذات خود روشنی نہیں دیتا اور ایک جامد و مجہول جرم ہے (کم از کم اپنے بیرونی پرتوں کے اعتبار سے) محض اس روشنی کو منعکس کرتا ہے جو اس کو سورج سے حاصل ہوتی ہے۔

قرآن میں کوئی بات ایسی نہیں ہے جو اس معلومات کی تردید کرتی ہو جو ہمیں آج ان اجرام سماوی کے بارے میں حاصل ہے۔

ستارے :-

جیسا کہ ہمیں علم ہے، ستارے سورج کی طرح کے اجرام سماوی ہیں۔ وہ مختلف قدرتی حوادث کے مناظر ہیں جن میں سے آسان ترین جو مشاہدہ میں آتا ہے وہ ان کی روشنی کی تخلیق کا منظر ہے۔ وہ ایسے اجرام سماوی ہیں جو اپنی روشنی خود تخلیق کرتے ہیں۔

لفظ "ستارہ" (نجم جس کی جمع نجوم ہے) قرآن مجید میں تیرہ مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ اس کا مادہ ایک ایسا لفظ ہے جس کا مفہوم ہے ظاہر ہونا یا دکھائی دینا۔ یہ لفظ اس کی نوعیت کی وضاحت کیے بغیر یعنی یہ بتائے بغیر کہ یہ روشنی کا تخلیق کرنے والا یا حاصل شدہ روشنی کا منعکس کرنے والا ہے، اس کو ایک قابل مشاہدہ جرم سماوی قرار دیتا ہے، اس بات کی وضاحت کی لیے کہ وہ معروض جس کو اس نام سے موسوم کیا گیا ہے ایک ستارہ ہے، یہ ایک توصیفی محاورہ ہے جو حسب ذیل سورت میں ایزا دیا گیا ہے۔

سورة ۸۶، آیات ۱ تا ۳ :-

قسم ہے آسمان کی اور رات کو نمودار ہونے والے کی
اور تم کیا جانو کہ وہ رات کو نمودار ہونے والا کیا
ہے؛ چمکتا ہوا ستارہ

وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ ۚ وَمَا
أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ ۗ النَّجْمُ
الثَّاقِبُ ۗ

لہٰذا یہاں آسمان اور ستارہ کو اس بات کی اہمیت بتانے کے لیے بطور مشاہدہ پیش کیا گیا ہے جو جن میں بیان ہونے والی ہے۔

قرآن میں 'شام کے ستارہ' کو لفظ "ثاقب" کے صفتی نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ جس کا مفہوم ہے وہ شے جو کسی چیز کو چیرتی ہوئی جائے (یہاں وہ چیز ظلمتِ شب ہے) اس کے علاوہ یہی لفظ ٹوٹنے والے ستاروں کو موسوم کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے (سورۃ ۳۷، آیت ۱۰) مؤخر الذکر (ٹوٹنے والے ستارے) دھماکے کے نتیجے میں پیدا ہوتے ہیں۔

سیارے

یہ بتانا مشکل ہے کہ آیا قرآن میں ان کا حوالہ بالکل اسی مفہوم کے ساتھ دیا گیا ہے جو موجودہ زمانہ میں ان اجرام سماوی کے متعلق سمجھا جاتا ہے۔

سیاروں کی اپنی روشنی نہیں ہوتی، وہ سورج کے گرد گردش کرتے ہیں، زمین بھی ان میں سے ایک ہے۔ اگرچہ قیاس کیا جاسکتا ہے کہ دیگر سیارے کہیں اور بھی ہوں گے لیکن جن کا علم ہے وہ نظام شمسی ہی میں ہیں۔

زمین کے علاوہ پانچ سیاروں سے قدام بھی واقف تھے۔ یہ پانچ عطارد، زہرہ، مریخ، مشتری، اور زحل ہیں۔ تین جدید زمانہ میں دریافت ہوئے ہیں: یورینس، نیپچون اور پلوٹو۔

ایسا معلوم ہوتا ہے کہ قرآن نے انکو لفظ کوکب سے منسوب کیا ہے (جس کی جمع کوکب ہے) لیکن ان کی تعداد نہیں بتائی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب (سورۃ ۱۲) میں گیارہ کا حوالہ ہے لیکن باعتبار تعین یہ بیان نچلی ہے۔

ایسا معلوم ہوتا ہے کہ قرآن میں لفظ کوکب کے معنوں کی اچھی توضیح ایک بہت مشہور آیت میں کی گئی ہے، اس کے گہرے مفہوم کی امتیازی دینی نوعیت اپنی جگہ پر ہے۔ علاوہ ازیں یہ ماہر مفسرین کے مابین کافی بحث و تمحیص کا موضوع ہے اس کے باوجود

زیر بحث عبارت یہ ہے (سورۃ ۲۴، آیت ۳۵)

اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا

مِصْبَاحٌ مِّطٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ

الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ

اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے (کائنات میں)

اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے ایک طاق

میں چراغ رکھا ہوا ہو، چراغ ایک ایسے

لہ الا من خطف الخطفة فاتبعة شهاب ثاقب تاہم اگر کوئی ان میں سے کچھ لے اڑے تو ایک تیز شعلہ اس کا پیچھا کرتا ہے لہ احد عشر کواکبا والشمس والقمر رايتهم لي سيد بينہ میں نے دیکھا کہ گیارہ ستارے

یا سیارے اور سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں (سورۃ یوسف)

فانوس میں ہو: فانوس کا حال یہ ہو کہ جیسے موتی

کی طرح چمکتا ہوتا تارہ

یہاں موضوع کسی ایسے جسم پر روشنی کا ایک نل ہے جو اسے منعکس کرتا ہے (زجاج) اور اس کو ایک موتی کی چمک عطا کرتا ہے مثل ایک سیارے کے جو سورج کی وجہ سے منور ہے، یہی وہ تشریحی تفصیل ہے جو اس لفظ کے ذکر کے ساتھ قرآن میں پائی جاتی ہے۔

یہ لفظ دوسری آیتوں میں بھی مذکور ہے، ان میں سے بعض ایسے ہیں جن میں یہ امتیاز کرنا مشکل ہے کہ ان سے مراد کون سے اجرام سماوی ہیں (سورۃ ۶، آیت ۷۶ - سورۃ ۸۲، آیات ۱ تا ۲)۔ تاہم جب جدید سائنس کی روشنی میں دیکھا جائے تو ایک آیت میں یہ بات بہت زیادہ دکھائی دے گی کہ یہ وہی اجرام سماوی ہیں جن کو آج ہم سیاروں کے نام سے جانتے ہیں۔ سورۃ ۷۳، آیت ۶ میں ہمیں حسب ذیل مضمون دکھائی دیتا ہے۔

إِنَّا زَيْنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ

تحقیق ہم نے آسمان دنیا کو اکاب سے زینت

یا نگو اکاب۔

دی ہے (سجایا ہے)

کیا یہ ممکن ہے کہ قرآن کی عبارت میں آسمان دنیا سے مراد ”نظام شمسی“ لی جائے؟ یہ بات معلوم ہے کہ ہم سے قریب ترین سماوی معروضات میں سوائے سیاروں کے کوئی دوسرے مستقل معروضات نہیں ہیں۔ اس نظام میں سورج ہی وہ واحد ستارہ ہے جس کا اپنا نام دیا جاتا ہے۔ یہ سمجھنا مشکل ہے کہ اگر اس سے سیارے نہیں تو اور کون سے اجرام مراد ہیں، لہذا جو ترجمہ دیا گیا ہے وہ صحیح معلوم ہوتا ہے۔ اور قرآن مجید ان ہی سیاروں کے وجود کا ذکر کرتا ہے جن کا دور جدید میں تعین کیا جاتا ہے۔

آسمان دنیا

قرآن کریم آسمان دنیا کا ان اجرام سماوی کے ساتھ کئی بار حوالہ دیتا ہے جن پر یہ مشتمل ہے ان میں اولین سیارے معلوم ہوتے ہیں جیسا کہ ہم ابھی دیکھ چکے ہیں لیکن جب قرآن خالص روحانی باتوں کے ساتھ وہ مادی تصورات وابستہ کرتا ہے جو آج جدید سائنس سے روشنی پا کر ہمارے لیے قابل فہم ہو گئے ہیں تو ان کا مفہوم مبہم سا ہو جاتا ہے۔

لَقَدْ لَمَسْنَا جَنَّةَ عَلِيِّ الْأَيْلِ رَا كَوْكَبًا - جب رات اس پر طاری ہوئی تو اس نے ایک تارا دیکھا۔

لَهُ إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ ۚ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ ۚ جب آسمان پھٹ جائے گا اور جب تارے بکھر جائیں گے۔

اس طرح جس آیت کا حوالہ دیا گیا ہے وہ آسانی سے سمجھ میں آسکتی ہے سوائے بعد کی آیت (نمبر) جو اسی سورۃ ۳۷ میں ہے اور جس میں ہر شیطان سرکش کے خلاف ایک حفاظت کا ذکر کیا گیا ہے اسی حفاظت کا پھر سورۃ ۲۱، آیت ۳۲ میں اور سورۃ ۲۱، آیت ۱۲ میں حوالہ دیا گیا ہے۔ چنانچہ ہم بالکل ہی مختلف قسم کے بیانات سے دوچار ہو جاتے ہیں۔

علاوہ ازیں ”رجم شیاطین“ کا جو سورۃ ۶۷، آیت ۵ کے بموجب آسمان دنیا میں ہیں، کیا مطلب لیا جائے گا؟ کیا ان روشن اجرام کا جن کا حوالہ اسی آیت میں دیا گیا ہے، محمولہ بالا ٹوٹنے والے ستاروں سے تعلق نہیں ہے؟

یہ تمام باتیں اس جائزہ کی حدود سے ماوراء ہیں۔ اس کا ذکر یہاں تکمیل کی غرض سے کر دیا گیا ہے۔ تاہم موجودہ مرحلہ میں یہ معلوم ہو گا کہ سائنسی معلومات کسی ایسے موضوع پر جو فہم انسانی سے ماوراء ہے کوئی روشنی نہیں ڈالتی ہیں۔

(ج) نظامِ سماوی :-

اس موضوع سے متعلق قرآن جو معلومات فراہم کرتا ہے ان کا تعلق بنیادی طور پر نظامِ شمسی سے ہے۔ تاہم بذاتِ خود نظامِ شمسی سے ماوراء جو حادثات رونما ہوتے ہیں ان کے حوالے بھی اس میں موجود نہیں۔ ان کا انکشاف دورِ جدید میں ہوا ہے۔

سورج اور چاند کے مداروں سے متعلق دو نہایت اہم آیات موجود ہیں۔

— سورۃ ۲۱، آیت ۳۳ :-

اور وہ اللہ ہی ہے جس نے رات اور دن بنائے

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ

اور سورج اور چاند کو پیدا کیا، یہ سب اپنے

وَالشَّمْسِ وَالْقَمَرِ كُلٌّ فِي فَلَكٍ

اپنے مداروں پر چل رہے ہیں۔

يُسَبِّحُونَہ

— سورۃ ۳۶، آیت ۴۰ :-

نہ سورج کے بس میں یہ ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے

لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ

اور نہ رات دن پر سبقت لے جاسکتی ہے ان میں سے

القَمَرُ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ

لَهُ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا ج۔ ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنایا۔

لَهُ فَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمصابيحٍ۔ اور آسمان دنیا کو ہم نے چراغوں سے آراستہ کیا اور اسے خوب محفوظ کر دیا۔

لَهُ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيْطَانِ۔ اور انھیں شیاطین کو مار بھگانے کا ذریعہ بنا دیا ہے۔

وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ۝
ہر ایک اپنے اپنے مدار پر تیر رہا ہے۔

اس جگہ ایک اہم حقیقت کا واضح طور پر اظہار کیا گیا ہے۔ وہ ہے سورج اور چاند کے مداروں کا وجود۔ اس پر مستزاد وہ حوالہ ہے جو ان اجرام کے اپنی حرکت سے خلا میں سفر کرنے کے سلسلہ میں دیا گیا ہے۔

ان آیات کے مطالعہ سے ایک منفی حقیقت بھی ابھر کر سامنے آتی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ سورج ایک مدار پر حرکت کر رہا ہے لیکن اس بات کی نشان دہی نہیں کی گئی ہے کہ زمین کے لحاظ سے یہ مدار کونسا ہو سکتا ہے۔ نزولِ قرآن کے وقت خیال کیا جاتا تھا کہ سورج متحرک ہے اور زمین ساکن۔ یہ زمین کی مرکزیت کا نظام تھا جو بطلمیوس کے زمانہ سے مقبول چلا آ رہا تھا جو دوسری صدی قبل مسیح کا ساؤنڈان ہے۔ اور اس کا سلسلہ کوپرنیکس (نکولاس کوپرنیکس ۱۵۴۳ء) تک چلا۔ جس کا دور سوٹھویں صدی عیسوی ہے۔ اگرچہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں لوگ اس نظریہ کے حامی تھے لیکن قرآن کریم میں کہیں بھی اس کا اظہار نہیں ہوا، نہ یہاں نہ کہیں اور۔

چاند اور سورج کے مداروں کا وجود

عربی کے لفظ 'فلك' کا ترجمہ مدار کیا گیا ہے۔ قرآن کے کئی فرانسیسی مترجم اس کا مفہوم 'کرہ' بیان کرتے ہیں، یہی درحقیقت اس کا ابتدائی مفہوم ہے۔ حمید اللہ اس کا ترجمہ لفظ 'مدار' کرتے ہیں۔

قرآن کے قدیم مترجمین کو اس لفظ نے تشویش میں مبتلا کر دیا تھا جو چاند اور سورج کے مداروں کا تصور قائم نہیں کر سکے تھے اور اس لیے انہوں نے خلا میں ان کے راستہ کی کچھ ایسی شکلیں محفوظ کر لی تھیں جو یا تو کسی حد تک درست تھیں یا بالکل ہی غلط تھیں۔ ہمزہ بوبکر اپنے ترجمہ قرآن مجید میں اس لفظ کی وہ مختلف النوع تشریحات پیش کرتے ہیں جو دوسروں نے کی ہیں "ایک قسم کا

اے جدید ترین انکشاف جو سائنس نے کیا ہے وہ یہ ہے کہ سورج بھی مجمع النجوم شلیاق کی جانب کسی نامعلوم مرکز کی طرف تہایت تیزی سے بھاگا جا رہا ہے۔ اس مرکز کو سولہ ایکس کہا گیا ہے۔ قرآن کی یہ آیت اس کی طرف اشارہ کرتی ہے:-

وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ تَمَاطُ ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ - (اور سورج اپنے ٹھکانے کی طرف چلا

جا رہا ہے۔ یہ زبردست علیم ہستی کا باندھا ہوا حساب ہے) سورة ۳۶، آیت ۳۸

اے یہ غالباً طاعت کی غلطی ہے۔ بطلمیوس کا زمانہ دوسری صدی عیسوی کا ہے۔ (مترجم)

دھرا جو ایک آہنی سلاح کے مثل ہوتا ہے جس کے گرد کوئی کل گھومتی ہے، ایک سماوی کرہ، مدار، سورج کی علامتیں، رفتار، لہر۔۔۔۔۔“ لیکن پھر وہ حسب ذیل بیان جو دسویں صدی کے مشہور مفسر طبری نے دیا ہے پیش کرتے ہیں۔ ”جب ہمیں کسی بات کا علم نہ ہو تو ہمارا فرض ہے کہ ہم خاموشی اختیار کریں۔“ (۱۱۱ x ۱۵) اس سے پتہ چلتا ہے کہ لوگ سورج اور چاند کے مدار کا یہ تصور حاصل کرنے میں کس قدر ناکام رہے۔ یہ بات بالکل واضح ہے کہ اگر یہ لفظ اس فلکیاتی تصور کو واضح کرتا جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں عام تھا تو ان آیات کی توضیح و تشریح کرنا انتہائی مشکل ہوتا۔ لہذا قرآن میں ایک بالکل ہی جدید تصور موجود تھا جس کی وضاحت صدیوں بعد تک نہیں کی جاسکی تھی۔

چاند کا مدار

آج کل یہ تصور نہایت وسعت سے پھیلا ہوا ہے کہ چاند زمین کا ایک طفیلی جرم ہے جو اس کے گرد ۲۹ دن کی مدت میں گردش کر لیتا ہے لیکن اس کے مدار کی مطلقاً مدور شکل میں تھوڑی سی صحت کرنی پڑے گی اس لیے کہ جدید فلکیات اس کے لیے ایک مخصوص مختلف الگورتی تجویز کرتی ہے۔ جس کی وجہ سے زمین اور چاند کے درمیان کا فاصلہ (۲۴۰۰۰۰ میل) اس کا محض اوسط فاصلہ ہو جاتا ہے۔

ہم نے صدر میں اس بات کو دیکھا ہے کہ کس طرح قرآن، چاند کی حرکتوں کے مشاہدہ کرنے کی افادیت کو وقت کا حساب لگانے کے لیے بیان کرتا ہے (سورۃ ۱۰، آیت ۸ جس کا حوالہ اس باب کے شروع میں دیا گیا ہے)

یہ نظام اکثر ہمارے اُس نظام کے مقابلہ میں وقیانوسی، ناقابل عمل اور غیر سائنٹفک قرار دیکر تنقید کا ہدف بنایا گیا ہے جس کی بنیاد سورج کے گرد زمین کی گردش پر ہے اور جو فی الوقت یورپانی تقویم میں بیان کیا جاتا ہے۔

یہ تنقید حسب ذیل دو آراء کو ہمارے سامنے لاتی ہے:-

(الف) تقریباً چودہ صدیاں گزریں کہ قرآن جزیرہ نما عرب کے ان باشندوں کی طرف بھیجا گیا جو وقت کے لیے چاند سے حساب لگانے کے عادی تھے۔ ان کو محض اسی زبان میں مخاطب کرنا مناسب تھا جو وہ سمجھ سکتے تھے اور مکافی اور زمانی حوالے کے نشانات کی تعیین جس کے وہ عادی تھے اور جو چیزیں ان کے لیے بالکل موزوں بھی تھیں ان کو الٹ دینا مناسب نہیں تھا، یہ معلوم ہے

کہ صحرا میں رہنے والے لوگ مشاہداتِ فلکی میں کتنے ماہر ہوتے ہیں، وہ ستاروں کی مدد سے جہاز رانی کرتے تھے اور چاند کی شکلوں سے وقت بتا دیتے تھے۔ ان کے لیے وہی ذرائع سب سے زیادہ سہل اور بھروسہ کے قابل تھے۔

(ب) اس میدان میں ماہرین کو چھوڑ کر اکثر لوگ یونانی اور قمری تقویم کے مابین تعلق کے بارے میں ناواقف ہیں۔ ۲۳۵ قمری مہینے ۳۶۵ دن کے ۱۹ یونانی سالوں سے پوری مطابقت رکھتے ہیں۔ پھر ہمارے ۳۶۵ دن والے سال کا طول کیسی کامل نہیں ہے کیونکہ اس کی ہر چار سال کے بعد تصحیح کرنی پڑتی ہے۔ قمری تقویم میں یہی واقعہ ہر ۱۹ سال (یونانی) کے بعد رونما ہوتا ہے۔ اس کو مٹانی دور کہا جاتا ہے جو یونانی ہیئت دان مٹیائے کے نام پر جس نے پانچویں صدی قبل مسیح میں شمسی اور قمری وقت کے درمیان اس صحیح تعلق کو دریافت کیا تھا۔

۲۔ سورج

سورج کے مدار کا تصور کرنا مشکل ہے اس لیے کہ ہم اپنے نظام شمسی پر جو ہمارے گرد قائم ہے۔ غور کرنے کے عادی ہیں۔ قرآن کی آیت کو سمجھنے کے لیے ہمیں اپنی کہکشاں میں سورج کی جائے وقوع کو سمجھنا پڑے گا۔ اس لیے ہمیں جدید سائنسی نظریات کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔

۱۹ مٹیائے پانچویں صدی ق م میں مدینۃ المحکمہ ایتھنز میں ایک عظیم ہیئت دان ہوا ہے اس نے ۲۲ ق م میں مٹانی دور کی نشان دہی کی۔
۲۰ جدید فلکیات کے بوجب کائنات میں مادہ کے بیشتر لمبے چوڑے بادل بکھرے ہوئے ہیں جن کو دائرے کہکشانی سدیم کہا جاتا ہے۔ ان سدیموں میں سے بعض ابھی دغان کی شکل میں اور بعض میں مادہ منجمد ہو کر ستاروں کی شکل اختیار کر گیا ہے۔ ہمارا کہکشانی جہان بھی ایک ایسا ہی سدیم ہے جس کا مادہ منجمد ہو کر مختلف سائز کے ستارے بن گئے ہیں۔ ایک اندازہ کے مطابق ان ستاروں کی تعداد ایک کھرب ہے۔ ہمارے کہکشانی جہان کی شکل چکی کے ایک پاٹ کی سی ہے (غالباً اسی لیے ہمارے شاعر غیر شعوری طور پر آسمان کو آسپائے فلک یعنی آسمان کی چکی کہا کرتے تھے) اس پاٹ کا قطر تقریباً ایک لاکھ نوری سال ہے۔ ایک نوری سال سے مراد تقریباً ۶۰ کھرب میل ہے) اور موٹائی ۲۰ ہزار نوری سال ہے، کہکشانی جہان کے مرکز پر ستاروں کا مجموعہ سب سے زیادہ ہے۔ ہمارا سورج بھی ایک ستارہ ہے جو اس کہکشانی جہان کے مرکز سے تقریباً ۲۰ ہزار نوری سال کے فاصلہ پر ہے اور دوسرے ستاروں کی طرح اس کے مرکز کے گرد چکر لگا رہا ہے۔ جس راستہ پر سورج چل رہا ہے وہی اس کا مدار ہے۔ یہ مدار اتنا لمبا ہے کہ سورج اپنی سرعت رفتار کے باوجود اس مدار پر ایک چکر ۲۲ کروڑ سال میں پورا کرتا ہے (مترجم)

ہماری کہکشاں میں ستاروں کی نہایت کثیر تعداد ہے۔ یہ ستارے اس طرح خلا میں بکھرے ہوئے ہیں کہ ان سے ایک ایسی طشتری بن گئی ہے جس کی دبازت کنارے کے مقابلہ میں مرکز پر زیادہ ہے اس میں سورج کی جائے وقوع کچھ ایسی ہے کہ یہ اس طشتری کے مرکز سے کافی ہٹا ہوا ہے، کہکشاں اپنے محور کے جو خود اس کا مرکز ہے گرد گھوم رہی ہے۔ نتیجہً سورج بھی اسی مرکز کے گرد ایک دور مدار پر گردش کر رہا ہے۔ جدید فلکیات نے اس کی تفصیلات معلوم کی ہیں۔ ۱۹۱۷ء میں شیلے نے سورج اور ہماری کہکشاں کے مرکز کے درمیان کے فاصلہ کا اندازہ ۱۰ کلو پارسک لگا یا ہے۔ جس کو اگر میلوں میں ظاہر کیا جائے تو ۲۰ کا ہندسہ لکھ کر ۷ اصف رنگا نے ہوں گے، اپنے محور پر ایک چکر مکمل کرنے کے لیے کہکشاں اور سورج کو اندازاً ۲۵۰ بلین سال (۲۵ کروڑ سال) لگیں گے، سورج اس کی تکمیل میں ۱۵۰ میل فی سیکنڈ کے حساب سے مسافت طے کرتا ہے۔

مذکورہ بالا سورج کی محوری حرکت ہے جس کا حوالہ قرآن مجید نے پیشتر دیا ہے اس (گردش) کے وجود اور تفصیلات کی دریافت جدید علم ہیئت کی کامرانیوں میں سے ایک ہے۔

خلا میں چاند اور سورج کی حرکتوں کا

ان کی اپنی گردشوں کے لحاظ سے حوالہ

یہ تصور قرآن کے ان تراجم میں دکھائی نہیں دیتا جو علمائے کبار نے کیے ہیں، چونکہ مؤخر الذکر حضرات کو فلکیات کے بارے میں کوئی معلومات نہیں تھیں لہذا انھوں نے عربی کے اس لفظ کا جو اس حرکت کو بیان کرتا ہے ترجمہ ایک ایسے لفظ سے کیا ہے جس کا مفہوم ہے تیرنا۔ یہ بات انھوں نے دونوں ترجموں یعنی فراسیسی اور قابل ذکر عبداللہ یوسف علی کے انگریزی ترجمہ میں کی ہے۔

عربی کے اس لفظ کے لیے جو ایسی حرکت کو ظاہر کرے جو کسی جسم کی ذاتی تحریک سے پیدا ہو فعل "سَجَّ" استعمال ہوتا ہے (دونوں آیتوں میں لفظ "سَجَّ" استعمال ہوا ہے) اس فعل کے تمام مفاہیم ایسی حرکت پر دلالت کرتے ہیں جو ایک جنبش کے ساتھ وابستہ ہے جس کا صدور جسم زیر بحث سے

۱۰ ایک کلو پارسک ایک ہزار پارسک کے برابر ہوتا ہے اور ایک پارسک ۳،۲۶ توری سال [یا ۱۹۱۸۲۵۵۲۰۰۰۰۰ میل] کے مساوی ہے اس طرح ۲۰ ہزار توری سال تقریباً ۷ ہزار پارسک یا ۷ کلو پارسک کے برابر ہوتے۔ لہذا یہ بات محل نظر ہے کہ کہکشاں کے مرکز سے سورج کا فاصلہ ۱۰ کلو پارسک ہے (مترجم)

۱۰ شائع کردہ شیخ محمد اشرف لاہور (پاکستان)

ہوتا ہے۔ اگر حرکت پانی کے اندر ہو تو اس کو "تیرنا" کہتے ہیں، اگر یہ حرکت زمین پر ہو تو یہ کسی شخص کی اپنی ٹانگوں کے عمل سے ہوتی ہے۔ جو حرکت خلا میں ہوتی ہے تو یہ بات سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے کہ جو معنی اس لفظ پر دلالت کرتے ہیں، ان ابتدائی معنوں کو چھوڑ کر کیسے کوئی اور مفہوم اس کا لیا جاسکتا ہے چنانچہ حسب ذیل وجوہ کی بنا پر غلط ترجمہ کرنے کی کوئی ضرورت معلوم نہیں ہوتی۔

چاند اپنی محور کے گرد اپنی یومیہ گردش کو اتنے ہی وقت میں پورا کر لیتا ہے جتنے وقت میں وہ زمین کے گرد چکر لگاتا ہے یعنی ۲۹ ۱/۲ دن (تقریباً) خط استواء اور قطبین پر اس کی گردش میں بعض اختلافات ہیں یہاں ہم ان اختلافات کی گہرائی میں نہیں جائیں گے، لیکن مجموعی طور پر سورج میں گردش محوری کے سبب ایک تحریک پیدا ہوتی ہے۔

لہذا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ قرآن میں ایک باریک سا لفظی فرق سورج اور چاند کی اپنی گردشوں میں بتایا گیا ہے۔ دونوں اجرام سماوی کی ان گردشوں کی توثیق جدید سائنس کی تحقیقات سے ہو گئی ہے اور یہ بات ناقابل فہم ہے کہ ساتویں صدی عیسوی کا کوئی شخص جو اپنے زمانہ میں کتنا بھی ذی علم سا ہو اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بات یقیناً صادق نہیں آتی ان باتوں کو سمجھ سکے۔

اس نظریہ پر قدیم زمانہ کے ان عظیم مفکرین کے مثالیں پیش کر کے بعض اوقات بحث کی جاتی ہے جنہوں نے مسلم طور پر بعض ان باتوں کی پیشگوئی کر دی تھی جن کی تصدیق جدید سائنس سے ہو گئی ہے پھر یہ کہ وہ سائنس کے استنباط و استخراج پر بھی انحصار نہیں کر سکتے تھے۔ ان کا طریقہ عمل زیادہ تر فلسفیانہ استدلال پر مبنی تھا۔ چنانچہ فیثاغورث کے مسلک کے ماننے والوں کے معاملہ کو اکثر پیش کیا جاتا ہے۔ چھٹی صدی قبل مسیح میں انہوں نے زمین کے اپنے محور پر گردش اور سیاروں کے سورج کے گرد چکر لگانے کے نظریہ کی حمایت کی تھی۔ اس نظریہ کی جدید سائنس نے تصدیق کر دی ہے۔ اس کا مقابلہ فیثاغورثی مسلک رکھنے والوں کے نظریہ سے کرنے کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس نظریہ کو پیش کرنا آسان ہو جاتا ہے کہ آپ ایک ایسے روشن خیال مفکر تھے جنہوں نے ان باتوں کو، جن کا انکشاف جدید سائنس صدیوں بعد کرنے والی تھی، خود سوچ لیا ہوگا۔ لیکن یہ قیاس آرائیاں کرتے وقت لوگ اس واقعہ کے دوسرے پہلو کو قطعاً فراموش کر دیتے ہیں، کہ جو ان فلسفیانہ دلائل کو پیش کرنے کے لیے حکماء نے پیدا کیا تھا، یعنی وہ فاحش غلطیاں جو ان کے کام کو درہم

لہ یہ مصنف نے ان لوگوں کا مفروضہ پیش کیا ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی کی بجائے ایک مفکر مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ نے جو کچھ فرمایا وہ وحی کی بنیاد پر نہیں تھا بلکہ دیگر مفکرین کی طرح آپ کے غور و فکر کا نتیجہ تھا۔ (مترجم)

برہم کر دیتی ہیں۔ مثال کے طور پر یہ بات یاد رکھنی پڑے گی کہ فیثا غورٹی مسک رکھنے والے اس نظریہ کی بھی حمایت کرتے تھے جس کی رُو سے سورج خلا میں ایک جگہ جما ہوا ہے۔ وہ اس کو کائنات کا مرکز قرار دیتے تھے اور ایک ایسے نظام سماوی کا تصور پیش کرتے تھے جس کا مرکز سورج ہے۔ زمانہ قدیم کے عظیم مفکرین کی تحریروں میں یہ بات بہت عام ہے کہ وہ کائنات کے بارے میں معقول اور نامعقول خیالات کو ملا دیتے ہیں۔ ان انسانی تحریروں کی عظمت اسی بات میں ہے کہ ان میں ایسے ترقی یافتہ تصورات شامل ہیں لیکن ان کی بنا پر ہمیں ان غلط تصورات کو نظر انداز نہیں کر دینا چاہیے جو انہوں نے ہمارے لیے چھوڑے ہیں۔ ایک کلیتہً سائنسی نقطہ نظر سے یہی وہ بات ہے جو ان کی تحریروں کو قرآن سے میز و ممتاز کرتی ہے۔ مؤخر الذکر میں کئی ایسے موضوعات کا حوالہ ہے جن کا جدید معلومات سے گہرا ربط ہے اور ان میں سے کسی میں بھی ایسا کوئی بیان نہیں ہے جو دور جدید کی سائنس کے قائم کردہ کسی نظریہ کی تردید کرتا ہو۔

دن اور رات کا تواتر

جس زمانہ میں یہ خیال کیا جاتا تھا کہ زمین کائنات کا مرکز ہے اور سورج اس کے لحاظ سے حرکت کر رہا ہے تو کوئی شخص رات اور دن کے تواتر پر گفتگو کرتے وقت سورج کی گردش کا حوالہ دینے کیسے چوک سکتا تھا؛ لیکن اس بات کا ذکر قرآن میں نہیں ہے اور اس مضمون کو حسبِ ذیل طریقہ سے بیان کیا گیا ہے:-

— سورة ۷۷، آیت ۵۴ —

جو (اللہ تعالیٰ) رات کو دن پر ڈھانک دیتا ہے
اور پھر دن رات کے پیچھے دوڑتا چلا آتا ہے۔

يُغْشِي السَّيْلَ النَّهَارَ يَطْبَعُهُ
حَيْثُ يَتَّ

— سورة ۳۶، آیت ۳۷ —

ان کے لیے (بنی نوع انسان کے لیے) ایک اور
نشانی رات ہے۔ ہم اس کے اوپر سے دن ہٹا
دیتے ہیں تو ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے۔

وَايَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ مَطَّعَتْ
مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمُ
مُظْلَمُونَ

— سورة ۳۱، آیت ۲۹ —

کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ رات کو دن میں
پرفتا ہوا لے آتا ہے اور دن کو رات میں ضم کر دیتا ہے

الْمُتَرَاتَاتِ اللَّهُ يُوَلِّجُ اللَّيْلَ
فِي النَّهَارِ وَيُوَلِّجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ

سورة ۳۹، آیت ۵:-

وہی اللہ تعالیٰ، رات کو دن پر لپیٹتا ہے اور
دن کو رات پر لپیٹتا ہے۔

مَيَّوْرًا لَّيْلًا عَلَى النَّهَارِ وَيَكْوِّرُ
النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ۔

پہلی آیت جو نقل کی گئی ہے اس کی تشریح کی کوئی ضرورت نہیں ہے، دوسری محض ایک مثال اور نشانی پیش کرتی ہے۔

خاص طور پر عیسوی اور چوتھی آیات جو یہاں نقل کی گئی ہیں، تشریح کے اس عمل کے لیے بالخصوص رات کے دن پر لپیٹنے اور دن کے رات پر لپیٹنے کے لیے دلچسپ مواد فراہم کرتی ہیں (سورة ۳۹، آیت ۵) لفظ "لپیٹنا" جیسا کہ فرانسیسی ترجمہ از۔ آر بلاشیر میں ہے۔ عربی کے لفظ "مکْوَرًا" کا بہترین ترجمہ ہے۔ اس فعل کے ابتدائی معنی پگڑی کا سر کے گرد لپیٹنا نہیں، لپیٹنے کا تصور اس لفظ سے دوسرے دیگر مفہوم میں قائم رکھا گیا ہے۔

لیکن حقیقتاً خلا میں کیا واقعہ رونما ہوتا ہے؟ امریکی ہوائیازوں نے اپنے خلائی جہازوں سے دیکھا ہے اور فوٹو بھی اس چیز کے زمین سے بہت فاصلہ پر لیتی چاند سے کھینچے ہیں، انہوں نے دیکھا کہ سورج کس طرح مستقل طور پر زمین کی سطح کے نصف کو جو اس کی طرف ہوتا ہے روشن کرتا اور کرہ کا دوسرا نصف تاریکی میں رہتا ہے۔ زمین اپنے محور پر گردش کرتی ہے اور روشنی وہی رہتی ہے۔ چنانچہ نصف کرہ کی شکل کا کچھ رقبہ جو ہمیں گھنٹے میں زمین کے چاروں طرف ایک چکر لگاتا ہے جبکہ دوسرا نصف کرہ جو تاریکی میں رہ چکا ہے وہ بھی وہی چکر اتنے ہی وقت میں پورا کر لیتا ہے۔ رات اور دن کے اس مستقل دور کو قرآن میں نہایت واضح طور پر بیان کیا گیا ہے۔ اس تصور کو گرفت میں لانا آجکل فہم انسانی کے لیے آسان ہے اس لیے کہ سورج کے اضافی طور پر غیر متحرک ہونے اور زمین کے گردش کرنے کا ہمیں اس وقت تصور ہے۔ متواتر لپیٹنے کا یہ عمل بشمول ایک علاقہ کے دوسرے میں پڑے جانے کا سلسلہ قرآن میں بالکل اس طرح بیان ہوا ہے گویا اس وقت زمین کی گولائی کا نظریہ پہلے سے مان لیا گیا تھا۔ حالانکہ حقیقتاً یہ بات نہیں تھی۔

دن اور رات کے تواتر پر جو خیالات ظاہر کیے گئے ہیں اس کے بارے میں قرآن کی بعض آیات کے حوالہ سے مزید یہ خیال بھی پیش کرنا پڑے گا کہ ایک سے زیادہ مشرق ہیں اور ایک سے زیادہ مغرب۔ یہ خالص بیان کی دلچسپی کے لیے ایک چیز ہے اس لیے کہ یہ حوادث انتہائی درجہ کے عام مشاہدات پر مبنی ہیں۔ یہاں اس خیال کو محض اس مقصد سے پیش کیا گیا ہے کہ اس موضوع پر قرآن جو کچھ بیان کرنا چاہتا ہے اس کو امکانی حد تک دیانتداری سے دہرا دیا جائے۔

ذیل میں مثالیں دی جاتی ہیں:-

سورۃ ۷۰، آیت ۴ میں یہ عبارت ہے۔
 فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ
 إِنَّا لَقَدِرُونَ عَلَىٰ أَنْ نُبَدِّلَ
 خَيْرًا مِّنْهُمْ۔

میں قسم کھاتا ہوں مشرقوں اور مغربوں کے
 مالک کی۔ ہم اس پر قادر ہیں کہ ان کی جگہ ان سے
 بہتر لوگ لے آئیں۔

سورۃ ۵۵، آیت ۷ میں یہ مضمون اس طرح ہے:-
 رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ۔
 سورۃ ۴۳، آیت ۳۸ میں دونوں مشرقوں کے درمیانی فاصلہ کا حوالہ دیا گیا ہے:-
 حَتَّىٰ إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَلَيْتَ
 بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ
 فَيُتْسَى الْقَرْيُنُ

دو مشرقوں کا مالک اور دو مغربوں کا مالک۔
 یہاں تک کہ جب یہ شخص ہمارے یہاں پہنچے گا
 تو کہے گا "کاش میرے اور تیرے (شیطان)
 کے درمیان مشرق و مغرب کا بعد ہوتا، تو تو
 بدترین ساتھی نکلا۔

کوئی شخص جو طلوع شمس اور غروب شمس کا بغور مشاہدہ کرتا ہے وہ جانتا ہے کہ موسم کے
 مطابق سورج مشرق کے مختلف نقطوں سے نکلتا ہے اور مغرب کے مختلف نقطوں پر ڈوبتا ہے
 ہر دو افق پر اس کے میلانات ان انتہائی حدود کا تعین کرتے ہیں جو دو مشرقوں اور دو مغربوں کی نشاندہی
 کرتی ہیں اور ان کے درمیان وہ نقطے ہیں جن کا تعین پورے سال کے دوران کیا جاتا ہے۔ جو
 واقعہ یہاں بیان کیا گیا ہے وہ نہایت عام ہے۔ لیکن اس باب میں جو باتیں زیادہ توجہ کی مستحق ہیں
 وہ دیگر عنوانات ہیں جو بیان کیے جاتے ہیں اور جن میں قرآن میں بیان کردہ فلکیاتی واقعات کا بیان
 جدید تحقیقات سے پوری مطابقت رکھتا ہے۔

(د) آسمانوں کا ارتقاء

کائنات کی تشکیل کے جدید نظریہ کو ذہن نشین کرانے کے بعد اس ارتقاء کا حوالہ دیا گیا تھا۔
 جو ابتدائی سدیم سے شروع ہو کر رونما ہوا، پھر کہکشاؤں اور ستاروں کی تشکیل اور نظام شمسی
 کے لیے اس کے ارتقاء کے کسی مرحلہ میں سورج سے شروع ہو کر سیاروں کا ظہور ہوا۔ جدید
 تحقیقات سے ہماری رہنمائی اس یقین تک ہوتی ہے کہ نظام شمسی اور زیادہ عمومیت کے ساتھ خود
 کائنات میں یہ ارتقاء ہنوز جاری ہے۔

کوئی شخص جو ان خیالات و نظریات سے باخبر ہے، قرآن میں پائے جانے والے ان بیانات سے ان چیزوں کا موازنہ کرنے میں کیسے ناکام رہ سکتا ہے۔ جن میں اللہ تعالیٰ کی قدرتِ کاملہ کا اظہار ہوتا ہے۔

قرآن ہمیں بار بار اس بات کی یاد دہانی کراتا ہے کہ ”كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى (اس سارے نظام کی ہر چیز ایک وقت مقرر تک کے لیے چل رہی ہے)

یہ فقرہ سورۃ ۱۳، آیت ۲، سورۃ ۳۱، آیت ۲۹، سورۃ ۳۵، آیت ۱۳ اور سورۃ ۳۹، آیت ۵ میں دکھائی دیتا ہے۔

اس کے علاوہ ”ٹھکانے“ کا تصور ایک منزل کے نظریہ کے ساتھ وابستہ کر کے سورۃ ۳۲، آیت ۳۸ میں ظاہر کیا گیا ہے۔

”الشمس تجرئی لمستقر لهما ذلك تقدیر العزیز العلیم (اور سورج اپنے ٹھکانے کی سمت دوڑا چلا جا رہا ہے۔ یہ زبردست علیم ہستی کا باندھا ہوا حساب ہے) ٹھکانا، لفظ مستقر کا ترجمہ ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک ٹھیک ٹھیک جگہ کا تصور اس سے وابستہ ہے۔

جب ان بیانات کا مقابلہ جدید سائنس کی مصدقہ معلومات سے کیا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ بیانات اس معلومات کی کیسی ترجمانی کرتے ہیں۔

قرآن سورج کے ارتقاء کے لیے ایک انجام کا تعین کرتا ہے اور ساتھ ہی ایک ٹھکانے کا پتہ دیتا ہے اس میں چاند کے لیے بھی ایک ٹھکانے کا تعین کیا گیا ہے۔ ان بیانات کے ممکنہ مفاہیم کو سمجھنے کے لیے ہمیں یہ بات یاد رکھنی پڑے گی کہ جدید معلومات ستاروں کے ارتقاء کے بارے میں بالعموم اور سورج کے بارے میں بالخصوص کیا ہے اور اگر اس کو توسیع دی جائے تو اجرام سماوی کے متعلق جو خود بخود اس کی معیت میں خلا کے اندر سفر کر رہے ہیں جن میں چاند بھی شامل ہے۔ اس سے ہمیں کیا اطلاع ملتی ہے۔

سورج ایک ستارہ ہے جو تقریباً ۴۴ ارب سال پرانا ہے جیسا کہ ماہرین نجومی طبیعیات کا خیال ہے۔ دیگر تمام ستاروں کی طرح اس کے ارتقاء میں بھی ایک مرحلہ کا تعین کرنا ممکن ہے، فی الوقت سورج اپنے ابتدائی مرحلہ ہے جس کی خصوصیت یہ ہے کہ ہائیڈروجن کے جوہر ٹوٹ پھوٹ کر ہیلیم کے جوہروں میں تبدیل ہو رہے ہیں۔ نظری طور پر کہہ سکتے ہیں کہ ان حسابات کے بموجب جن کے مطابق اس قسم کے ستاروں کے ابتدائی مرحلہ کے لیے مدت مجموعی طور پر دس ارب سال قرار دی جاتی ہے

اس کے موجودہ مرحلہ کو اختتام تک پہنچنے کے لیے مزید لہر ۵ ارب سال لگنے چاہئیں، یہ بات دوسرے ستاروں کے سلسلہ میں پہلے ہی ظاہر کی جا چکی ہے کہ اس مرحلہ سے ایک دوسرا دور شروع ہوتا ہے جس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں ہائیڈروجن کی ہلیم میں تبدیلی کا عمل مکمل ہو چکتا ہے۔ جس کے نتیجہ میں سورج کے بیرونی پرتوں کا پھیلاؤ اور اس کے ٹھنڈے ہونے کا عمل ظہور پذیر ہوتا ہے، آخری مرحلہ وہ ہے جب اس کی روشنی بہت گھٹ جاتی اور کثافت بید بڑھ جاتی ہے، یہ بات اس نوع کے ایک ستارے میں دکھائی دیتی ہے جس کو "سفید بونا" کہتے ہیں

مذکورہ بالا تاریخیں صرف اس لیے دلچسپی کی چیز ہیں کہ ان سے اس زمانہ کا کچھ موٹا سا اندازہ ہو جاتا ہے جس کا اس مسئلہ سے تعلق ہے لیکن اس سلسلہ میں خاص بات جو یاد رکھنے کی ہے وہ ہے ارتقا کا تصور۔ جدید معلومات سے ہمیں پیشگوئی کرنے میں مدد ملتی ہے کہ چند ارب سالوں میں نظام شمسی کی وہ حالت قائم نہیں رہے گی جو آج ہے۔ دوسرے ستاروں کی طرح جن کی تبدیلیوں کا ان کے آخری مرحلہ تک پہنچنے کا حساب لگایا جا چکا ہے، سورج کے اختتام کی بھی پیشگوئی کرنا ممکن ہو گیا ہے۔

دوسری آیت جو اوپر درج کی گئی ہے (سورۃ ۳۶، آیت ۳۸) سورج کے اپنے مستقر (ٹھکانے) کی جانب رواں دواں ہونے کی طرف اشارہ کرتی ہے۔

جدید فلکیات نے اس کا ٹھیک ٹھیک تعین بھی کر لیا ہے اور اس کو اس الشمس (سولر اسپیس) کا نام بھی دے دیا گیا ہے۔ فی الحقیقت نظام شمسی خلا میں ایک ایسے نقطہ کی جانب رواں دواں ہے جو مجمع النجوم الجاث (الف شلیاق) میں واقع ہے اور جس کی صحیح جگہ کا پوری طرح تعین کر لیا گیا ہے۔ اس بات کا پتہ چلا لیا گیا ہے کہ یہ ۱۲ میل فی سیکنڈ (۲۰۰۰۰۰ میل فی گھنٹہ) کی رفتار سے حرکت کر رہا ہے

یہ تمام فلکیاتی معلومات اس بات کی مستحق ہیں کہ ان کو قرآن کی ان دونوں آیتوں کے سلسلہ میں پیش کیا جائے۔ اس لیے کہ یہ بیان کرنا ممکن ہے کہ یہ آیات جدید سائنسی معلومات کے ساتھ پوری طرح مطابقت رکھتی ہوئی معلوم ہوتی ہیں۔

اے سفید بونا بننے کے بعد ستارہ اپنی توانائی کو نہایت تیزی سے ضائع کرتا ہے اور اس کو مزید توانائی حاصل نہیں ہوتی۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ستارہ ٹھنڈا ہو کر روشنی خارج کرنا بند کر دیتا ہے اور ایک تاریک کرہ کی شکل اختیار کر کے فضا کے بسیط میں تیرتا رہ جاتا ہے۔ یہی گویا اس ستارے کا مرحلہ مات ہے (مترجم)

کائنات کا پھیلاؤ

کائنات کا پھیلاؤ جدید سائنس کی سب سے مرعوب کن دریافت ہے اس وقت یہ ایک نہایت مستحکم تصور ہے اور بحث صرف اس بات پر مرکوز ہے کہ یہ امر کس طرح انجام پاتا ہے۔ اس بات کی جانب پہلے پہل اضافیت کے عام نظریہ نے ذہن کو منتقل کیا تھا اور اب کھکشانی طیف کے جائزے کے بعد علم طبیعیات سے اس کی تائید ہو رہی ہے، ان کے طیف کے سرخ حصہ کی جانب باقاعدہ حرکت کی تشریح اسی نظریہ کی مدد سے کی جاسکتی ہے کہ ایک کھکشانی دوسری سے دور ہٹتی جا رہی ہے۔ اس طرح کائنات کی جسامت بھی غالباً بڑھتی جا رہی ہے اور کھکشائیں ہم سے جتنی دور ہیں اتنا ہی یہ اضافہ بھی زیادہ ہوتا جائے گا۔ جن رفتاروں سے یہ اجسام سماوی حرکت کر رہے ہیں، اس سلسل پھیلاؤ کے دوران وہ روشنی کی رفتار کی کمروں سے گزر کر اس سے بھی زیادہ رفتاروں میں منتقل ہو جائیں گی۔

قرآن کی مندرجہ ذیل آیت کا (سورۃ ۵۱، آیت ۴۷) جس میں باری تعالیٰ ہم کلام ہے، شاید جدید خیالات سے موازنہ کیا جاسکے:-

وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ
آسمان کو ہم نے اپنے زور سے بنایا ہے۔
اور ہم اس میں توسیع کر رہے ہیں۔

”آسمان“ لفظ ”سما“ کا ترجمہ ہے اور یہ قطعی طور پر پورا رائے ارضی عالم جو یہاں مقصود ہے۔ ”ہم اس میں توسیع کر رہے ہیں“ ترجمہ ہے ”موسعون“ کا جو فعل ”اوسع“ کا حال استمرار کا جمع کا سیغہ ہے۔ اوسع کے معنی وسیع کرنا ہیں، یعنی زیادہ کشادہ، وسعت دیا ہوا، پھیلا ہوا۔ بعض مترجمین جو مؤخر الذکر مفہوم کو سمجھنے سے قاصر تھے، ایسے ترجمے کرتے ہیں جو میرے نزدیک غلط ہیں۔ مثلاً ”ہم فیاضی کے ساتھ عطا کرتے ہیں“ رار۔ بلشیر، دوسرے اس مفہوم کی طرف اشارہ تو کرتے ہیں لیکن صاف صاف کہنے میں ہچکچاہٹ محسوس کرتے ہیں۔ حمید اللہ اپنے ترجمہ قرآن میں آسمانوں اور خلا کی توسیع کا ذکر تو کرتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ایک سوالیہ نشان کا اضافہ کر دیتے ہیں

اے ابھی تک سائنسدانوں کا نظریہ یہ ہے کہ روشنی کی رفتار سب سے زیادہ ہے اور جتنے اجرام سماوی ہمیں اس وقت نظر آتے ہیں یا آئندہ آسکتے ہیں ان کی رفتار روشنی سے کم ہے، اسی لیے یہ ممکن ہے کہ ہم ان کو دیکھ سکیں، لیکن بعید ترین معروضات کی ہمارے معائنات میں رفتار روشنی سے بھی زیادہ ہے اس لیے ہم ان کو کبھی نہیں دیکھ سکیں گے۔ (مترجم)

آخر میں وہ لوگ ہیں جو مصدقہ سائنسی رائے سے اپنی تفسیروں کو تقویت پہنچاتے اور وہ مفہوم بیان کرتے ہیں جو اوپر دیا گیا ہے۔ یہ بات "منتخب" کے معاملہ میں صحیح ہے جو اسلامی امور کی اعلیٰ کونسل قاہرہ نے مرتب کی ہے۔ اس میں کلیتہً غیر مبہم الفاظ میں کائنات کے پھیلاؤ کا ذکر کیا گیا ہے۔

۱۱) خلا کی تسخیر

اس نقطہ نظر سے قرآن کی تین آیتوں پر ہماری پوری توجہ مرکوز ہونی چاہیے، ان میں سے ایک بغیر کسی ابہام کے اس بات کا اظہار کرتی ہے کہ انسانوں کو اس میدان میں کیا چیز حاصل کرنی چاہیے اور کیا وہ حاصل کرے گا۔ باقی دو میں اللہ تعالیٰ منکرین مکہ کی خاطر فرماتا ہے کہ انہیں کس قدر حیرت ہوگی اگر وہ خود کو آسمانوں کی بلندیوں تک پہنچا سکے۔ وہ ایک کی تمثیل دیتا ہے جس کو مؤخر الذکر محسوس نہیں کرے گا۔

(۱) ان آیات میں سے سب سے پہلی سورت ۵۵ کی آیت ۳۳ ہے:-

يَمَعُشَرِ الْجِبِّ وَالْإِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
فَأَنْفُذُوا وَلَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطٰنٍ هـ اے گروہ جن وانس، اگر تم زمین اور آسمانوں کی
سرحدوں سے نکل کر بھاگ سکتے ہو تو بھاگ دیکھو، نہیں بھاگ سکتے۔ اس کے لیے بڑی قوت کی
ضرورت ہے۔

۱) خلا سے مراد مکان کا وہ حصہ ہے جس میں مادہ کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے۔ زمین سے چند میل اوپر تک خلا کا وہ حصہ جس میں ہوا ہے کرۂ باد کہلاتا ہے پھر نہایت دور تک خلا ہے جس میں مختلف نوعیت کے اجرام سماوی تیر رہے ہیں، بیشتر مجامع النجوم، عنقود نجوم، سماجیے اور سدیم پھیلے ہوئے ہیں۔ اس حصہ کی حدود کا تعین نہ ابھی تک ہو سکا ہے اور نہ کبھی ہو سکے گا۔ کیونکہ بے انتہا وسعت کے باوجود اس میں نہایت تیزی سے پھیلاؤ ہو رہا ہے۔ اس لیے اس کا آخری سر اور رٹھتا جا رہا ہے، لہذا اس کے متعلق یہ کہنا کہ وہ اتنی دور ہے ناممکن ہے۔ ایسی صورت میں اس سب کی تسخیر ناممکن ہے۔ صرف تھوڑی دور تک اس میں صعود کیا جاسکتا ہے۔ جس طرح کہ کچھ لوگ چاند کی سطح کو چھو آئے۔

۲) ہمارے نزدیک اس آیت کا انطباق خلائی پروازوں پر نہیں ہوتا اور نہ خلا کی تسخیر سے اس کا کوئی تعلق ہے۔ پیرایہ بیان ایسا ہے جس سے صاف طور پر پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن وانس کو بتا دیا ہے کہ ہر جگہ اسی کی بادشاہی ہے، لہذا اس کی عبودیت و بندگی کا اعتراف کرنا ضروری ہے۔ اگر تم اس کی بادشاہی سے نکل کر کہیں اور پناہ لینے کے چکر میں ہو تو یہ تمہاری خام خیالی ہے۔ جب کل کائنات اسی کی ہے تو اس سے نکل کر کہاں جاؤ گے۔ ظاہر ہے کہ کہیں نہیں جاسکتے (باقی برصغیر)

جو ترجمہ یہاں دیا گیا ہے اس کے لیے کچھ تشریحی رائے زنی درکار ہے۔

(ا) لفظ "اف" انگریزی میں اور لفظ "اگر" اردو میں ایک ایسی شرط ہے جس کا اختصار ایک امکان پر اور قابل حصول یا ناقابل حصول مفروضہ پر ہے۔ عربی ایک ایسی زبان ہے جو اس شرط کے جو بے انتہا واضح ہے، نہایت نازک فرق کو پیش کر سکتی ہے۔ وہاں ایک لفظ (اذا) امکان کو ظاہر کرنے کے لیے ہے، ایک دوسرا لفظ (ان) قابل حصول مفروضہ کو اور ایک تیسرا لفظ (اَوْ) ناقابل حصول مفروضہ کو۔ زیر غور آیت میں ایک قابل حصول مفروضہ ہے جس کو لفظ (ان) سے ظاہر کیا گیا ہے۔ لہذا قرآن ایک مرئی عمل پذیر کی مادی امکان کو سمجھاتا ہے۔ یہ دقیق لسانی فرق اس خالص صوفیانہ توضیح و تشریح کو قواعد کے ذریعہ مسترد کر دیتا ہے۔ جو کچھ لوگوں نے (بالکل غلط طریقہ سے) اس آیت کی، کی ہے۔

(ب) خدا جن وانس کو مخاطب کر رہا ہے اور بتیادی طور پر یہ تمثیلی صورتیں نہیں ہیں۔
(ج) گھٹنا یا آر پار جانا۔ فعل "نَفَذَ" کا ترجمہ ہے۔ جس کے بعد حرف جار "من" آیا ہے۔
"قاضی مرکی" کی لغت کے بموجب اس محاورہ کا مطلب ہے "آر پار جانا اور کسی جسم کے دوسری طرف

(بقیہ حاشیہ) گویا انسان کو اس معاملہ میں مجبور بتایا گیا ہے۔ سید ابوالاعلیٰ مودودی نے بھی اس آیت کا ترجمہ کر کے یہ حاشیہ دیا ہے "زمین اور آسمانوں سے مراد ہے کائنات یا الفاظ دیگر خدا کی خدائی، آیت کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی خدائی سے بچ نکلنا تمہارے بس میں نہیں ہے۔ جس باز پرس کی تمہیں خبر دی جا رہی ہے۔ اس کا دقت آنے پر تم خواہ کسی جگہ بھی ہو، بہر حال پکڑ لائے جاؤ گے اس سے بچنے کے لیے تمہیں خدا کی خدائی سے بچ کر بھاگ نکلنا ہوگا اور اس کا بل بوتہ تم میں نہیں ہے، اگر ایسا گھنڈ تم اپنے دل میں رکھتے ہو تو اپنا زور لگا کر دیکھ لو" (مترجم)

اے مصنفِ علام کی اس تحقیقی ایت کے باوجود آیت کے اس مفہوم کو صحیح سمجھنا ممکن نہیں ہے جو وہ بتاتے ہیں کیونکہ آیت مذکورہ کا سیاق و سباق اور طرز بیان اس مفہوم پر دلالت نہیں کرتے اور نہ اس کا تمام سورت کے مضمون سے ربط قائم ہوتا ہے۔ گمراہی کے موجودہ قواعد آغاز اسلام کے بہت بعد میں مرتب ہوئے۔ لہذا قرآن کا اس کے برعکس سے مطابق ہونا ضروری نہیں، نزول کے وقت اہل زبان جس طرح بولتے تھے قرآن نے اسی طرز کا خیال رکھا اور ظاہر ہے کہ بعد میں بعض قواعد مختلف ہو گئے، اس لیے ہر جگہ قرآن میں ان کا انطباق کسی طرح بھی مناسب نہیں۔ علاوہ ازیں اس مفہوم کو تسلیم کرنے سے قرآن کی عبارت میں جو بے ربطی قائم ہوتی ہے اس کو دیکھتے ہوئے بھی یہی مناسب معلوم ہوتا ہے کہ قدیم مفسرین کے ترجمہ اور تفسیر کو صحیح سمجھا جائے۔ اگر ہم نفوذ کے یہ معنی لیں جیسا کہ مصنف نے خود کہا ہے، کہ کسی چیز کے آر پار ہو کر دوسری طرف نکل جانا، تو کائنات کی وسعت کو دیکھتے ہوئے یہ بات ناممکن ہے پھر جب ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ کائنات نہایت تیزی سے پھیل رہی ہے (باقی بر صفحہ آئندہ)

نکل جانا“ (مثلاً کوئی تیر جو دوسری طرف نکل آئے) لہذا یہ لفظ اقطار زیر غور میں نہایت گہرے نفوذ اور ظہور پر دلالت کرتا ہے۔

(۱) قوت و سلطان ان لوگوں کو حاصل کرنا ہوگی اور یہ کارِ عظیم بظاہر قادر مطلق کی قدرت سے انجام پائے گا۔

اس بات میں کوئی شک نہیں رہ جاتا کہ یہ آیت اس امکان کو ظاہر کرتی ہے کہ ایک دن انسان وہ مقصد حاصل کرے گا جس کو آج ہم (غالباً غیر موزوں طریقہ پر) ”خلا کی تسخیر“ کا نام دیتے ہیں۔ یہاں یہ بات ذہن نشین کر لیتی چاہیے کہ قرآن کا متن نہ صرف اقطار السموات کے بیچ سے نفوذ کی پیشینگوئی کرتا ہے بلکہ ”ارض“ کے بیچ سے بھی نکل جائے یعنی اس کی گہرائیوں کی دریافت کا بھی پتہ دیتا ہے۔

(۲) دوسری دو آیتیں سورۃ ۱۵ سے لگی ہیں دآیت ۱۴ اور آیت ۱۵ اللہ تعالیٰ مشرکین مکہ سے ارشاد فرماتا ہے جیسا کہ محولہ بالا سورت میں اس عبارت کے سیاق سے پتہ چلتا ہے۔

”وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ ۚ لَقَالُوا إِنَّمَا سَكْرَاتُ
أَبْصَارِنَا بِلِ نَحْنُ قَوْمٌ مَّسْحُورُونَ ۗ“

(ترجمہ) اگر ہم ان پر آسمان کا کوئی دروازہ کھول دیتے اور وہ دن دھاڑے اس میں چڑھنے بھی لگتے تب بھی وہ یہی کہتے کہ ہماری آنکھوں کو دھوکا ہو رہا ہے بلکہ ہم پر جادو کر دیا گیا ہے۔

مذکورہ بالا بیان سے ایک عجیب و غریب نظارہ پر تحریر کا اظہار کیا گیا ہے۔ یہ نظارہ اس سے مختلف ہے جو کوئی بشر تصور میں لا سکتا ہے۔

شرطیہ جملہ یہاں لفظ ”لو“ سے شروع کیا گیا ہے جس میں ایک ایسے مفروضہ کا اظہار ہے جو ان لوگوں کے لیے کبھی حقیقت کا جامہ نہیں پہن سکتا تھا جن کا ان آیات میں ذکر ہے۔

لہذا جب خلا کی تسخیر پر گفتگو کی جاتی ہے تو ہمیں قرآن کے متن میں دو عبارتیں ملتی ہیں۔ ان میں سے

(بقیہ حاشیہ) تناسل کا امکان بالکل ہی ختم ہو جاتا ہے۔ البتہ یہ بات کہی جاسکتی ہے کہ قرآن نے خلا یا فضا میں انسان کے صعود کرنے کی کہیں نفی نہیں کی ہے لہذا موجودہ دور کی خلائی پروازوں سے اس کے کسی بیان کی تفسیر نہیں ہوتی۔ خلا بازوں کا چاند یا سیاروں تک پہنچ جانا کائنات کی تسخیر کے ذیل میں نہیں آتا۔


۱۵ یہ آیت اللہ کی نعمتوں کو تسلیم کرنے کے لیے ایک دعوت ہے۔ یہ اس پوری سورت کا مضمون ہے جس کا عنوان ہے ”رحمن“ (مصنف) ۱۶ قوسین میں یہ مختصر سا فقرہ دے کر مصنف نے خود کو اس فریب خوردگی سے بچایا ہے جس میں اکثر لوگ مبتلا ہیں اور چند آدمیوں کے چاند پر ہونے کو نہ صرف خلا کی تسخیر کا نام دیتے ہیں بلکہ کائنات کی تسخیر قرار دیتے ہیں (مترجم)

ایک وہ ہے جو اس بات کی اطلاع دیتی ہے جو فہم و ذکا کی ان قوتوں کی بدولت جو اللہ تعالیٰ انسان کو عطا کرے گا، حقیقت بن کر سامنے آجائے گی۔ دوسری اس واقعہ کا ذکر کرتی ہے جو منکرین مکہ کے مشاہدہ میں کبھی نہیں آئے گا، لہذا یہ شرط کی وہ نوعیت ہے جو کبھی حقیقت کے لباس میں جلوہ گر نہیں ہوگی۔ تاہم اس واقعہ کو دوسرے لوگ دیکھیں گے، جیسا کہ مذکورہ بالا پہلی آیت میں بتایا گیا ہے اس میں ان غیر متوقع مناظر پر انسانی رد عمل کا ذکر کیا گیا ہے جو خلا کے مسافروں کے مشاہدہ میں آئیں گے، ان کی مبہوت و مسحور بینائی جیسی کہ خمار بادہ کی حالت میں ہوتی ہے اور سحر زدگی کا احساس.....

یہ ٹھیک وہی چیز ہے جس کا تجربہ ۱۹۶۱ء میں دنیا کے گرد پہلی انسانی خلائی پرواز کے وقت سے خلا بازوں کو ہوا ہے۔ یہ بات بطور حقیقت نفس الامری معلوم ہوتی ہے کہ کس طرح جب کوئی شخص کرہ باد میں کچھ بلندی پر پہنچ جاتا ہے تو آسمان اس طرح نیلگوں دکھائی نہیں دیتا جس طرح کہ اس کا ہمیں زمین سے مشاہدہ ہوتا ہے۔ یہ نیلگوئی نتیجہ ہے اس چیز کا کہ کرہ باد کے طبقات سورج کی روشنی کو جذب کر لیتے ہیں۔ زمین کے کرہ باد سے اوپر خلا میں پہنچ جانے والے انسان کو ایک سیاہ آسمان کا مشاہدہ ہوتا ہے اور زمین ایک نیلے رنگ کے ہالہ میں لپٹی ہوئی دکھائی دیتی ہے جس کا سبب زمین کے کرہ باد کے روشنی کو جذب کر لیتے کا حادثہ ہوتا ہے لیکن چاند کا کوئی کرہ باد نہیں ہے اور اس لیے کرہ ارض، آسمان کے سیاہ پس منظر میں اپنے اصلی رنگوں کے ساتھ دکھائی دیتا ہے، لہذا یہ ایک بالکل ہی نیا منظر ہوتا ہے جو خلا میں انسان کی آنکھوں کے آگے آتا ہے۔ موجودہ دور کے انسان کے لیے اس منظر کے فوٹو گراف نہایت معروف شے ہیں۔

یہاں پھر یہ بات مشکل ہو جاتی ہے کہ جب قرآن کے متن کا جدید سائنس کی معلومات سے مقابلہ کیا جائے تو ان بیانات کو دیکھ کر کوئی شخص متاثر نہ ہو جن کو محض کسی ایسے انسان کے خیالات سے منسوب کر دیا جائے، جس کا دور اب سے چودہ صدیوں سے زیادہ قبل کا ہے۔





باب پنجم

زمین

جیسا کہ ان مضامین کا معاملہ ہے جن کا جائزہ پہلے لیا جا چکا ہے، قرآن کی وہ آیات جن میں زمین کا ذکر ہے۔ اکتاب میں منتشر حالت میں پائی جاتی ہیں، ان کی درجہ بندی کرنا مشکل ہے اور جو طریقہ یہاں برتا جا رہا ہے وہ ایک ذاتی چیز ہے۔

ان کو زیادہ وضاحت سے بیان کرنے کے لیے چند وہ آیات علیحدہ کی جائیں جن میں بیک وقت کئی مضامین بیان کیے گئے ہیں۔ یہ آیتیں اپنے اطلاق و استعمال کے اعتبار سے بالکل عام ہیں اور ان میں انسانوں کو دعوت دی گئی ہے کہ وہ فراہم کردہ مثالوں پر غور کر کے خدا کی شان کریمہ پر دھیان دیں۔

ان آیات کا دوسرا مجموعہ علیحدہ کیا جاسکتا ہے جن میں زیادہ مخصوص مضامین سے بحث کی گئی ہے۔ جیسا کہ ذیل میں درج ہے۔

— پانی کا دور اور سمندر۔

— سطح زمین کے نشیب و فراز۔

— زمین کا کرہ باد۔

(الف) وہ آیتیں جن میں عام بیانات ہیں۔

اگرچہ یہ وہ آیتیں ہیں جن میں وہ شواہد فراہم کیے گئے ہیں جن کا مقصد انسان کو یہ ہدایت دینا ہے کہ وہ اللہ کے اس کرم بے نہایت پر غور کریں جو اس کا اپنی مخلوقات پر ہے تاہم کہیں کہیں ان میں ایسے بیانات بھی ہیں جو جدید سائنس کے نقطہ نظر سے دلچسپ ہیں۔ غالباً وہ اس اعتبار سے بالخصوص چونکا دینے والے ہیں کہ ان میں قدرتی حوادث سے متعلق ان متنوع عقائد کا اظہار کہیں نہیں ہوا ہے، جو نزول قرآن کے وقت رائج تھے، آئندہ چل کر سائنسی معلومات سے ان کا ابطال ہونا تھا۔

ایک طرف ان آیات میں وہ سیدھے سادے خیالات بیان کیے گئے ہیں جو جغرافیائی اعتبار سے ان لوگوں کی سمجھ میں آسانی سے آجاتے ہیں جو قرآن کے مخاطب اول ہیں، یہ مکہ اور مدینہ کے باشندے اور جزیرہ نما عرب کے بدو لوگ ہیں، دوسری جانب ان میں عام نوعیت کے وہ رموز و نکات شامل ہیں

جن سے کسی زمانہ اور کسی مقام کے بھی زیادہ مہذب اور ترقی یافتہ لوگ، جب وہ ان پر ایک بار غور کرنا شروع کر دیں تو کچھ نہ کچھ سبق آموز باتیں سیکھ جائیں۔ یہ چیز قرآن کے آفاقی ہونے کی ایک علامت ہے۔

چونکہ قرآن میں ایسی آیتوں کی بظاہر کوئی درجہ بندی نہیں ہے لہذا ان کو یہاں سورتوں کی عددی ترتیب سے پیش کیا جا رہا ہے۔

— سورة ۲، آیت ۲۲ —

وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کا فرش
بچھایا، آسمان کی چھت بنائی، اوپر سے پانی
برسایا اور اس کے ذریعہ سے ہر طرح کی
پیداوار نکال کر تمہارے لیے رزق بہم پہنچایا
پس جب تم یہ جانتے ہو تو دوسروں کو اللہ کا
مد مقابل نہ ٹھہراؤ۔

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا
وَالسَّمَاءَ بِنَاءً ۖ وَأَنزَلَ مِنَ
السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ
الثَّمَرَاتِ رِزْقًا تَلَكُمُ جَزَاءُ
تَجَعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا ۖ وَأَنتُمْ
تَعْلَمُونَ

— سورة ۲، آیت ۱۶۴ —

جو لوگ عقل سے کام لیتے ہیں ان کے لیے
آسمانوں اور زمین کی ساخت میں رات اور دن
کے پیہم ایک دوسرے کے بعد آنے میں، ان کشتیوں
میں جو انسان کے نفع کی چیزیں لیے ہوئے دریاؤں
اور سمندروں میں چلتی پھرتی ہیں، بارش کے
اس پانی میں جسے اللہ اوپر سے برساتا ہے پھر
اس کے ذریعہ مردہ زمین کو زندگی بخشتا ہے
اور اپنے اسی انتظام کی بدولت، زمین میں ہر قسم
کی جاندار مخلوق کو پھیلاتا ہے، ہواؤں کی گردش
میں، اور ان بادلوں میں جو آسمان اور زمین
کے درمیان تابع فرمان بنا کر رکھے گئے ہیں
بے شمار نشانیاں ہیں۔

إِنِّي خَلَقْتُ السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ
وَأَخْتَلَفُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۚ
أَلْفُلُكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ
بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ ۚ وَمَا
أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ
مَاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ
مَوْتِهَا ۚ وَبَثَّ فِيهَا مِنْ
كُلِّ دَابَّةٍ ۚ وَتَصْرِيفِ الرِّيْحِ
وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ
السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لِقَوْمٍ
يَعْقِلُونَ ۚ

— سورة ۱۳، آیت ۳ —

اور وہی ہے جس نے یہ زمین پھیلا رکھی ہے۔
اس میں پہاڑوں کے کھونٹے گاڑ رکھے ہیں اور
دریا بہا دیئے ہیں، اسی نے ہر طرح کے پھلوں
کے جوڑے پیدا کیے ہیں اور وہی دن پر رات
طاری کرتا ہے۔ ان ساری چیزوں میں بڑی
نشانیوں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر
سے کام لیتے ہیں۔

وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ
وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا
وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ
فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ
يُغْشَى اللَّيْلَ النَّهَارَ إِنَّ
فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

— سورة ۱۵، آیات ۱۹ تا ۲۱۔ باری تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔

ہم نے زمین کو پھیلا یا۔ اس میں پہاڑ چلائے
اس میں ہر نوع کی نباتات ٹھیک ٹھیک بنی تلی
مقدار کے ساتھ لگائی اور اس میں معیشت
کے اسباب فراہم کیے تمہارے لیے بھی اور ان
بہت سی مخلوقات کے لیے بھی جن کے رازق تم
نہیں ہو مگر وہی چیز ایسی نہیں ہے جس کے خزانے
ہمارے پاس نہ ہوں اور جس چیز کو بھی ہم نازل
کرتے ہیں، ایک مقدار مقرر میں نازل کرتے ہیں

وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا
فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا
مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّمُونُونَ وَجَعَلْنَا
لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ
لَهُ بِرِزْقِينَ هَ وَإِنْ مِنْ
شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ
وَمَا نُنزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ
مَّعْلُومٍ

— سورة ۲۰، آیات ۵۳، ۵۴۔

وہی (خدا ہے) جس نے تمہارے لیے زمین کا
فرش بچھایا اور اس میں تمہارے چلنے کو
راستے بنائے اور اوپر سے پانی برسایا، پھر
اس کے ذریعے سے مختلف اقسام کی پیداوار
نکالی، کھاؤ اور اپنے جانوروں کو سبھی چھراؤ
یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں عقل رکھنے
والوں کے لیے ہیں۔

الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ مَهْدًا
وَسَلَّكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَ
أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً
فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْ
نَبَاتٍ شَتَّى هُكُلُوا وَارْعَوْا
أَنْعَامَكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ
لِّأُولِي الْأَلْبَابِ

— سورة ۲۷، آیت ۶۱۔

اور وہ کون ہے جس نے زمین کو جائے قرار بنایا

أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَ

اور اس کے اندر دریا رواں کیے اور اس میں
رہاڑوں کی میخیں گاڑ دیں اور پانی کے دو ذخروں
کے درمیان پر دے حائل کر دیئے؟ کیا اللہ کے
ساتھ کوئی اور خدا بھی (ان کاموں میں شریک) ہے
نہیں، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ نادان ہیں۔

جَعَلَ خِلْفَهَا انْهَرًا اَوْ جَعَلَ
لَهَا رَواسِي وَ جَعَلَ بَيْنَ
الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا ؕ اِنَّ
مَعَ اللّٰهِ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا
يَعْلَمُوْنَ ؕ

یہاں زمین کے قشر کے عام استحکام کا حوالہ دیا گیا ہے۔ یہ معلوم ہے کہ کہہ ارض کی موجودگی کے
ابتدائی مدارج میں قشر ارض کے ٹھنڈا ہونے سے قبل مؤخر الذکر غیر مستحکم تھا۔ تاہم قشر ارض کا استحکام
کامل طور پر یکساں نہیں ہے۔ اس لیے کہ ایسے منطقات موجود ہیں جہاں زلزلے متواتر رونما ہوتے رہتے
ہیں۔ جہاں تک بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا (دو سمندروں کے درمیان پر دے کے حائل ہونے) کا تعلق
ہے، یہ ایک اشارہ ہے جس سے اس امر کا اظہار ہوتا ہے کہ بڑے بڑے دریاؤں کے پانی، اور
سمندر کے پانی، بعض بڑے بڑے دریاؤں کے دہانوں پر ایک دوسرے کے ساتھ مخلوط نہیں
ہو جاتے۔

— سورة ۶۷، آیت ۱۵۔

وہی تو ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے تابع
کر رکھا ہے، اس کی چھاتی پر چلو پھرو اور خدا کا
دیا ہوا رزق کھاؤ پیو، اسی کے حضور تمہیں دوبارہ
زندہ ہو کر جانا ہے۔

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْاَرْضَ
ذُلُوْلًا فَاَمْشُوا فِيْ مَنَاكِبِهَا
وَ كُلُوْا مِنْ رِّزْقِهٖ ؕ وَاِلَيْهِ
النُّشُوْرُ ؕ

— سورة ۷۹، آیات ۳۰ تا ۳۳۔

اس کے بعد زمین کو اس نے بچھایا، اس کے اندر
سے اس کا پانی اور چارا نکالا اور پہاڑ اس
میں گاڑ دیئے، سامانِ زلیست کے طور پر تمہارے
لیے اور تمہارے مویشیوں کے لیے۔

وَ الْاَرْضَ بَعْدَ ذٰلِكَ دَحٰىهَا
اَخْرَجَ مِنْهَا مَآءًا وَّمَرَعٰهَا
وَ الْجِبَالَ اَرْسٰهَا ؕ مَتَاعًا لَّكُمْ
وَ لَا نَعْمًا لَّكُمْ ؕ

ایسی ہی کئی آیتوں میں پانی اور زمین کی مٹی میں اس کی موجودگی کے عملی نتائج کی اہمیت پر زور دیا
گیا ہے۔ پانی کی موجودگی کا نتیجہ مٹی کی زرخیزی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ صحرائی علاقوں میں پانی
انسان کی بقا کے لیے سب سے زیادہ اہم شے ہے۔ لیکن قرآن میں اس کا حوالہ جغرافیائی تفصیلات سے
بھی آگے تک جاتا ہے۔ سائنسی معلومات کے مطابق کہہ ارض ایک ایسا سیارہ ہے جس کی یہ

خصوصیت کہ وہ پانی کی دولت سے مالا مال ہے اس کو نظام شمسی میں ایک انفرادیت بخشی ہے۔ اور ٹھیک یہی وہ بات ہے جس کو قرآن میں بہت نمایاں کیا گیا ہے، بغیر پانی کے زمین چاند کی طرح ایک بے جان سیارہ ہوتی، قرآن، زمین کے قدرتی نوامیس میں جن کا اس میں ذکر ہے۔ پانی کو سب سے پہلا درجہ عطا کرتا ہے۔ قرآن میں پانی کے دور کو نہایت صحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔

(ب) پانی کا دور اور سمندر

جب آج قرآن کی ان آیات کی تلاوت کی جاتی ہے جن کا تعلق انسانی زندگی میں پانی کے عمل سے ہے تو وہ سب ہمیں ان خیالات کو ظاہر کرتی ہوئی دکھائی دیں گی جو بالکل واضح ہیں، اس کی وجہ نہایت سادہ سی ہے، ہمارا زمانہ اور دور وہ ہے جب ہم سب، کم یا زیادہ پانی کے اس چکر سے

واقف ہیں جو قدرتی طور پر چل رہا ہے۔ لیکن اگر ہم ان مختلف تصورات پر غور کریں جو قدام اس موضوع سے متعلق قائم کیے ہوئے تھے تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ قرآن میں دی ہوئی معلومات وہ اساطیری تصورات نہیں ہیں جو نزول وحی کے وقت رائج تھے اور جو مشاہدہ شدہ حوادث کے مقابلہ میں فلسفیانہ تصورات کے مطابق پروان چڑھے تھے، اگرچہ یہ بات اوسط درجہ میں حاصل ہونا تجربی طور پر ممکن تھا۔ تاہم آبپاشی کی ترقی کے لیے جس عملی معلومات کی ضرورت تھی اور عام طور پر پانی کے دور کے متعلق جو تصورات قائم تھے وہ موجودہ زمانہ میں مشکل سے قابل قبول ہو سکتے تھے۔

اس طرح یہ تصور آسانی سے کیا جاتا رہا ہوگا کہ زیر زمین پانی، بارش کے پانی کے مٹی میں جذب ہونے سے حاصل ہوتا ہے، البتہ ازمنہ قدیم میں یہ نظریہ جو پہلی صدی قبل مسیح میں ویٹرووس پولیو مارکس نے روم میں قائم کیا تھا، ایک استثناء کے طور پر نقل کیا گیا تھا۔ اس لیے صدیوں تک (اور نزول قرآن اسی مدت کے دوران ہوا) پانی کے دور سے متعلق انسان کلیتہً غلط نظریات قائم کیے رہا۔

اس مضمون کے دو ماہرین جی گیٹینی اور بی، بلیو، یونیورسائز انسٹیٹیوٹ پیڈیا رافاتی دائرۃ المعارف، میں ہائیڈرو جیولوجی (ماطبات الارض) کے عنوان کے تحت اپنے اندراجات میں اس مسئلہ کی روحانی تاریخ اس طرح بیان کرتے ہیں:-

«ساتویں صدی قبل مسیح میں تھا لیس ملطوی کا نظریہ یہ تھا کہ سمندروں کا پانی، ہواؤں کے اثر سے براعظموں کے اندر کی جانب گھس پڑا، اس طرح پانی خشکی پر پڑا اور مٹی میں نفوذ کر گیا

..... افلاطون نے ان نظریات کو اپنایا اور بتایا کہ پانی کی سمندر کو واپسی ایک بڑے غار "ٹارٹیرس" کے ذریعہ ہوتی۔ اس نظریہ کی تائید کرتے والے بہت سے لوگ اٹھارہویں صدی عیسوی تک رہے ان ہی میں ایک رینے دے کارت تھا۔ ارسطو کا خیال تھا کہ مٹی کے اندر کا پانی جو بشل بھاپ ہوتا ہے کو ہستانی شگافوں میں پہنچ کر ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور زیر زمین جھیلوں کو جنم دیتا ہے، جن سے چشموں کو پانی بہم پہنچتا ہے۔ اس کی تقلید سینیکانے (پہلی صدی عیسوی میں) اور بہت سے دوسرے لوگوں نے کی اور یہ سلسلہ ۱۸۶۷ء تک چلتا رہا۔ ان لوگوں میں اور والگر شامل ہے۔ پانی کے دور کی اولین اور واضح ضابطہ سازی کا کام ۱۸۵۰ء میں برنارڈ پلوسی سے منسوب کیا جاتا ہے اس نے دعویٰ کیا تھا کہ زیر زمین پانی بارش سے حاصل شدہ ہوتا ہے جو مٹی میں جذب ہو جاتا ہے اس نظریہ کی توثیق سترھویں صدی میں ای میریٹ اور لی پیرو نے کی۔

قرآن کی حسب ذیل آیات میں ان غلط نظریات کا جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں رائج تھے، کوئی سراغ نہیں ملتا۔

— سورة ۵۰، آیات ۹ تا ۱۱ :-

اور آسمان سے ہم نے برکت والا پانی نازل کیا
پھر اس سے باغ اور فصل کے غلے اور بلند وبالا
کھجور کے درخت پیدا کر دیئے جن پر پھلوں سے
لوہے ہوئے خوشے تہ بہ تہ لگتے ہیں یہ انتظام
ہے بندوں کو رزق دینے کا اس پانی سے ہم ایک
مردہ زمین کو زندگی بخش دیتے ہیں دمرے ہوئے
انسانوں کا زمین سے نکلتا بھی اسی طرح ہوگا۔

وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً
مُبْرَكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَ
حَبَّ الْحَصِيدِ وَالنَّخْلَ
بِسِقِّ لَهَا طَلْعٌ نَّضِيدٌ
رِزْقًا لِلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ
بَلَدَةً مَيِّتًا كَذَلِكَ
الْخُرُوجُ ۝

— سورة ۲۳، آیات ۱۸ تا ۱۹ :-

اور آسمان سے ہم نے ٹھیک حساب کے مطابق
ایک خاص مقدار میں پانی اتارا اور اس کو زمین
میں ٹھیرا دیا، پھر اسے جس طرح چاہیں غائب
کر سکتے ہیں پھر اس پانی کے ذریعہ ہم نے تمہارے

وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ
فَأَسْكَنْتَهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا
عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ ۝
فَأَنْشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّنْ

لہ جہاں کہیں بھی قرآن کریم کی آیات میں "ہم" یا "ہم نے" استعمال ہوا ہے وہاں اس سے مراد خداوند کریم ہے۔

لیے کھجور اور انگور کے باغ پیدا کر دیئے اور تمھارے
لیے ان باغات میں بہت سے لذیذ پھل ہیں اور
ان سے تم روزی حاصل کرتے ہیں۔

تَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَّكُم فِيهَا
فَوَاكِهٌ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ۝

— سورة ۱۵، آیت ۲۲ —

بار آور ہواؤں کو ہم ہی بھیجتے ہیں، پھر آسمان سے
پانی برساتے ہیں اور اس پانی سے تمھیں
سیراب کرتے ہیں، اس دولت کے خزانہ دار
تم نہیں ہو۔

وَأَرْسَلْنَا الرِّيحَ كَوَاقِحَ فَأَنْزَلْنَا
مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنُكُمُوهُ
وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَزَائِنٍ ۝

اس آخری آیت کی دو ممکن تشریحات ہیں۔ بار آور ہواؤں سے مراد پودوں کی بار آوری ہو سکتی
ہے کیونکہ یہ ہواؤں ہی ان کے تخم لے جاتی ہیں، لیکن یہ ایک مجازی مفہوم ہو سکتا ہے جو تخیل کی راہ
سے ہوا کے اس کردار کی جانب اشارہ کرتا ہے جو یہ ہوا اس عمل میں ادا کرتی ہے۔ جس سے ایک
بارش نہ برسانے والا بادل، ابر مطیر میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس کردار کا اکثر حوالہ دیا گیا ہے جیسے
حسب ذیل آیات ہیں :-

— سورة ۳۵، آیت ۹ —

وہ اللہ ہی تو ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے پھر
وہ بادل اٹھاتی ہیں، پھر ہم اسے ایک اجاڑ
علاقہ کی طرف لیجاتے ہیں اور اس کے ذریعے سے
اس زمین کو جلا اٹھاتے ہیں جو مری پڑی تھی، مرنے
ہوئے انسانوں کا جی اٹھنا بھی اسی طرح ہوگا۔

وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ
فَتُغَيِّرُ سَحَابًا مَّقْنَنَةً إِلَى
بَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَحْيَيْنَا بِهِ
الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ كَذَلِكَ
النَّشُورُ ۝

یہ بات قابل توجہ ہے کہ آیت کے پہلے جُز میں کس طرح بیانیہ طرز اختیار کیا گیا ہے، اس کے
بعد وہ بتغیر کسی تغیر کے اللہ تعالیٰ کے ایک ارشاد کی جانب منتقل ہو جاتی ہے۔ طرز بیان میں اس
نوع کی ایک بیک تبدیلیاں قرآن کریم میں نہایت عام ہیں۔

— سورة ۳۰، آیت ۴۸ —

اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے اور وہ بادل
اٹھاتی ہیں پھر وہ ان بادلوں کو آسمان میں پھیلاتا ہے
جس طرح چاہتا ہے اور انھیں ٹکڑیوں میں تقسیم

اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ
فَتُغَيِّرُ سَحَابًا قَبَسُطَةً فِي
السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ

کوٹنا ہے۔ پھر تو دیکھتا ہے کہ بارش کے قطرے
بادل میں سے ٹپکے چلے آتے ہیں۔ یہ بارش جب وہ
اپنے بندوں میں سے جن پر چاہتا ہے برساتا ہے
تو یکایک وہ خوش و خرم ہو جاتے ہیں۔

كِسْفًا فَرَزَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ
مِنْ خَلِيلِهِ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ
مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِكَ إِذَا
هُوَ كَيْتَبُشْرُونَ ۝

— سورة ۷، آیت ۱۵۷ —

اور وہ اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو اپنی رحمت کے
آگے آگے خوشخبری لیتے ہوئے بھیجتا ہے۔ پھر
جب وہ پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھاتی ہیں
تو انھیں کسی مردہ سرزمین پر حرکت دیتا ہے اور
وہاں مینہ برسا کر (اسی مری ہوئی زمین سے) طرح
طرح کے پھل نکال لاتا ہے۔ دیکھو اسی طرح ہم
مردوں کو حالت موت سے نکالتے ہیں شاید کہ
تم اس مشاہدہ سے سبق لو۔

وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ
بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ ط
حَتَّىٰ إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا
سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَنْزَلْنَا
بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ
تَحْتِ الثَّمَرَاتِ كَذَلِكَ نُخْرِجُ
الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۝

— سورة ۲۵، آیات ۴۸ تا ۴۹ —

اور وہی ہے جو اپنی رحمت کے آگے آگے ہواؤں کو
بشارت بنا کر بھیجتا ہے پھر آسمان سے پاکٹ پانی
نازل کرتا ہے تاکہ ایک مردہ علاقہ کو اس کے
ذریعہ زندگی بخشے اور اپنی مخلوق میں سے بہت
سے جانوروں اور انسانوں کو سیراب
کرے۔

وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ
بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَ
أَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا ۝
لِنُحْيِي بِهِ بَلَدًا مَيِّتًا وَ
نُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَ
أَنَاسِيًّا كَثِيرًا ۝

— سورة ۲۵، آیت ۵ —

.... اور اس رزق میں جسے اللہ آسمانوں سے
نازل کرتا ہے پھر اس کے ذریعہ سے مردہ زمین کو
جلا اٹھاتا ہے اور ہواؤں کی گردش میں بہت
سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے
کام لیتے ہیں۔

.... وَمَا أَنْزَلْنَا مِنَ
السَّمَاءِ مِنْ رِزْقٍ فَأَحْيَا بِهِ
الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَ
تَصْرِيفِ الرِّيحِ آيَاتٍ لِّقَوْمٍ
يَعْقِلُونَ ۝

اس آخری آیت میں جس رزق کے نزول کا حوالہ دیا گیا ہے وہ پانی کی شکل میں ہے، جو سیاق عبارت کے مطابق آسمان سے نازل کیا جاتا ہے۔ زور ہواؤں کی تبدیلی پر دیا گیا جو بارش کے دور میں تبدیلی کا موجب ہوتی ہیں۔

—سورة ۱۳، آیت ۱۷—

اللہ نے آسمان سے پانی برسایا اور ہندی
نالہ اپنے طرف کے مطابق اسے لے کر چل نکلا، پھر
جب سیلاب اٹھا تو سطح پر بھاگ بھی آگئے۔

أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ
أَوْدِيَهُٖ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ
السَّيْلُ زَبَدًا رَابِيًا

سورة ۶۷، آیت ۳۰۔ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتا ہے :-

ان سے کہو، کبھی تم نے یہ بھی سوچا ہے کہ اگر تھارے
کنوؤں کا پانی زمین میں اتر جائے تو کون ہے
جو اس پانی کی بہتی ہوئی سوتیں تمہیں نکال کر
لا دے گا۔

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ
مَاؤُكُمْ غَوًّا فَمِنْ أَيِّ طَيْفٍ
يَسَاءُ مَعِينٍ ۝

—سورة ۳۹، آیت ۲۱—

کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ نے آسمان سے پانی
برسایا، پھر اس کو سوتوں، چشموں اور دریاؤں
کی شکل میں زمین کے اندر جاری کیا پھر اس پانی
کے ذریعہ سے وہ طرح طرح کی کھیتیاں نکالتا ہے
جن کے رنگ مختلف ہیں۔

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ
السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ
فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ
زَرْعًا مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ

—سورة ۳۶، آیت ۱۳۲—

ہم نے اس میں کھجوروں اور انگوروں کے
باغ پیدا کیے اور اس کے اندر سے چٹھے
چھوڑ نکالے۔

وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّنْ نَّجِيلٍ
وَأَعْنَابٍ وَفَجْرْنَا فِيهَا مِنَ
الْعُيُونِ ۝

چشموں کی اہمیت اور جس طریقہ سے بارش کا پانی ان میں جاتا ہے اس پر آخر کی تین آیتوں
میں کافی زور دیا گیا ہے۔ یہ حقیقت قابل غور ہے۔ اس موقع پر ان نظریات کو جو ازمنہ متوسط میں
پھیلے ہوئے تھے ذہن میں لانا چاہیے۔ مثلاً وہ نظریات جو ارسطو نے قائم کیے تھے جن کے مطابق
چشموں اور دریاؤں میں پانی زیر زمین واقع جھیل سے آتا ہے، فرانسیسی قومی مدرسہ فلاحت

ایکول ناسیونال ڈوٹریٹی رول، دے ایوے فورٹیا کے ایک استاد ایم۔ اے ریمنیز اس نے انسائیکلو پیڈیا یونیورسلس میں شامل اپنے مقالہ مائیات میں مائیات کے مخصوص مدارج بیان کیے ہیں۔ اور قدیم اقوام بالخصوص مشرق قریب کی قوموں کے آبپاشی کے عظیم الشان کارناموں کا ذکر کیا ہے۔ تاہم وہ بتاتے ہیں کہ ایک تجربی نظریہ نے ہر چیز پر غلبہ پایا تھا۔ اس لیے کہ اس زمانہ کے نظریات غلط قسم کے تصورات پر مبنی ہوتے تھے۔ وہ اپنے خیالات کو حسب ذیل طریقہ پر پیش کرتے ہیں:-

» نشأۃ ثانیہ تک (تقریباً ۱۴۰۰ء اور ۱۶۰۰ء کے درمیان) یہ کیفیت پیدا نہیں ہوئی تھی کہ خالص فلسفیانہ تصورات کی جگہ اس قسم کی تحقیق نے لی ہو جن کی بنیاد مائیات حوادث کے معروضی مشاہدہ پر ہو۔ لیونارو واونسی (۱۴۵۲ء-۱۵۱۹ء) نے ارسطو کے بیان سے انحراف کیا۔ برنارو پیلیسی "پانی اور قدرتی اور مصنوعی چشموں کی نوعیت" پر اپنے عجیب و غریب مقالہ [دسکورا د میرابل دے لانا تیور دے ایوے فونٹین تان تا تیور لیس کو آرتی فنیالیس (پیرس ۱۵۷۰ء)] میں پانی کے دور اور بالخصوص اس طریقہ کی صحیح توضیح و تشریح دیتے ہیں جس طریقہ سے کہ چشموں میں بارش کا پانی آتا ہے۔

یہ آخری بیان یقیناً وہی ہے جو سورۃ ۳۹ کی آیت ۲۱ میں پیش ہوا ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ کس طرح بارش کا پانی زمین کے منابع میں پہنچتا ہے۔

— سورۃ ۲۴ کی آیت ۴۳ کا مضمون بارش اور زوالہ ہے:-

الْمُرْتَدَّاتُ اللَّهُ يُزْجِي
سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ
ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى
الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خَلِيلِهِ
وَيَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ
جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ
بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ
عَنْ مَنْ يَشَاءُ يَكادُ سَنَا
بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ

کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ اللہ بادل کو آہستہ آہستہ چلاتا ہے پھر اس کے ٹکڑوں کو باہم جوڑتا ہے پھر اسے سمیٹ کر ایک کثیف ابر بنا دیتا ہے پھر تم دیکھتے ہو کہ اس کے خولی میں سے بارش کے قطرے ٹپکتے چلے آتے ہیں اور وہ آسمان سے ان پہاڑوں کی بدولت جو اس میں بند ہیں اولے برساتا ہے پھر جسے چاہتا ہے ان کا نقصان پہنچاتا ہے اور جسے چاہتا ہے ان سے بچالیتا ہے اس کی بجلی کی چمک نگاہوں کو خیرہ کیے دیتی ہے، رات اور دن کا الٹ پھیر وہی کر رہا ہے اس میں ایک سبق ہے

مندرجہ ذیل عبارت میں کسی قدر تشریح کی ضرورت ہے:-

سورۃ ۵۶، آیات ۶۸ تا ۷۰:-

کبھی تم نے آنکھیں کھول کر دیکھا ہے کہ یہ پانی جو
تم پیتے ہو اسے تم نے بادلوں سے برسایا ہے یا
اس کے برسلنے والے ہم ہیں ہم چاہیں تو اسے
سخت کھاری بنا کر رکھ دیں، پھر کیوں تم شکر گزار
نہیں ہوتے۔

أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي
تَشْرَبُونَ ؕ ءَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ
مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ ؕ
لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ
أَجَاجًا فَلَوْ
لَا تَشْكُرُونَ ؕ

اس حقیقت کا تذکرہ کہ خداوند قدوس میٹھے پانی کو کھارا بنا سکتا ہے اس کی قدرتِ کاملہ کے اظہار کا ایک طریقہ ہے۔ اسی قدرت سے ہمیں آگاہ کرنے کا ایک اور ذریعہ انسان کے لیے وہ چیلنج ہے جو بارش کو بادلوں سے نازل کرنے کے سلسلہ میں کیا گیا ہے لیکن موجودہ زمانہ میں حرفیات دیکھنا (لو جی) نے مصنوعی طریقہ سے بارش برسانے کو یقیناً ممکن کر دکھایا ہے، کیا اسکی بنیاد پر کوئی شخص قرآن کے اس بیان کی تردید اس بات کی روشنی میں کر سکتا ہے کہ انسان میں تشریح کرنے کی قابلیت پیدا ہو گئی ہے؟

اس کا جواب نفی میں ہوگا۔ کیونکہ یہ بات بالکل واضح ہے کہ اس میدان میں انسان کی کچھ مجبوریاں اور پابندیاں ہیں۔ فرانسیسی دفتر موسمیات کے ایک ماہر ایم اے فاسی نے بارش کے عنوان کے تحت انسائیکلو پیڈیا اونی ورسالیس میں حسبِ ذیل بیان تحریر کیا ہے: ”یہ بات کبھی بھی ممکن نہیں ہو سکے گی کہ کسی ایسے بادل سے جس نے ابرمطیر کی مناسب خصوصیات حاصل نہ کر لی ہوں یا ابھی ارتقا کے مناسب مرحلہ پر نہ پہنچ گئے ہوں بارش برساتی جاسکے“ لہذا انسان اپنے حرفتی ذرائع کو کام میں لا کر اس صورت میں کبھی بھی عمل تشریح کو سیرعت انجام نہیں دے سکتا۔ جب تک کہ وہ شرائط جو قدرتی طور پر درکار ہیں موجود نہ ہوں، اگر یہ بات نہ ہوتی تو کبھی بھی خشک سالی جو واضح طور پر ہوتی رہتی ہے۔ عملاً رونما نہ ہوتی۔ اس لیے بارش اور خوشگوار موسم پر انسان کا اختیار اب بھی محض ایک خواب ہے۔

۱۔ ہمارے نزدیک اس صراحت کی بھی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ قرآن کریم میں اس بات کی نفی نہیں کی گئی ہے کہ انسان کبھی بھی تشریح کا عمل خواہ وہ کسی پیمانہ پر ہو انجام نہیں دے سکے گا بلکہ یہ بتایا گیا ہے کہ عام طور پر جو پانی تم پیتے ہو ان کو قدرتی طور پر بننے والے بادلوں سے ہم برساتے ہیں تم نہیں برساتے اور نہ برس سکتے ہو۔

انسان اپنی مرضی سے پانی کے اس قائم شدہ نظام کو شکست نہیں کر سکتا جو قدرتی طور پر اس میں جاری ہے۔ مائیات کے جدید نظریات کے مطابق اس دور کا خاکہ حسب ذیل طریقہ پر پیش کیا جا سکتا ہے۔

”سورج کی کرنوں سے حاصل شدہ حرارے سمندر اور سطح ارض کے ان حصوں سے جو پانی سے ڈھکے ہوئے ہیں یا جن میں پانی جذب ہے، بخارات کو وجود میں لاتے ہیں۔ پانی کے ابخرات وجود میں آکر اور بلند ہو کر کمرہ باد میں پہنچ جاتے ہیں۔ اور عمل تکاثف سے بادلوں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد ہوا میں اپنا عمل دکھاتی ہیں اور اس طرح تشکیل شدہ بادلوں کو مختلف بلندیوں پر لے جاتی ہیں، پھر یا تو بادل بغیر بارش برساتے منتشر ہو جاتے ہیں یا اپنی جسمات کو دوسرے بادلوں کے ساتھ ملا کر زیادہ کثافت کا موجب ہوتے ہیں۔ یا پھر وہ ٹکڑیوں میں بٹ جاتے ہیں۔ اور اپنے ارتقا کے کسی مرحلہ میں بارش برساتتے ہیں۔ جب بارش کا پانی سمندر میں پہنچتا ہے (سطح زمین کا ۷۰ فیصد حصہ سمندروں سے ڈھکا ہوا ہے) تو اس دور کا اعادہ فوراً ہی ہونے لگتا ہے۔ جب بارش کا پانی زمین پر پڑتا ہے تو اس میں سے کچھ نباتات جذب کر لیتی ہے اور اس طرح اس کی بالیدگی میں مدد ملتی ہے۔ نباتات اپنی باری سے پانی خارج کر دیتی ہیں اور اس میں سے کچھ پانی پھر کمرہ باد کو واپس چلا جاتا ہے۔ باقی کم یا زیادہ مقدار میں زمین کے اندر جذب ہو جاتا ہے جہاں سے وہ یا تو گذرگا ہوں سے ہو کر سمندر میں چلا جاتا ہے۔ یا چشموں اور سوتوں سے سطح زمین پر واپس آ جاتا ہے۔

جب مائیات کی جدید معلومات کا موازنہ ان بیانات سے کیا جاتا ہے جو قرآن کی متعدد آیات سے اس پیراگراف میں نقل کیے گئے ہیں تو یہ اعتراف کرنا پڑتا ہے کہ ان کے درمیان بڑی

اے بادلوں کی دس بڑی بڑی قسمیں کی گئی ہیں ان میں سے تین قسم کے بادل کافی بلندی پر ہوتے ہیں۔ دو قسم کے متوسط بلندی پر، اور تین قسم کے نہایت کم بلندی پر۔ دو قسمیں ایسی ہیں جو نیچے سے اوپر کی طرف بڑھتی چلی جاتی ہیں اور ان کی بلندی بعض اوقات کئی کئی میل کی ہوتی ہے اوپر کے بادلوں میں اتنی ٹھنڈ ہوتی ہے کہ پانی کے ابخرات منجمد ہو کر برف کے تراشے بن جاتے ہیں۔ اس لیے ان سے بارش ہونے کا کوئی امکان نہیں ہوتا۔ متوسط بادلوں میں سے ایک قسم اور زیریں بادلوں میں دو قسمیں ایسی ہیں جن سے بارش کا امکان ہوتا ہے ان میں بھی زیریں قسم کے بادل نمبو اسٹریٹس (ابر طیر یا سحاب باران) بارش کے لیے مخصوص ہیں اوپر کی طرف بڑھنے والے بادلوں میں کیو مولونمبس سے گرنے چمک اور زلزلہ باری ہوتی ہے، سحاب باران کے ٹکڑے معصرات (بدلیاں) کہلاتے ہیں وہ بھی بارش برساتے ہیں۔ (مترجم)

حد تک مطابقت ہے۔

سمندر

جبکہ مذکورہ آيات قرآنی نے پانی کے قدرتی دور کے بارے میں جدید معلومات کے درمیان موازنہ کرنے کے لیے مواد فراہم کیا ہے۔ سمندروں کے سلسلہ میں ایسا نہیں ہے۔ قرآن میں کوئی ایک بیان بھی ایسا نہیں ہے جس میں سمندروں کا تذکرہ ہو اور جو سائنسی معلومات کے ساتھ موازنہ کرنے کے لیے اسی طرح استعمال کیا جاسکے۔ تاہم اس سے اس بات کی ضرورت کم نہیں ہوتی۔ کہ یہ بتا دیا جائے کہ قرآن کا کوئی بیان بھی جو سمندروں سے متعلق ہے، ان عقائد، اساطیر یا توہمات کا حوالہ نہیں دیتا جو اس کے نزول کے وقت پھیلے ہوئے تھے۔

کچھ آیات ایسی ہیں جن میں سمندروں اور جہاز رانی کا ذکر کیا گیا ہے، بطور غور و فکر کے موضوعات کے، ان میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا اظہار کیا گیا ہے جو عام مشاہدہ شدہ حقائق سے مترشح ہے۔ حسب ذیل آیات اس کی مثالیں ہیں:-

— سورة ۱۲، آیت ۳۲ :-

.... وَ سَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ
فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ ۝

.... (اللہ نے) کشتی کو تمہارے لیے مسخر کیا کہ
سمندر میں اس کے حکم سے چلے۔

— سورة ۱۶، آیت ۱۲ :-

وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ
لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَ
تَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا
وَ تَرَى الْفُلْكَ مَوَاجِرًا فِيهِ
وَ لَتَبْتَغُوا مِنْ فَوْضِهِ وَ لَعَلَّكُمْ
تَشْكُرُونَ ۝

اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر
کر رکھا ہے تاکہ تم اس سے تر و تازہ گوشت لیکر
کھاؤ اور اس سے زینت کی وہ چیزیں نکالو جنہیں
تم پہنا کرتے ہو، تم دیکھتے ہو کہ کشتی سمندر کا سینہ
چیرتی ہوئی چلتی ہے۔ یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ
تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو اور اس کے
شکر گزار بنو۔

— سورة ۳۱، آیت ۱۳ :-

الْمُتَرَاتَاتِ الْفُلْكَ تَجْرِي
فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَتِ اللَّهِ لِيُزَيِّنَ لَكُمْ

کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ کشتی سمندر میں اللہ کے
فضل سے چلتی ہے تاکہ وہ تمہیں اپنی کچھ نشانیاں

دکھائے۔ درحقیقت اس میں بہت سی نشانیاں ہیں
ہر اس شخص کے لیے جو صبر اور شکر کرنے والا ہو۔

مِنْ آيَاتِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ
لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ
— سورة ۵۵، آیت ۲۲۔

اور یہ جہاز اسی کے ہیں جو سمندر میں پہاڑوں
کی طرح (نشانات بن کر) کھڑے ہوئے ہیں
(اونچے اٹھے ہوئے ہیں)

وَاللَّهُ الْجَوَارِ الْمُنشِئُ فِي
الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ

— سورة ۳۶، آیات ۴۱ تا ۴۲۔

ان کے لیے یہ بھی ایک نشانی ہے کہ ہم نے ان کی
نسل کو بھری ہوئی کشتی (کشتی نوح علیہ السلام)
میں سوار کر دیا اور پھر ان کے لیے ویسی ہی کشتیاں
اور پیدا کیں جن پر یہ سوار ہوتے ہیں، ہم چاہیں
تو ان کو غرق کر دیں کوئی ان کی فریاد سننے والا نہ
ہو اور کسی طرح یہ نہ بچائے جاسکیں۔ بس ہماری
رحمت ہی ہے جو انھیں پار لگاتی ہے اور ایک
وقت خاص تک زندگی سے ممتنع ہونے کا موقع

وَآيَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا
ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلِّ الْمَشْحُونِ
وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ
مَا يَرْكَبُونَ ۚ وَإِنْ نَشَاءُ
نُغْرِقْهُمْ فَلَا يَصْرِحُوا لَهُمْ
وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ ۚ إِلَّا
رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَى
حِينٍ ۚ

دیتی ہے۔

یہاں جو حوالہ دیا گیا ہے وہ صاف طور پر اس کشتی کا ہے جو سمندر پر انسان کو لیے پھرتی ہے
بالکل اسی طرح جیسے عرصہ دراز پہلے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ان کو اور ان دوسرے افراد کو
جو اس میں سوار تھے لے کر چلی اور ان کو خشکی پر پہنچا دیا۔

سمندر سے متعلق ایک دوسرا واقعہ جو مشاہدہ میں آتا ہے اپنی غیر معمولی نوعیت کی وجہ سے
قرآن کی ان آیات میں نمایاں طور پر دکھائی دیتا ہے جو آیتیں اس کے لیے وقف ہیں۔ تیس آیتیں
ایسی ہیں جو ان بعض خصوصیات کا حوالہ دیتی ہیں جو بڑے دریاؤں میں جب وہ بہہ کر سمندر میں گرتے ہیں
اس وقت مشترک ہوتی ہیں۔

یہ واقعہ نہایت عام ہے اور اکثر اس وقت مشاہدہ میں آتا ہے جب سمندر کا کھارا پانی دریا کے
تازہ پانی میں ایک دم نہیں مل جاتا۔ قرآن اس چیز کا حوالہ پانی کی اس رو کے سلسلہ میں دیتا ہے
جس کو دجلہ اور فرات کی اسپوری قرار دیا جاتا ہے۔ جہاں یہ دونوں دریا مل کر وہ چیز بناتے ہیں

جس کو ۱۰۰ میل سے زیادہ طویل سمندر یعنی "شط العرب" کہا جاسکتا ہے۔ خلیج کے اندرونی حصوں میں مدوجزر کا اثر اس خوش آئند واقعہ کو جنم دیتا ہے جس سے تازہ پانی خشکی میں اندر تک چڑھ آتا ہے اور اس طرح یقینی طور پر مناسب آبیاری ہو جاتی ہے۔ متن کو صحیح طور پر سمجھنے کے لیے یہ جانتا پڑتا ہے کہ انگریزی کا لفظ "سی" (سمندر) عربی کے لفظ "بحر" کے عمومی مفہوم پر حاوی ہے جس کا پانی کے ایک بڑے ذخیرہ پر اطلاق ہوتا ہے اور مساوی طور پر سمندر اور بڑے دریاؤں مثلاً تیل، دجلہ اور فرات کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ذیل میں تین آیتیں درج کی جاتی ہیں جن میں اس واقعہ کو بیان کیا گیا ہے۔

— سورة ۲۵، آیت ۵۳:—

اور وہی ہے جس نے دو سمندروں کو ملا رکھا ہے
ایک لذیذ شیریں، دوسرا تلخ و شور۔ اور
دونوں کے درمیان ایک پردہ حائل ہے، ایک
رکاوٹ ہے جو انہیں گڈمڈ ہونے سے روک
ہوئے ہے۔

وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ
هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا
مِلْحٌ أُجَاجٌ ۖ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا
بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَّحْجُورًا ۝

— سورة ۳۵، آیت ۱۲:—

اور پانی کے دو ذخیرے یکساں نہیں ہیں، ایک
میٹھا اور پیاسا بجھانے والا ہے، پینے میں
خوشگوار اور دوسرا سخت کھاری کہ حلق چھیل دے
مگر دونوں سے تم تر و تازہ گوشت حاصل کرتے ہو
پینے کے لیے زینت کا سامان نکالتے ہو۔

وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَيْنِ هَذَا
عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ
وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ ۚ وَمِنْ كُلِّ
تَاكُونٍ لَحْمًا طَوِيًّا ۖ وَسَخَّرْنَا
جَلِيَّةً تَلْبَسُونَهَا ۚ

— سورة ۵۵، آیات ۱۹ تا ۲۱:—

دو سمندروں کو اس نے چھوڑ دیا کہ باہم مل جائیں
اس پر بھی ان کے درمیان ایک پردہ حائل ہے
ان سمندروں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں۔

مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيْنَ ۝
بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيْنَ ۝
يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ ۝

ایک خاص واقعہ کے بیان کے علاوہ، ان آیات میں ان اشیاء کا بھی حوالہ ہے جو میٹھے پانی
اور سمندر کے شور پانی سے حاصل ہو سکتی ہیں، مچھلیاں، زینت کا سامان یعنی مونگے اور موتی۔ اس
واقعہ سے متعلق جس سے دریا کا پانی اسپوری کے مقام پر سمندر کے پانی سے نہیں ملتا۔ یہ بات سمجھ لینی

چاہیے کہ یہ بات دجلہ اور فرات ہی کے ساتھ مخصوص نہیں ہے۔ تن میں ان کا ذکر نام لے کر نہیں کیا گیا لیکن خیال ہے کہ اشارہ ان ہی کی طرف ہے۔ ان دریاؤں کی بھی جو سمندر میں بہہ کر بہت آگے تک جاتے ہیں یہی خصوصیت ہے جیسے سی سی اور یانگ ٹسی کیا ننگ، ان کا بیٹھا پانی سمندر کے کھارے پانی سے اس وقت تک مخلوط نہیں ہوتا جب تک کہ وہ بہت آگے تک سمندر میں نہ پہنچ جائیں

(ج) زمین کا ابھار (نشیب و فراز)

زمین کی ساخت انتہائی پیچیدہ ہے۔ آج کل اس کو نہایت موٹے طریقہ پر اس طور سے سمجھنا ممکن ہے کہ یہ ایک دبیز پرت سے بنی ہوئی ہے جس کا درجہ حرارت بہت بلند ہے، خصوصیت سے اس مرکزی حصہ (کرۃ الوزن) کا جہاں چٹانیں ہنوز کھلی ہوئی حالت میں ہیں اور ایک سطحی پرت کا جو قشر ارض کہلاتا ہے اور جو ٹھوس اور ٹھنڈا ہے۔ یہ قشر بہت پتلا ہے۔ اس کی دبازت کا اندازہ زیادہ سے زیادہ میلوں کی اکائیوں یا میلوں کی دہائیوں میں لگایا جاتا ہے لیکن زمین کا نصف قطر ۸۰۷۰ میل سے کچھ ہی زیادہ ہے۔ اس طرح قشر (اوسطاً) زمین کے نصف قطر کے سو فی حصہ کو بھی ظاہر نہیں کرتا۔ یہ جو کچھ بھی ہے اس پوست پر ہے کہ تمام طبقات الارضی حوادث رونما ہوئے۔ ان حوادث کی ابتداء لہروں کے پیدا ہونے سے ہوئی جنہوں نے کوہستانی سلسلوں کو جنم دیا۔ ان کی بناوٹ کو علم طبقات الارض میں جبال زائی (پہاڑوں کی ابتداء) کہا جاتا ہے۔ یہ عمل بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اس لیے کہ زمین کے ابھار میں ترقی ہونے کے ساتھ جس پہاڑوں کی تشکیلیں ہونی تھی، قشر ارض اسی تناسب سے نیچے کی طرف دھنسا۔ اس عمل سے اس پرت میں ایک بنیاد قائم ہوئی جو اس کے نیچے بچھی ہوئی ہے

کرۃ ارض کی سطح پر سمندر اور خشکی کی تقسیم کی تاریخ حال ہی میں متعین کی گئی ہے اور وہ ابھی تک انتہائی جدید اور سب سے زیادہ جانے پہچانے ادوار کے لیے بھی بڑی حد تک نامکمل ہے، ممکن ہے سمندروں کے ظہور کو جن سے کرۃ آب کی تشکیلیں ہوئی ہے تقریباً پچاس کروڑ سال کا عرصہ ہوا ہو۔ غالباً ابتدائی دور کے اختتام پر تمام براعظم مل کر خشکی کا ایک ہی تودہ تھا جو انجام کار ٹوٹ کر حصوں میں بٹ گیا۔ علاوہ ازیں کچھ براعظم یا براعظموں کے حصے بحری منطقات میں پہاڑوں کی تشکیلیں سے ابھر کر معرض وجود میں آئے ہیں (یعنی شمالی اطلانتیکی براعظم اور یورپ کا کچھ حصہ) جدید تصورات کے بموجب خشکی جو ابھر کر معرض وجود میں آئی اس کی تشکیل میں غالب خبر کوہستانی سلسلوں کی تکمیل ہے۔ ابتدائی دور سے لے کر دور رابع تک، زمین کا ارتقا جبال زائی حالتوں کے

مطابق ان درجات میں منقسم ہے جن کی جماعت بندی اسی نام کے ادوار میں ہوتی ہے اس لیے کہ پہاڑی بلندیوں کی تشکیل سمندر اور براعظموں کے مابین توازن قائم رکھنے کے لیے ایک ردعمل ہے۔ اس کی وجہ سے خشکی کے کچھ حصے غائب ہو گئے اور کچھ نمودار ہوئے اور کروڑوں سال میں اس عمل نے براعظموں اور بحر اعظموں کی سطحی تقسیم کو بدل کر رکھ دیا۔ فی الحال اول الذکر اس سیارے کی سطح کے محض تین دسویں حصہ پر پھیلے ہوئے ہیں۔

اس طریقہ سے ان تغیرات کا جو گذشتہ کروڑوں سالوں میں ظہور پذیر ہوئے ایک بہت ہی کام چلاؤ سا خاکہ پیش کر دینا ممکن ہے۔

زمین کے ابھار کا حوالہ دیتے ہوئے قرآن حکیم جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں صرف پہاڑوں کی تشکیل کا ذکر کرتا ہے۔ جدید نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو کہا جاسکتا ہے کہ فی الحقیقت ان آیات کے بارے میں جو صرف اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کا اظہار کرتی ہیں زمین کی تشکیل کے لحاظ سے نہایت فیصل ہے جیسا کہ حسب ذیل آیات میں ہے:-

— سورة ۷۱، آیات ۱۹، ۲۰:-

وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ اَلْاَرْضَ
بَسَاطًا ۙ لِّتَسْلُكُوْا مِنْهَا سُبُلًا
فِجَاٰجًا

اور اللہ نے زمین کو تمہارے لیے فرش کی
طرح بچھایا ہے تاکہ تم اس کے اندر کھلے
راستوں پر چلو۔

— سورة ۵۱، آیت ۲۸:-

وَالْاَرْضَ فَرَشْنٰهَا فَنِعْمَ
الْمُهَيَّدُوْنَ ۙ

زمین کو ہم نے بچھایا ہے اور ہم بڑے اچھے
ہموار کرنے والے ہیں۔

فرش جو بچھایا گیا ہے فشر ارض ہے جو ایک سخت خول ہے جس پر ہم رہ سکتے ہیں۔ اس لیے کہ کرہ ارض کے زیریں پرت نہایت گرم، رقیق اور کسی قسم کی حیات کے لیے بھی معاند و مخالف ہیں۔

قرآن میں وہ بیانات جن میں پہاڑوں کا حوالہ اور لہریوں کے حادثہ کے نتیجہ میں ان کے استحکام

کا تذکرہ ہے نہایت اہم ہیں۔

— سورة ۸۸، آیات ۱۹، ۲۰:- سیاق عبارت میں منکرین کو بعض حوادث پر غور کرنے کی دعوت

دی گئی ہے۔ جن میں:-

... پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کہ کیسے جائے گئے ہیں؟

.... وَاِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ

وَالِى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِّحَتْ ۝

اور زمین کو نہیں دیکھتے کہ کیسے بچھائی گئی ہے۔
مندرجہ ذیل آیات اس طریقے کی تفصیلات دیتی ہیں جس طریقہ سے کہ پہاڑوں کو زمین کے اندر
مضبوطی سے جمایا گیا ہے۔

— سورة ۷۸، آیات ۷۶، ۷۷ —

أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهْدًا ۝

کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ ہم نے زمین کو فرش بنایا
اور پہاڑوں کو میخوں کی طرح گاڑ دیا۔

وَالْجِبَالِ أَوْتَانًا ۝

جن میخوں کا حوالہ دیا گیا ہے وہ کسی زمانہ میں کسی خمیہ کو زمین پر مضبوطی سے جانے کے لیے
استعمال کی جاتی تھیں (اوتاد جمع ہے وتد کی)

موجودہ دور کے ماہرین ارضیات زمین کے لہریوں کو پہاڑوں کی بنیادیں بتاتے ہیں اور
وہ اندازاً ایک میل سے تقریباً ۱۰ میل کی گہرائی تک گئی ہوتی ہیں۔ قشر ارض کا استحکام ان لہریوں کے
حادثہ کا نتیجہ ہے۔

لہذا یہ بات حیرت خیز نہیں رہتی جب ہم قرآن کی بعض عبارتوں میں پہاڑوں کے متعلق اظہار
رائے پاتے ہیں، جیسا کہ ذیل میں درج ہے۔

— سورة ۷۹، آیت ۳۲ —

وَالْجِبَالِ أَرْسَامًا

اور پہاڑ اس میں گاڑ دیئے۔

— سورة ۸۱، آیت ۱۰ —

وَالَّذِي فِي الْأَرْضِ رَوَّاسِيًا أَنْ

اس نے (خزلنے) زمین میں پہاڑ جما دیئے تاکہ
وہ تمہیں لے کر ڈھلک نہ جائے۔

تَمِيدًا بِكُمْ

— یہی محاورہ سورة ۱۶، آیت ۱۵ میں دہرایا گیا ہے اور یہی خیال بغیر کسی ادنیٰ تغیر کے سورة ۲۱،
آیت ۳۱ میں ظاہر کیا گیا ہے:۔

وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَّاسِيًا

اور ہم نے زمین میں پہاڑ جما دیئے تاکہ وہ
انہیں لے کر ڈھلک نہ جائے۔

أَنْ تَمِيدًا بِكُمْ

ان آیات میں یہ خیال ظاہر کیا گیا ہے کہ پہاڑوں کو اس طریقہ سے جمایا گیا ہے کہ استحکام کا
یہ صفت پیدا ہو گیا اور یہ بات ارضیاتی معلومات سے مکمل طور پر مطابقت رکھتی ہے۔

(ڈی) زمین کا کڑھ پاد:-

کچھ ایسے پاد کے علاوہ جو مخصوص طور پر آسمان کے ذکر سے متعلق ہیں جیسا کہ گذشتہ باب میں

دیکھا گیا ہے، قرآن کریم میں متعدد آیات اس قسم کی شامل ہیں جن میں اس حادثہ کا تذکرہ ہے جو کورہ باد میں رونما ہوتا رہتا ہے، جہاں تک کہ ان میں اور جدید سائنس کی معلومات میں موازنہ کا تعلق ہے یہاں اور مقامات کی طرح اس بات پر غور کیا جانا چاہیے کہ آج کل کی جدید سائنسی معلومات اور قرآن میں مذکور حوادث کے درمیان مطلق کوئی تضاد و تناقض نہیں ہے۔

ارتفاع

زیادہ بلندی پر جس بے چینی کا تجربہ ہوتا ہے اور جو بے چینی جس قدر اوپر جاتے ہیں اتنی ہی بڑھتی جاتی ہے یہ عام احساس سورہ ۲ کی آیت ۱۲۵ میں بیان کیا گیا ہے :-

فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ
يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ
وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يَضِلَّهُ
يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا
حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصْعَدُ
فِي السَّمَاءِ ط

پس جسے اللہ ہدایت بخشنے کا ارادہ کرتا ہے اس کا
سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے اور جسے گمراہی میں
ڈالنے کا ارادہ کرتا ہے اس کے سینہ کو تنگ
کر دیتا ہے اور اس کو ایسا بھیجتا ہے کہ اسلام کا
تصور کرتے ہی اسے یوں معلوم ہونے لگتا ہے کہ گویا
وہ آسمان کی طرف پرواز کر رہا ہے۔

بعض شارحین نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ زیادہ بلندی پر بے چینی کا تصور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے عربوں میں نہیں تھا۔ یہ دعویٰ قطعی طور پر صحیح نہیں معلوم ہوتا۔ جزیرہ نمائے عرب میں ایسی چوٹیوں کا وجود جو دو میل سے زیادہ بلند ہیں اس دعویٰ کو انتہائی نامعقول بنا دیتا ہے کہ وہ لوگ زیادہ بلندی پر سانس لینے کی دشواری کو نہیں جانتے تھے۔ کچھ حضرات ایسے بھی ہیں جن کو اس آیت میں خلا کی تسخیر کی پیشین گوئی دکھائی دیتی ہے۔ یہ ایک ایسی رائے ہے جو کم از کم اس عبارت میں منطقی طور پر انکار کا طالب نظر آتی ہے۔

کورہ باد میں بجلی

کورہ باد میں بجلی اور اس کے نتائج یعنی کوندہ اور ژالہ باری کا حوالہ حسب ذیل آیات میں

لہ من کے دارالحکومت صنعاء میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں آبادی تھی، اس شہر کی بلندی سطح سمندر سے ... فٹ کے قریب ہے۔

دیا گیا ہے۔

— سورة ۱۳، آیات ۱۲، ۱۳ —

وہی (خدا) ہے جو تمہارے سامنے بجلیاں چمکاتا ہے
جنہیں دیکھ کر تمہیں اندیشے بھی لاحق ہوتے ہیں امیدیں
بھی بندھتی ہیں۔ وہی ہے جو پانی سے لرے ہوئے
بادل اٹھاتا ہے۔ بادلوں کی گرج اس کی حمد کے ساتھ
اس کی پاکی بیان کرتی ہے۔ اور فرشتے اس کی سبقت
لرزتے ہوئے اس کی تسبیح کرتے ہیں وہ کرکٹی ہوئی
بجلیوں کو بھیجتا ہے اور بسا اوقات انھیں جس پر
چاہتا ہے عین اس حالت میں گرا دیتا ہے کہ لوگ
ان کے بارے میں جھگڑ رہے ہوتے ہیں فی الواقع
اس کی چال بڑی زبردست ہے۔

هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ الْبَرْقَ
خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا يُشِئُ
السَّحَابِ الثَّقَالِ ه وَيَسْبِغُ
الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَكَةُ
مِنْ حَيْفَتِهِ وَ يُرْسِلُ
الرِّسَالِ فَيُصِيبُ بِهَا
مَنْ يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ
فِي اللَّهِ ط وَهُوَ شَدِيدُ
الْمِحَالِ ه

— سورة ۲۴، آیت ۴۳ (اس باب میں پہلے ہی نقل کی جا چکی ہے)

کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ بادل کو آہستہ آہستہ
چلاتا ہے پھر اس کے ٹکڑوں کو باہم جوڑ دیتا ہے
پھر اسے سمیٹ کر ایک کثیف ابر بنا دیتا ہے پھر تم
دیکھتے ہو کہ اس کے خول میں سے بارش کے قطرے
ٹپکتے چلے آتے ہیں اور وہ آسمان سے ان پہاڑوں کی
بروت جواس میں بلند ہیں اولے برساتا ہے پھر جسے
چاہتا ہے ان کا نقصان پہنچاتا ہے اور جسے چاہتا
ہے ان سے بچا لیتا ہے، ان کی بجلی کی چمک
نگاہوں کو خمیرہ کیے دیتی ہے۔

الْمُتَرَّانَ اللَّهُ يُنَزِّجُ
سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ
ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى
الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ
وَ يُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ
جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ
بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَ يَصْرِفُهُ
عَنْ مَنْ يَشَاءُ يَكادُ سَنَا بَرْقِهِ
يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ ه

۱۔ جن بادلوں سے اولے پڑتے ہیں انکا پھیلاؤ نیچے سے اوپر کی طرف ہوتا ہے، یہ بادل کیونوں نمبوس کہلاتے ہیں ان کی بلندی بعض اوقات کوہ الیورسٹ
سے بھی زیادہ ہوتی ہے جب یہ سر کے اوپر ہوتے ہیں تو اپنی دبازت کیوجہ سے سیاہ دکھائی دیتے ہیں اور جب افق پر ہوتے ہیں تو بلند پہاڑ معلوم
ہوتے ہیں جو دوش ہوا پر چلتے ہوئے نظر آتے ہیں، غالباً پہاڑوں سے ان ہی پہاڑ نما بادلوں کی طرف اشارہ ہے (مترجم)

ان دو آیتوں میں گہرے ابرہائے مطیر یا ابرہائے ثالہ و برق کی تشکیل کے مابین واضح تعلق کا اظہار کیا گیا ہے۔ اول الذکر اندیشے لاحق ہونے اور امیدیں بندھنے کا موجب ہوتے ہیں اس لیے کہ ان فائدہ حاصل ہوتا ہے اور مؤخر الذکر خوف و دہشت کا سبب ہوتا ہے کیونکہ جب وہ صاعقہ بن کر گرتا ہے تو یہ سب بحکم خداوندی ہوتا ہے۔ ان دونوں حادثوں کے درمیان تعلق کی تصدیق کرہ باد میں موجود بجلی کی جدید دور کی معلومات سے ہوتی ہے۔

پرچھائیاں (سائے)

پرچھائیوں کا واقعہ اور یہ حقیقت کہ وہ حرکت کرتی ہیں آج کل اس سبب کی تشریح بہت آسان ہے۔ یہ حسب ذیل مشاہدات کا موضوع ہے :-

— سورة ۱۱۶، آیت ۸۱ :-

وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ
ظِلًّا....

اس نے (خدا نے) اپنی پیدا کی ہوئی بہت سی چیزوں سے تمہارے لیے سائے کا انتظام کیا۔

— سورة ۱۶، آیت ۴۸ :-

اَوَلَمْ يَرَوْا اِلٰى مَا خَلَقَ اللّٰهُ
مِنْ شَيْءٍ يَتَفَيَّوْا ظِلُّهُ عَنِ
الْيَمِيْنِ وَالشَّمَالِ سُبْحًا
بِاللّٰهِ وَهُمْ ذٰخِرُونَ

اور کیا یہ لوگ اللہ کی پیدا کی ہوئی کسی چیز کو بھی نہیں دیکھتے کہ اس کا سایہ کس طرح اللہ کے حضور سجدہ کرتے ہوئے دائیں اور بائیں کو گرتا ہے، سب اس طرح اظہار عجز کر رہے ہیں۔

— سورة ۲۵، آیات ۴۶، ۴۵ :-

اَلَمْ تَرَ اِلٰى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ
الظِّلَّ، وَكُوْشًا لَّجَعَلَهُ
سَاكِنًا، ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ
عَلَيْهِ ذَلِيْلًا، ثُمَّ قَبَضْنٰهُ
اِلَيْنَا قَبْضًا يَّسِيْرًا

تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارا رب کس طرح سایہ پھیلا دیتا ہے۔ اگر وہ چاہتا تو اسے دائیں یا بائیں بنا دیتا۔ ہم نے سورج کو اس پر دلیل بنایا، پھر جیسے جیسے سورج اٹھتا جاتا ہے ہم اس سایہ کو رفتہ رفتہ اپنی طرف سمیٹتے چلے جاتے ہیں۔

خدا کے آگے اس کی تمام مخلوقات بشمول ان کے سایوں کے عجز و انکسار کی مختلف صورتوں سے الگ اور اس حقیقت سے جداگانہ کہ اللہ تعالیٰ اپنی قوت کے جملہ مظاہر کو جس طرح وہ چاہتا ہے واپس لے سکتا ہے۔ قرآن کریم سورج اور سایوں کے درمیان تعلق کا بھی ذکر کرتا ہے۔ اس

موقع پر یہ حقیقت ذہن میں رہتی چاہیے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں لوگوں کا عقیدہ تھا کہ سایہ جب چلتا ہے تو وہ کس طرح سورج کی مشرق سے مغرب کی جانب حرکت سے متاثر ہوتا ہے اسی اصول کو طلوع آفتاب اور غروب آفتاب کے درمیان وقت معلوم کرنے کے سلسلہ میں دھوپ گھڑی کی صورت میں استعمال کیا جاتا تھا۔ اس مثال میں قرآن مجید اس تشریح کا حوالہ دیتے بغیر جو نزول کے وقت راجح تھی اس واقعہ کا ذکر کر دیتا ہے۔ اس کو صدیوں بعد تک وہ لوگ فوری طور پر تسلیم کر لیتے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہوئے، لیکن انجام کار وہ غلط ثابت ہو جاتی۔ قرآن صرف اس عمل کا ذکر کر دیتا ہے جو سورج سایہ کے ظاہر کرنے والے کی حیثیت سے انجام دیتا ہے۔ بظاہر اس طریقہ کے، جس طرح قرآن میں سایہ کا ذکر کیا گیا ہے اور اس کے جو کچھ ہم دور جدید میں اس واقعہ کے متعلق جانتے ہیں، درمیان کوئی تضاد نہیں ہے۔



عالم حیوانی اور عالم نبات

بہت سی وہ آیات جن میں حیات کی ابتدا کا ذکر ہے اس باب میں جمع کر دی گئی ہیں، ساتھ ہی عالم نبات کے بعض پہلوؤں اور عالم حیوانی سے متعلق عمومی یا خصوصی عنوانات پر بحث کی گئی ہے۔ کتاب میں منتشر آیات کی جماعت بندی سے اس پوری معلومات کا ایک عمومی تصور سامنے آجاتا ہے جو ان موضوعات سے متعلق قرآن کریم میں شامل ہے۔

اس باب اور آئندہ باب کے موضوع کے سلسلہ میں قرآنی متن کا تجزیہ لغات کی بعض مشکلات کے سبب خصوصیت سے کسی قدر نزاکت اختیار کر گیا ہے۔ ان مشکلات پر اس حقیقت کو کام میں لا کر قابو پایا گیا ہے کہ وہ سائنسی معلومات جس سے اس موضوع پر روشنی پڑتی ہے، زیر غور لائی گئی ہے۔ ذی روح اشیاء یعنی حیوان، نباتات اور انسان کے سلسلہ میں خصوصیت سے ایسا کیا گیا ہے۔ جہاں قرآن میں شامل ان عنوانات پر بعض بیانات کے مفہوم کی تلاش میں سائنس کی تعلیمات کے ساتھ ایک گونہ مقابلے کا ہونا ناگزیر بتایا گیا ہے۔

یہ بات واضح ہو جائے گی کہ قرآن کی ان عبارتوں کے متعدد ترجمے جو علماء نے کیے ہیں سائنسدانوں کو غلط معلوم ہوں گے۔ یہی بات ان تفاسیر پر بھی صادق آتی ہے جو ان حضرات نے کی ہیں جن کو وہ سائنسی معلومات حاصل نہیں تھیں جو متن کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے۔

الف) حیات کی ابتداء

اس سوال نے انسان کو خود اپنی خاطر اور ان ذی روح اشیاء کی خاطر جو اس کو گھیرے ہوئے ہیں ہمیشہ سے الجھائے رکھا ہے، یہاں اس چیز کا عام نقطہ نظر سے جائزہ لیا جائے گا، انسان کے مسئلہ کو، جس کے زمین پر ظہور اور افزائش نسل کے عوامل، تفصیلی بحث کے موضوع ہیں، آئندہ باب میں بیان کیا جائے گا۔

جب قرآن کریم میں حیات کی ابتدا کے موضوع کو نہایت وسیع پیمانہ پر بیان کیا جاتا ہے، تو یہ بیان بے انتہا مختصر ہوتا ہے۔ یہ بات اس کی ایک آیت میں ہوئی ہے جس میں کائنات کی تشکیل کے عمل کو

بھی بیان کیا گیا ہے۔ اس آیت کو پہلے ہی دہرایا گیا اور اس کی تشریح کی گئی ہے۔

— سورة ۲۱، آیت ۳۰ —

کیا وہ لوگ جنہوں نے (نبی کی بات ماننے سے)
انکار کر دیا ہے غور نہیں کرتے کہ یہ سب آسمان
اور زمین باہم ملے ہوئے تھے پھر ہم نے انہیں
جدا کیا اور پانی سے ہر زندہ چیز پیدا کی، کیا وہ
ہماری اس خلاق کو نہیں مانتے؟

أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا
أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا
رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا
مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيًّا
أَفَلَا يُؤْمِنُونَ

کسی چیز کو کسی چیز سے نکالنے اور جدا کرنے کا تصور شکوک و شبہات کا موجب نہیں ہوتا۔ اس
فقہہ کا یہ مفہوم بھی ہو سکتا ہے کہ ہر زندہ چیز پانی سے بنائی گئی ہے (جو اس چیز کا لازمی عنصر ہے)۔
یا ہر جاندار شے کی ابتداء پانی میں ہوئی ہے۔ یہ دونوں امر کافی مفہوم سائنسی معلومات سے کلی طور پر
مطابقت رکھتے ہیں، حیات کی ابتداء فی الحقیقت مائی ہے اور پانی تمام جاندار خلیات کا جزو اعظم ہے
پانی کے بغیر زندگی ممکن نہیں ہے۔ جب کسی دوسرے سیارے پر حیات کے امکان پر بحث کی جاتی
ہے تو پہلا سوال ہمیشہ یہ ہوتا ہے: کیا وہاں حیات کو قائم رکھنے کے لیے کافی مقدار میں پانی
موجود ہے؟

موجودہ معلومات ہمیں اس بات پر غور کرنے کی طرف مائل کرتی ہے کہ قدیم ترین جاندار شے کا
تعلق یقیناً عالم نبات سے ہوگا، سمندری کائی کا سراغ ماقبل کیمبرین دور سے ملا ہے یعنی اس زمانہ
سے جو قدیم ترین معلوم سرزمینوں کا دور ہے۔ نامیاتی اشیاء جن کا تعلق عالم حیوانی سے ہے غالباً کسی
قدر بعد میں ظہور پذیر ہوئیں، ان کا وجود بھی سمندر سے ہوا۔

یہاں جس لفظ کا ترجمہ "پانی" کیا گیا ہے وہ "ماء" ہے جس سے مراد آسمان سے برسا ہوا پانی اور
سمندری پانی دونوں ہو سکتی ہے۔ اس پر مستزاد کسی نوع کی رقیق چیز ہو سکتی ہے، پہلے مسموں میں پانی
وہ عنصر ہے جو تمام نباتاتی زندگی کے لیے ضروری ہے۔

— سورة ۲۰، آیت ۵۳ —

وہی (خدا) ہے جس نے تمہارے لیے زمین کا فرش
بچھایا اور اس میں تمہارے چلنے کو راستے بنائے
اور اوپر سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعہ سے
مختلف اقسام کی پیداوار نکالی۔

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا
وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا مَّا نَزَّلَ
مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَّافًا فَخَرَجْنَا بِهِ
أَنْوَاجًا مِّنْ تَحْتِهَا

عالم نبات میں جوڑے کے تصور کا یہ پہلا حوالہ ہے، ہم بعد میں اس کی جانب مراجعت کریں گے۔
دوسرے معنوں میں ایک سیال شے بغیر کسی مزید اشارے کے کہ اس کی نوعیت کیا ہے، یہ لفظ
اپنی غیر معین شکل میں یہ صراحت کرنے کے لیے استعمال ہوا ہے کہ تمام حیوانات کی زندگی کی تشکیل کی
بنیاد کیا ہے۔

— سورة ۲۴، آیت ۴۶:—

وَاللّٰهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّنْ

اور اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار ایک طرح کے

پانی سے پیدا کیا۔

مَاءٍ ط

ہم آگے چل کر دیکھیں گے کہ یہ لفظ مادہ منویہ کے لیے بھی مستعمل ہے۔

لہذا خواہ اس سے عمومی طور پر زندگی کی ابتدا سے بحث کی جائے یا وہ عنصر مراد ہو جو پودوں
کو مٹی میں جنم دیتا ہے۔ یا حیوانات کا تخم سمجھا جائے، قرآن میں شامل حیات کی ابتدا کے تمام
بیانات جدید سائنسی معلومات سے پوری طرح مطابقت رکھتے ہیں۔ زندگی کی ابتدا سے متعلق
جو اساطیر نزول قرآن کے وقت عام طور پر رائج تھے ان میں سے کوئی بھی قرآن کے متن میں
مذکور نہیں ہیں۔

(ب) عالم نبات

قرآن میں موجود ایسی متعدد آیات کو بالکلینہ نقل کر دینا ممکن نہیں ہے جن میں بارش کے اثر
سے متعلق اللہ تعالیٰ کی قدرت اور رحمت کا حوالہ دیا گیا ہے جو نباتات کی بالیدگی کی موجب ہوتی
ہے۔ اس موضوع پر یہاں تین آیات پیش ہیں۔

— سورة ۱۶، آیات ۱۰، ۱۱:—

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ

مَاءً تَكْمُلُكُمْ شُرَابًا وَمِنْهُ شَجَرٌ

فِيهِ تُسِيمُونَ ۝ يُنْبِتُ لَكُمْ

بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَ

التَّخَيْلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِنَ

كُلِّ الثَّمَرَاتِ ط

وہی (خدا) ہے جس نے آسمان سے تھالے لیے

پانی برسایا جس سے تم خود بھی سیراب ہوتے ہو

اور تمہارے جانوروں کے لیے بھی چارہ پیدا

ہوتا ہے۔ وہ اس پانی کے ذریعہ سے کھیتیاں

اگاتا ہے اور زیتون اور کھجور اور انگور اور

طرح طرح کے دوسرے پھل پیدا کرتا ہے۔

لے یہ مادہ تولیدی غدود سے رہتا ہے اور اس میں حیوانات منویہ شامل ہوتے ہیں۔

سورۃ ۶، آیت ۹۹۔

اور وہی ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا۔ پھر اس کے ذریعہ سے ہر قسم کی نباتات اگائی، پھر اس سے ہرے بھرے کھیت اور درخت پیدا کیے۔ پھر اس سے تہ بہ تہ چڑھے ہوئے دانے نکالے اور کھجور کے شگوفوں سے پھلوں کے گچھے پیدا کیے جو بوجھ کے مارے بھکے پڑتے ہیں۔ اور انگور زیتون اور انار کے باغ لگائے جن کے پھل ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں اور پھر ہر ایک کی خصوصیات جدا جدا بھی ہیں، یہ درخت جب پھلتے ہیں تو ان کے پھل آنے اور پھران کے پکنے کی کیفیت پر ذرا غور کی نظر سے دیکھو، ان کی نشانیاں ان لوگوں کے لیے ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔

وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً ۖ فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا مُّخْرَجًا مِنْهُ حَبًّا مُّتَرَاكِبًا ۖ وَمِنَ النَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُّتَشَابِهٍ ۗ ط انظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي ذَٰلِكُمْ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ۝

سورۃ ۵۰، آیات ۹ تا ۱۱۔

اور ہم نے آسمان سے برکت والا پانی نازل فرمایا پھر اس سے باغ اور فصل کے غلے اور بلند و بالا کھجور کے درخت پیدا کر دیئے جن پر پھلوں سے لڑے ہوئے خوشے تہ بہ تہ لگتے ہیں یہ انتظام ہے بندوں کو رزق دینے کا۔ اس پانی سے ہم ایک مردہ زمین کو زندگی بخش دیتے ہیں۔ (مرے ہوئے انسانوں کا زمین سے نکلنا بھی اسی طرح ہوگا۔)

وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُّبْرَكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ وَالنَّخْلَ بَسِيقَاتٍ لَّهَا طَلْعٌ نَّضِيدٌ ۖ رِّزْقًا لِّلْعِبَادِ ۗ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا ۖ كَذَٰلِكَ الْخُرُوجُ ۝

قرآن ان عام معلومات پر دوسری ایسی باتوں کا اطلاق کرتا ہے جن میں زیادہ خصوصی مفصلیوں کا اضافہ کیا گیا ہے۔

عالم نبات میں توازن

سورة ۱۵، آیت ۱۹

وَالْأَرْضُ مَدَدُ نَهَا وَالْقَيْنَا فِيهَا
رَوَاسِي وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ
مَّمُودٍ ۝

ہم نے زمین کو پھیلا یا اس میں پہاڑ جمائے
اس میں ہر نوع کی نباتات ٹھیک ٹھیک نبی
تلی مقدار کے ساتھ اگائی۔

متعدد غذاؤں کی مختلف مقادیر

سورة ۱۳، آیت ۴

وَفِي الْأَرْضِ قِطْعٌ مُتَجَبَّرَاتٌ وَجَنَاتٌ
مِّنْ أَعْنَابٍ وَزُرْعٌ وَنَخِيلٌ
صُنُوفٌ وَأَغْنَابٌ يُسْقَى
بِمَاءٍ وَاحِدَةٍ وَ نَفْصِلُ
بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ
يَعْقِلُونَ ۝

اور دکھو زمین میں الگ الگ خطے پائے جاتے
ہیں جو ایک دوسرے سے متصل واقع ہیں۔ انگور
کے باغ میں کھتیاں ہیں۔ کجھور کے درخت ہیں
جن میں سے کچھ اکہرے ہیں اور کچھ دوہرے،
سب کو ایک ہی پانی سیراب کرتا ہے، مگر
مزے میں ہم کسی کو بہتر بنا دیتے ہیں اور کسی کو
کمزور۔ ان سب چیزوں میں نشانیاں ہیں ان لوگوں
کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔

ان آیات کی موجودگی پر غور کرنا اس لحاظ سے دلچسپ ہے کہ ان سے مستعمل مصطلحات کی سنجیدہ
توجیہ ظاہر ہوتی ہے اور ساتھ ہی کسی ایسے بیان کے فقدان کا بھی پتہ چلتا ہے جو اس دور کے عقائد
کو بنیادی حقائق کے مقابلہ میں زیادہ نمایاں کر کے پیش کرے۔ لیکن جو بات خصوصیت سے ہماری توجہ
کہ اپنی جانب مبذول کرے وہ قرآن مجید کے وہ بیانات ہیں جن کا تعلق عالم نبات میں افزائش
نسل سے ہے۔

عالم نبات میں افزائش نسل

یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ عالم نبات میں افزائش نسل کے دو طریقے ہیں۔ ایک جنسی
دوسرا غیر جنسی۔ ان میں صرف پہلا طریقہ ایسا ہے جو افزائش نسل کی اصطلاح کا ناقصاً مستحق ہے۔

کیونکہ اسی سے ایک ایسے حیاتی عمل کا تعین ہوتا ہے جس کا مقصد اُس پودے کے مقابلہ میں جس سے یہ پیدا ہوا ہے ایک جدید منفرد وجود کا اظہار ہے۔
 غیر جنسی افزائش نسل بالکل سادہ طریقہ پر تعداد میں اضافہ کا نام ہے۔ یہ ایک نامیاتی وجود کے ٹکڑے ٹکڑے ہونے کے نتیجہ میں ظہور پذیر ہوتا ہے جو اصل پودے سے جدا ہو گیا ہو۔ اور اس طریقہ سے ترقی پا گیا ہو کہ وہ پھر اسی پودے سے اصل ہو جائے جس سے وہ نکلا تھا۔ کلیر مونڈ اور مینگنو کے نزدیک یہ بالیدگی کی ایک مخصوص کیفیت ہے۔ اس کی ایک سادہ سی مثال قلم لینا ہے۔ کسی پودے سے قلم لے کر اُس کو موزوں پانی میں نم مٹی کے اندر لگا دیا جاتا ہے اور نئی جڑیں نکل آنے سے وہ پھر جم جاتا ہے۔ بعض پودوں کے نامیاتی اجزاء خصوصیت سے اسی مقصد کے لیے وضع ہوتے ہیں لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں جن میں کلمے پھوٹتے ہیں اور ان کا عمل وہی تخم جیسا ہوتا ہے (یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ تخم جنسی افزائش نسل کے عمل کے نتائج ہیں۔)
 عالم نبات میں جنسی افزائش نسل ایک ہی پودے پر تکرار مادہ کے ملاپ سے جنسی تشکل کے ذریعہ عمل میں آتی ہے۔ یا جداگانہ پودوں پر قائم ہو جاتی ہے صرف یہی وہ وجہ ہے جس کا تذکرہ قرآن میں کیا گیا ہے۔

سورۃ ۱۲۰، آیت ۵۳

اور اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے آسمانوں سے پانی برسایا پھر اُس کے ذریعہ سے مختلف نباتات کے جوڑے پیدا کیے۔

وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَفَافًا خَرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْ تَبَاتٍ هَشِيًّا

جوڑے میں سے ایک ترجمہ ہے زوج کا جس کی جمع ازواج ہے جس کے ابتدائی معنی ہیں وہ شے جو ایک دوسری شے کے ساتھ مل کر ایک جوڑا بنائے۔ یہ لفظ بالکل اسی طرح ایک شادی شدہ جوڑے کے لیے استعمال ہوتا ہے جس طرح ہوتوں کے ایک جوڑے کے لیے۔

سورۃ ۲۲، آیت ۸

اور تم دیکھتے ہو کہ زمین سوکھی پڑی ہے۔ پھر جہاں ہم نے اس پر طینہ برسایا کہ یکا یک وہ بھبگ اٹھی اور پھولی گئی اور اس نے ہر قسم کی خوش منظر نباتات اُگلنی شروع کر دی۔

وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَّهِيٍّ

سورۃ ۳۱، آیت ۱۰

پس ہم نے زمین میں پودوں اور نباتات کے
اچھے جوڑے اگائے۔

فَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ
كَرِيمٍ ۝

سورۃ ۱۳، آیت ۳

اسی نے ہر طرح کے پھلوں کے جوڑے پیدا
کئے ہیں۔

وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلْنَا فِيهَا
زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ

ہمیں معلوم ہے کہ پھل ان اعلیٰ درجہ کے پودوں کی افزائش نسل کے عمل میں آخری حاصل ہے
جن کا نظام انتہائی ترقی یافتہ اور پیچیدہ ہے۔ پھل سے قبل کا درجہ پھول کا ہے جس میں نر اور مادہ
دونوں کے اعضاء (حاصل زرا اور بیضا) ہوتے ہیں۔ آخر الذکر میں اگر ایک مرتبہ تخم اُبج کیا تو وہ
بار آور ہو جاتا ہے جو اپنی باری سے بڑھتا اور تخم پیدا کرتا ہے۔ لہذا تمام پھل نر اور مادہ
کے اعضاء کے وجود پر دلالت کرتے ہیں۔ قرآن میں جو آیت دی گئی ہے اس کا یہی مفہوم ہے۔
یہ بات ذہن نشین کرنی پڑے گی کہ بعض اقسام میں غیر بارور پھولوں سے بھی پھل پیدا ہو
سکتا ہے (خودزرا پھل.....) مثلاً کیلا۔ کسی قسم کے انسان، انجیر، سنترے اور انگور
اس کے باوجود وہ ان پودوں سے حاصل ہو سکتے ہیں جن میں واضح طور پر جنسی خصوصیات ہوتی ہیں۔
افزائش نسل کے عمل کی آخری شکل تخم کے نمونہ کے ساتھ اس وقت ظاہر ہوتی ہے
جب ایک مرتبہ اس کا بیرونی خول شق ہو جاتا ہے (بعض اوقات یہ تخم ایک گٹھلی میں بند ہوتا
ہے)۔ اس انشقاق سے جڑیں باہر نکل آتی ہیں جو مٹی سے وہ تمام چیزیں جذب کر لیتی ہیں جو
پودے کی سست رفتار زندگی کے لیے ایک تخم کی حیثیت سے ضروری ہوتی ہیں۔ جبکہ یہ تخم
بڑھتا اور ایک نئے پودے کو جنم دیتا ہے۔

قرآن کی ایک آیت تمہو کے اس عمل کا اس طرح حوالہ دیتی ہے۔

سورۃ ۶، آیت ۹۵

تحقیق کہ دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والا اللہ
ہے۔

إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ
وَالنَّوَى ط

قرآن کریم اکثر عالم نبات میں ایک جوڑے کے ان اجزائے ترکیبی کے وجود کا اظہار کرتا
ہے اور ایک عمومی سیاق کے ساتھ بغیر کسی حصر کے ایک جوڑے (زوج) کا تصور پیش کر دیتا ہے۔

سورۃ ۳۶، آیت ۳۶

پاک ہے وہ ذات جس نے جملہ اقسام کے جوڑے

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ

پیدا کیے خواہ وہ زمین کی نباتات میں سے ہوں
یا خود ان کی اپنی جنس (نوع انسانی) میں
سے یا ان اشیاء میں سے جن کو یہ جانتے
تک نہیں ہیں۔

كَلَّمَهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ
وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا
يَعْلَمُونَ ۝

ان اشیاء کے معنوں کے متعلق جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں لوگ نہیں جانتے
تھے بہت سے مفروضے قائم کیے جا سکتے ہیں۔ آج ہم ان چیزوں کے ڈھانچوں یا مزدوج عملوں کے
مابین امتیاز کر سکتے ہیں۔ جو ذی روح اور غیر ذی روح اشیاء میں بے انتہا چھوٹی چھوٹی چیزوں
سے لگا کر بے حد بڑی چیزوں تک چلی گئی ہیں۔ اصل نکتہ جو ان واضح طور پر بیان کردہ تصورات
کو یاد رکھنے اور ایک مرتبہ پھر ذہن نشین کرنے کا ہے وہ یہ ہے کہ وہ جدید سائنس سے کلی طور
پر مطابقت رکھتے ہیں۔

عالم حیوانی (ج)

قرآن مجید میں عالم حیوانی سے متعلق متعدد سوالات ہیں جو ایسی تشریحات کے موضوع
ہیں جن کا جدید سائنسی معلومات سے مقابلہ و موازنہ ہوتا ہے لیکن اگر اس اقتباس جیسی جو آئندہ
دیا جاتا ہے اس موقع پر کوئی عبارت چھوڑ دی جائے تو پھر قرآن میں اس مضمون کے متعلق جتنا کچھ
شامل ہے اس کا ایک نامکمل تصور ہی حاصل ہوتا ہے اس عبارت میں عالم حیوانی میں پائے جانے
والے کچھ عناصر کی تخلیق اس غرض سے بیان کی گئی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے اس فضل و کرم پر غور
کرے جو خداوند قدوس نے اس پر کیا ہے یہ عبارت بنیادی طور پر اس طریقہ کی مثال پیش کرنے
کے لیے نقل کی گئی ہے جس طریقہ سے قرآن انسانی ضروریات کے مطابق تخلیق کے ساتھ ہم آہنگی
پیدا کرنے کا ذکر کرتا ہے۔ یہ خصوصیت سے ان لوگوں کے معاملہ کو بیان کرتا ہے۔ جو دیہاتی ماحول
میں رہتے ہیں۔ اس لیے کہ کوئی بات بھی ایسی نہیں ہے جس کا جائزہ کسی اور نقطہ نظر سے
لیا جا سکتا ہو۔

سورة ۱۶، آیات ۵-۸

اُس نے جانور پیدا کیے جن میں تمہارے لیے
پوشاک بھی ہے اور طرح طرح کے دوسرے
فائدے بھی۔ اُس میں تمہارے لیے جمال ہے۔

وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا
دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ
وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ

جب کہ تم صبح کے وقت انہیں چرنے کے لیے بھیجتے ہو اور جب کہ شام کے وقت انہیں واپس لاتے ہو۔ وہ تمہارے لیے بوجھ ڈھو کر ایسے ایسے مقامات تک لے جاتے ہیں جہاں تم سخت جانفشان کے بغیر نہیں پہنچ سکتے۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب بڑا ہی شفیق اور مہربان ہے اس نے گھوڑے اور خچر اور گدھے پیدا کیے تاکہ تم ان پر سوار ہو اور وہ تمہاری زندگی کی رونق بنیں۔ وہ اور بہت سی چیزیں تمہارا فائدے کے لیے پیدا کرتا ہے جن کا تمہیں علم تک نہیں ہے۔

تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ
وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ
بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَلِغِيهِ إِلَّا
بِشِقِّ الْأَنْفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ
لَرَوْفٌ رَّحِيمٌ وَالْحَيْلَ
وَالْبَغَالَ وَالْحَمِيرَ
لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً
وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

ۛ
ۛ
ۛ

ان عام کیفیات کے ساتھ ساتھ قرآن کریم انتہائی متنوع مضامین پر بعض معلومات فراہم کرتا ہے۔

_____ عالم حیوانی میں افزائش نسل

_____ حیوانی برادریوں کے وجود کا ذکر

_____ ایسے بیانات جو شہد کی مکھیوں، مکڑیوں اور پرندوں سے متعلق ہیں۔

_____ جانوروں کے دودھ کے اجزائے ترکیبی کے ذریعہ پر ملاحظیات اور آرا

۱۔ عالم حیوانی میں افزائش نسل

اس کو بڑے اختصار کے ساتھ سورۃ ۵۳ کی آیات ۴۵ اور ۴۶ میں بیان کیا گیا ہے۔

وَأَنَّهُ خَلَقَ الذُّرُوجَيْنِ الذَّكَرَ
اور یہ کہ اُس نے نر اور مادہ کا جوڑا

وَالْأُنثَىٰ مِنْ نُّطْفَةٍ إِذَا
پیدا کیا ایک لونڈے سے جب وہ ٹپکانی

تُمْنَىٰ ۝
جاتی ہے۔

جوڑا (زوج) وہی لفظ ہے جس سے ہمیں پہلے ہی ان آیتوں میں سابقہ پڑ چکا ہے جن میں عالم نبات میں افزائش نسل کے متعلق گفتگو کی گئی ہے۔ یہاں جنینوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ تفصیل جو مطلقاً قابل ذکر ہے وہ وضاحت ہے جس سے اس امر کا اظہار کیا گیا ہے کہ رقیق شے کی تہایت

قلیل مقدار افزائش نسل کے لیے درکار ہوتی ہے۔ خود لفظ "نطفہ" استعمال کیا گیا ہے۔ جو اس رقیق شے کو ظاہر کرتا ہے۔ اس قول کی موزونیت پر آئندہ باب میں صراحت پیش کی جائے گی۔

۲۔ حیوانی برادری کے وجود کا ذکر

سورۃ ۱۶، آیت ۳۸

زمین پر چلنے والے کسی جانور اور ہوا میں پروں سے اڑنے والے کسی پرندے کو دیکھ لو یہ سب تمھاری ہی طرح کے انواع ہیں، ہم نے ان کی تقدیر کے نوشتہ میں کوئی کسر نہیں چھوڑی پھر یہ سب اپنے رب کی طرف ستمے جاتے ہیں۔

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ
ذَلَّاطٍ يُظَيِّرُ بِجَنَّا حَيْهٍ
إِلَّا أُمَّمٌ أَمَّنَّا لَكُمْ مَا فَرَرْنَا
فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ
تَمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ

اس آیت میں رنات ہیں جن کی وضاحت ضروری ہے۔ اولاً یہ بات ظاہر ہوگی کہ اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ بعد مرنے کے جانوروں کے ساتھ کیا پیش آتا ہے بظاہر اس معاملہ میں اسلام میں کوئی اصول متعین نہیں ہے اس کے بعد عمومی طور پر تقدیر کا مسئلہ ہے جس کا یہاں پر ذکر کیا جائے گا اس کو مطلقاً جبر سمجھا جائے یا اضافی طور پر یعنی اجسام اور ایک یا ضابطہ نظام تک محدود رکھا جائے جو ایک خاص طرز عمل پر منحصر ہو۔ حیوان مختلف خارجی مہیجات اور تحریکات کے زیر اثر کام کرتے ہیں جو مخصوص حالت کے تابع ہوتی ہیں۔

بلاشیر کا کہنا ہے کہ ایک قدیمی مفسر جیسے رازی (امام فخر الدین رازی) کا خیال تھا کہ یہ آیت محض جبلی افعال کی جانب اشارہ کرتی ہے جو یہ ہے کہ جانور خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ شیخ ابو بکر حمزہ اپنے ترجمہ قرآن کی تفسیر بیان کرتے ہوئے اس جہلت کا ذکر کرتے ہیں جو حکمت ربانی کے بموجب جملہ اشیاء کو جماعتوں کی شکل میں اس طرح آگے کی جانب ڈھکیلتی ہے کہ ان کا ہر فرد سے یہ مطالبہ ہوتا ہے کہ وہ تمام جماعت کی خدمت انجام دے۔

قریبی وہ سالوں میں حیوانی طرز عمل کا بتور جائزہ لیا جا چکا ہے جس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ حقیقی طور پر حیوانی برادریاں وجود رکھتی ہوتی معلوم ہوئیں۔ یقیناً طویل عرصہ تک ایک جماعت یا برادری

۱۵ ہم نے اس کتاب کے میسرے حصہ کی تمہید میں اس چیز سے بحث کی تھی جس کے مطابق خود انسان کے متعلق

مسئلہ جبر و قدر کے سلسلہ میں عقیدہ رکھنا چاہیے۔

کے کام کا جائزہ لیا گیا ہے اور اس کے نتیجے میں یہ تسلیم کرنا پڑا ہے کہ برادری کی تنظیمیں قائم ہیں۔ لیکن حال ہی میں ایسا ہوا ہے کہ اس نوع کی کسی تنظیم کے لیے جس نظام کی کارفرمائی ہے وہ صرف چند انواع میں دریافت ہوئی ہے۔ جس معاملہ کا سب سے زیادہ مطالعہ کیا گیا ہے اور جس کے بارے میں سب سے زیادہ واقفیت ہے وہ شہد کی مکھی کا معاملہ ہے جس کے طرز عمل اور کارگزاری سے فان فریش کا نام والیسطہ ہے۔ فان فریش لارنیز اور ٹمبرگین نے اس شعبہ میں جو کام کیا اس کے لیے انھیں ۱۹۷۳ء میں نوبل انعام ملا تھا۔

۳۔ ایسے بیانات جو شہد کی مکھیوں، مکڑیوں اور پرندوں سے متعلق ہیں

جب اعصابی نظام کے ماہرین اس انوکھی تنظیم کی نمایاں مثالیں فراہم کرنا چاہتے ہیں۔ جو حیوانی رویہ اور طرز عمل میں رہنمائی کرتی ہے تو اس میں امکانی طور پر جن جانوروں کا زیادہ حوالہ دیا جاتا ہے وہ شہد کی مکھیاں، مکڑیاں اور پرندے (بالخصوص موسمی پرندے) ہیں۔ بات خواہ کچھ ہو اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ تینوں جماعتیں ایک انتہائی ترقی یافتہ تنظیم کا نمونہ پیش کرتی ہیں۔

یہ حقیقت کہ قرآن کا متن عالم حیوانی میں اس مثالی نگرہی کا حوالہ دیتا ہے اس غیر معمولی دلچسپ طرز عمل کے ساتھ مطلقاً مطابقت رکھتی ہے جو ان جانوروں میں سے ہر ایک سائنسی نقطہ نظر اختیار کرتا ہے۔

شہد کی مکھیاں

قرآن مجید میں شہد کی مکھیاں سب سے طویل تفسیر و تشریح کا موضوع ہیں۔

سورۃ ۱۶، آیات ۶۸ اور ۶۹

اور دیکھو تمہارے رب نے شہد کی مکھی پر یہ
بات وحی کر دی کہ پہاڑوں میں اور درختوں میں
اور ٹیٹیوں پر چڑھاتی ہوئی ہیلوں میں اپنے

وَأَوْسَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنْ
اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا
وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ

۱۶۔ ضمایہ بات نوٹ کی جاسکتی ہے کہ قرآن کریم میں صرف یہ آخری آیت ہی ایسی ہے جس میں انسان کے دوا علاج کا ذکر کیا گیا ہے۔ شہد تینا کئی بیماریوں کے لیے مفید ہے اس مضمون کے متعلق مخالفت میں خواہ کچھ کہا جائے قرآن میں کسی اور مقام پر کسی معالجاتی فن کا حوالہ نہیں ملتا۔

چھتے بنا اور ہر طرح کے پھلوں کا رس چوس اور
اپنے رب کی ہموار کی ہوئی راہوں پر چلتی
رہ اس مکھی کے اندر سے رنگ برنگ کا
ایک شربت نکلتا ہے جس میں لوگوں کے لیے
شفا ہے۔

ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ
فَأَسْكِنِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلَلًا
يَخْرُجُ مِنْ بَطُونِهَا شَرَابٌ
مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ
شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ ط

یہ جاننا اس وقت تک مشکل ہے کہ »اپنے رب کی ہموار کی ہوئی راہوں پر چلتے رہنے« کا
صحیح مفہوم کیا ہے۔ جب تک کہ اس کو عام اصطلاحوں میں نہ سمجھا جائے۔ اُن کے طرز عمل سے حاصل
شدہ معلومات کے سلسلہ میں وہ سب کچھ جو کہا جاسکتا ہے یہ ہے کہ یہاں — جیسا کہ اُن تین
جاوروں میں سے جن کو بطور مثال قرآن میں بیان کیا گیا ہے۔ ہر ایک کے معاملہ میں — ایک عجیب و
غریب اعصابی نظام اُن کے رویہ اور طرز عمل کو سہارا دے رہا اور چلا رہا ہے۔ یہ بات معلوم ہے
کہ شہد کی مکھی کے ناپچ کا ڈھنگ دوسری مکھیوں کی جانتی نمبر سانی کا ایک ذریعہ ہوتا ہے —
اس طریقہ سے شہد کی مکھیوں اپنی ہی نوع کو ہدایت اور اُن پھولوں کے فاصلہ کے متعلق معلومات
فراہم کرتی ہیں جن سے رس جمع کرنا ہوتا ہے فان قریش نے اس سلسلہ میں جو تحریر کیا ہے وہ
اس مخلوق کی اُس نقل و حرکت کے مفہوم کو واضح کر دیتا ہے۔ جس کا مقصد مزدور مکھیوں کے درمیان
خبریں منتقل کرنا ہے۔

مکڑیاں

قرآن میں مکڑیوں کا ذکر اُن کے مسکن کی نزاکت (تار عنکبوت) پر زور دینے کے لیے کیا گیا ہے
جو سب سے زیادہ بودا ہوتا ہے اُن کی پناہ گاہ قرآن کریم کے بموجب ایسی ہی جو کھم کی ہوتی ہے
جیسا کہ اُن لوگوں کا مسکن ہوتا ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو اپنا رب بتایا ہے۔

سورۃ ۲۹، آیت ۴۱

جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے سرپرست
بنا لیے ہیں اُن کی مثال مکڑی جیسی ہے جو اپنا
ایک گھر بناتی ہے اور سب گھروں سے زیادہ
مزدور گھر مکڑی کا گھر ہی ہوتا ہے کاش یہ لوگ
علم رکھتے۔

مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ
دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ
لَا تَخْذَتُ بَيْنَهُمَا وَابِتَّ أَوْهَنَ
الْبُيُوتِ لَبِيتُ الْعَنْكَبُوتِ م
كُلُّ كَانُوا يَعْلَمُونَ ه

مکڑسی کا جالانی الحقیقت ریشمی دھاگوں کا ہوتا ہے جو اس جانور کے غدودوں سے ریس کر نکلتا ہے اور وہ بے انتہا مہین ہوتا ہے۔ اس کی نزاکت کی نقل انسان نہیں اتار سکتا۔ ماہرین حیوانات کام کے اس غیر معمولی نمونہ سے جو اس جانور کے اعصابی تخلیقات سے ترتیب پاتا ہے مسحور ہو جاتے ہیں اس اعصابی نظام سے اس جانور کو ایک مکمل ہندسی نوعیت کا جالاتانے میں مدد ملتی ہے۔

پرنندے

پرنندوں کا قرآن میں اکثر تذکرہ کیا گیا ہے۔ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام کے حالات زندگی کے دوران دکھائی دیتے ہیں۔ لیکن یہ حوالجات زیر غور مضمون پر کوئی روشنی نہیں ڈالتے۔ زمین پر حیوان برادریوں اور آسمان پر پرندوں کے غنوں سے متعلق آیت صدر میں پیش کر دی گئی ہے۔

سورۃ ۶، آیت ۲۸

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَّمًا أَمْثَلَكُمْ مَا فَزَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ

زمین پر چلنے والے کسی جانور اور ہوا میں پروں سے اڑنے والے کسی پرندے کو دیکھ لو۔ یہ سب تمہاری ہی طرح کے انواع ہیں۔ ہم نے ان کی تقدیر کے نوشتہ میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ پھر یہ سب اپنے رب کی طرف سمٹے جاتے ہیں۔ دو اور آیتیں پرندوں کے قدرتِ خداوندی کے مکمل طور پر تابع ہونے کو نمایاں کرتی ہیں۔

سورۃ ۱۶، آیت ۷۹

أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ

کیا ان لوگوں نے کبھی پرندوں کو نہیں دیکھا کہ فضائے آسمانی میں کس طرح مسخر ہیں؟ اللہ کے سوا کس نے ان کو تھام رکھا ہے

سورۃ ۶۷، آیت ۱۹

أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ قَوْقِهِمْ صَلَّتْ وَيَقْبِضُنَّ مَا يُمْسِكُهُنَّ

کیا یہ لوگ اپنے اوپر اڑنے والے پرندوں کو پر پھیلانے اور سکپڑتے نہیں دیکھتے۔ رحمن کے سوا

کوئی نہیں جو انہیں تھامے ہوئے ہو۔

ان آیات میں سے ہر ایک میں محض ایک لفظ کا ترجمہ ایک نہایت نازک مسئلہ بن جاتا ہے۔ جو ترجمہ یہاں دیا گیا ہے اس سے یہ خیال ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پرندوں کو اپنی قدرت سے تھامے رہتا ہے۔ زیر غور عربی کا لفظ ”أَمْسَكَ“ ہے جس کا ابتدائی مفہوم ہے ”قبضہ میں رکھنا“، پکڑنا، تھامنا روکنا۔“

ان آیتوں کے مقابلہ سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اپنی نقل و حرکت کے پروگرام میں پرندوں کی بعض انواع کو جو تکمیل کا درجہ حاصل ہوتا ہے اس سلسلہ میں یہ آیتیں اس بات پر زور دیتی ہیں کہ موجودہ کسی عقلی دلیل کے مقابلہ میں پرندے حکم ربی پر کہیں زیادہ انحصار کرتے ہیں۔ پرندوں کو تو والدو تناسل کے رمز (جینیٹک کوڈ GENETIC CODE) میں صرف ایک انتقالی پروگرام کی موجودگی ہی ان طویل اور اتہائی پیچیدہ سفروں کی وجہ ہو سکتی ہے۔ جن کو نہایت ننھے منے پرندے بغیر کسی سابقہ تجربہ اور کسی رہنما کے مکمل کر لیتے ہیں۔ یہ بات ان کی اس خوبی کے علاوہ ہے کہ وہ ایک مقررہ تاریخ پر پھر اسی جگہ واپس آجاتے ہیں جہاں سے وہ روانہ ہوئے تھے۔ پروفیسر ہمبرگر اپنی کتاب ”طاقات اور کمزوری (لاپوٹیاں لے لافراٹلت)“ میں ٹن برڈ کے جو سجر الکابل کے علاقہ میں رہتی ہے مشہور

لے جدید ترین تحقیقات پر سائنس نے دریافت کیا ہے کہ تمام جانداروں کے (نباتات ہوں یا حیوانات) ہر خلیہ میں ایک کیمیادی مرکب ”ڈی۔ این۔ اے“ ہوتا ہے۔ یہ بہت معمولی قسم کا کیمیادی مرکب ہے۔ اس کی شکل ایک گول زمینہ کی طرح ہوتی ہے اور یہ نروینی کمپیوٹر کی طرح کام کرتا ہے جس میں احکام کے یاد کرانے ہوئے حافظہ کی لاتعداد نقلیں ہوتی ہیں جن کو کوڈ (رمز) کہتے ہیں۔ جب یہ خلیہ دو میں تقسیم ہوتا ہے تو ہر حصہ کو اپنے اپنے کام کے لحاظ سے یہ نقلیں بھی مل جاتی ہیں۔

احکام کا یہ ٹیپ رکارڈ ہر خلیہ میں صحیح وقت اور موقع پر احکام جاری کرتا رہتا ہے کہ خلیہ کو اب کیا کام کرنا ہے۔ یہ کوڈ اسی حساب سے احکام جاری کرتے رہیں گے جو اس کو خلیہ کی تقسیم کے وقت اس نقل میں ملے تھے۔ ان احکام کی تلاش میں ڈی۔ این۔ اے اور یہ کوڈ (رمز) دریافت ہوئے ان رموز کو کون واضح کرتا ہے اور کیوں؟ ابھی تک سائنس اس کو سمجھنے سے بھی قاصر ہے بنانا تو درکنار

ڈی۔ این۔ اے کے یہ کوڈ خلیات میں تحریر

ہے ایک نوشتہ جو ہے احکام کی تعبیر

ڈی کوڈ یہ جب ہوتی ہے لکھی ہوئی تقدیر

آتی ہے نظر فعل کی صورت میں یہ تفسیر

یہ دیکھ کے سمجھو کہ ضرورت ہے خدایا کی
(بغیہ اگلے صفحہ پر)

(ماخوذ از بصیرت مصنف ڈاکٹر قیوم پاشا زیری)

واقعہ کی مثال پیش کرتے ہیں کہ وہ پندرہ ہزار پانچ سو میل کا سفر انگریزی کے ہندسہ آٹھ (8) لے کی شکل میں ترتیب پا کر طے کرتی ہے۔ یہ بات مانتی پڑتی ہے کہ اس قسم کے سفر کے لیے یہ انتہائی پیچیدہ ہدایات اس پرندے کے محض اعصابی خلیات ہی میں شامل ہو سکتی ہیں۔ وہ بے انتہا واضح طور پر منضبط ہوتے ہیں لیکن اس انضباط کو وجود میں لانے والا کون ہے؟

۴۔ جانوروں کے دودھ کے اجزائے ترکیبی کا ذریعہ

قرآن کریم میں اس کی تعیین جدید معلومات کے ساتھ کلی طور پر مطابقت رکھتی ہے (سورۃ ۱۶ آیت ۶۶) یہاں اس آیت کا ترجمہ اور اس کی تشریح میری اپنی کی ہوئی ہے کیونکہ جدید ترجمے بھی روایتی طور پر اس کا وہ مفہوم بتاتے ہیں جو میری رائے میں مشکل سے ہی قابل قبول ہو سکتا ہے۔ یہاں دو مثالیں پیش ہیں۔

آر بلیشتر کا ترجمہ ہے۔

”یقیناً تمہارے جانوروں میں تمہارے لیے ایک سبب ہے! ہم تمہیں پینے کے لیے خالص دودھ دیتے ہیں جو پینے والوں کے لیے نہایت خوب ہوتا ہے یہ ان کے پیٹ میں جس چیز سے بنتا ہے وہ کیولس اور خون کے درمیان کی چیز ہے۔“

پروفیسر حمید اللہ کا ترجمہ ہے۔

”یقیناً تمہارے جانوروں میں سوچنے کے لیے غذا ہے۔ ان کے فضلہ اور خون کے درمیان ان کے پیٹ میں جو کچھ ہے اس میں سے ہم تمہیں وہ خالص دودھ پلاتے ہیں جس کا ہضم کرنا پینے والوں کے لیے آسان ہوتا ہے۔“

اگر یہ متون کسی ماہر عضویات کو دکھائے جائیں تو وہ کہے گا کہ یہ تو بے انتہا مبہم ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ان کے اور جدید تصورات کے درمیان نہایت ابتدائی سطح پر بھی مشکل سے کوئی مطابقت دکھائی دیتی ہے یہ ترجمے عربی زبان کے بڑے ماہرین کے کیے ہوئے ہیں۔ لیکن یہ ایک

بقیہ حاشیہ ۱۔ ۱۹۷۲ء تا ۱۹۷۳ء پیرس

حاشیہ صفحہ ہزار ۱۷۰ یہ اس سفر کی چھ ماہ کی مدت میں طے کرتی ہے اور زیادہ سے زیادہ ایک ہفتہ کی تاخیر سے پھر اسی جگہ واپس آجاتی ہے جہاں سے روانہ ہوئی تھی۔

۱۷۰ شائع کردہ جی پی میس نیو اے لا روز ۱۹۶۶ء پیرس

۱۷۱ شائع کردہ کلب فرانے دو لیور ۱۹۷۱ء پیرس

معروف حقیقت ہے کہ کوئی مترجم خواہ وہ کتنا ہی ماہر ہو سائنسی بیانات کے ترجمے میں غلطیاں کر سکتا ہے جب تک کہ وہ زیر غور موضوع کا ماہر نہ ہو۔

انتہائی صحیح ترجمہ جو مجھے محسوس ہوتا ہے وہ حسب ذیل ہے :-

”یقیناً جانوروں میں تمہارے لیے ایک سبق ہے۔ ہم تمہیں ان کے جسموں کے اندر کی اس چیز سے جو آنتوں کے مادہ اور خون کے اختلاط سے ایسا دودھ دیتے ہیں جو پینے والوں کے لیے خالص اور فرحت بخش ہوتا ہے“ (سورہ ۱۱۶، آیت ۶۶)

یہ تشریح اسی تشریح سے بہت قریب ہے جو منتخب ۱۹۷۳ء میں دی گئی تھی جس کو سپریم کونسل برائے اسلامی قاسم نے ترتیب دیا تھا۔ جس کی تائید جدید علم الاعضاء سے ہوتی ہے۔

اپنی لغات کے لحاظ سے مجوزہ ترجمہ مندرجہ ذیل طریقہ پر ترقی بجائے قرار دیا جاسکتا ہے۔ میں نے ترجمہ کیا ہے ”ان کے جسموں کے اندر“ اور اس طرح نہیں جس طرح آریبلش اور پروفیسر حمید اللہ نے کیا ہے ”ان کے پیٹ میں“۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لفظ ”بطن“ کے معنی ”وسط“ اور کسی چیز کے اندر بھی ہیں اور ”پیٹ“ بھی ہیں۔ یہاں ان میں کوئی مفہوم ایسا نہیں ہے جو تشریح بدن کے لحاظ سے صحیح ہو۔ ”ان کے جسموں کے اندر“ ایسا فقرہ ہے جو سیاق عبارت سے پوری مطابقت رکھتا ہے۔

دودھ کے اجزائے ترکیبی کے ابتدائی ماخذ، کا تصور لفظ ”من“ سے واضح ہوتا ہے۔ (انگریزی میں لفظ فرام) اور ایک حرف عطف کا تصور لفظ ”بطنی“ سے ملتا ہے۔ مؤخر الذکر نہ صرف ”من“ جملہ، کے مفہوم کو ظاہر کرتا ہے بلکہ ”درمیان“ کے معنی بھی دیتا ہے۔ جیسا کہ دوسرے ترجموں میں بتایا گیا ہے۔ لیکن یہ اس تصور کو بیان کرنے کے لیے بھی استعمال ہوا ہے کہ دو چیزیں یاد و اشخاص باہم ملائے گئے یا قریب لائے گئے ہیں۔

سائنسی نقطہ نظر سے عضویاتی تصورات اس آیت کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے ذہن میں لانے پڑیں گے۔

جو مادے جسم کے لیے عام تغذیہ کے سلسلہ میں یقینی ہوتے ہیں وہ اس کیمیاوی استحالیہ سے حاصل ہوتے ہیں جو دائرہ ہضم کے طول میں رونما ہوتا ہے یہ مادے آنتوں کے مشمولات سے فراہم ہوتے ہیں۔

آنت میں کیمیاوی استحالیہ کے ایک مناسب مرحلہ پر پہنچ کر وہ اس کی جدار سے گزرتے ہیں اور دوران منہاجی کی جانب رواں ہوتے ہیں۔ یہ انتقال دو طریقوں سے ہوتا ہے۔ یا تو براہ راست

یعنی اُن نسوں کے ذریعہ جو عروقِ جاذبہ کہلاتی ہیں۔ یا بالواسطہ یعنی بذریعہ دورانِ الباب۔
 اس طرح سے پہلے وہ جگر میں پہنچتے ہیں جہاں اُن میں تبدیلی رونما ہوتی ہے اور یہاں سے وہ دورانِ
 منہاجی میں شامل ہونے کے لیے نکل پڑتے ہیں۔ اس طرح ہر شے خون کی تالی سے ہو کر گزرتی ہے۔
 دودھ کے اجزائے ترکیبی پستان کے غدودوں سے رستے ہیں۔ پھر جیسا کہ ہوتا ہے اُن
 کو غذا کے ہضم ہونے سے بننے والی اس شے سے غذائیت ملتی ہے جو خون کی تالیوں کے ذریعہ
 اُن اجزائے تک پہنچتی ہے۔ چنانچہ خون اس شے کا جو کھانے سے حاصل ہوتی ہے جمع کرنے اور
 پہنچانے والا عامل ہے اور اسی سے پستانوں کے غدودوں کا تغذیہ ہوتا ہے جہاں دودھ کی
 تولید ہوتی ہے۔ یہ اسی طرح کا عمل ہے جس طرح کا دوسرے کسی عضو کے ساتھ ہوتا ہے۔
 یہاں وہ ابتدائی عمل جو ہر دوسری چیز کو حرکت میں لے آتا ہے، آنت اور خون کے
 مشمولات کو خود جدارِ الامعا کی سطح پر باہم ملا دیتا ہے۔ یہ نہایت واضح تصورِ کیمیا اور علم
 الاعضاء میں تحقیقات کے نتیجہ کے طور پر حاصل ہوا ہے۔ رسولِ خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم
 کے زمانہ میں اس کا قطعاً علم نہیں تھا اور محض ماضی قریب میں اس کو سمجھا گیا ہے۔ دورانِ خون
 کی دریافت نزولِ قرآن کے تقریباً دس صدیوں بعد ہاروے نے کی ہے۔
 میں سمجھتا ہوں کہ ان تصورات کے حوالوں کی قرآن میں موجودگی کی وضاحت انسان کے بس
 کی بات نہیں اس لیے کہ وہ تصورات بعد میں وضع ہوئے۔



انسان کی افزائش نسل

جس لمحہ سے قدیم انسانوں کی تحریروں میں افزائش نسل کے موضوع پر تفصیلات کا سلسلہ شروع ہوا ہے (خواہ وہ کتنا ہی قلیل تھا) اُس وقت سے اُن میں ایسے بیانات پیش ہوتے رہے ہیں جو غیر صحیح ہیں۔ قرون وسطیٰ میں — اور نسبتاً زیادہ جدید زمانہ میں بھی — افزائش نسل کے موضوع کو تمام اقسام کے اساطیر اور توہمات گھیرے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہو بھی کیا سکتا تھا جب ہم اس حقیقت کو دیکھتے ہیں کہ اس کی انتہائی درجہ کی پیچیدہ میکانیات کو سمجھنے کے لیے انسان کے لیے ضروری تھا کہ وہ تشریح بدن سے واقفیت حاصل کرتا۔ اُس کے لیے خوردبین کی دریافت ضروری تھی اور پھر اُس کے لیے اُن تمام نہاد بنیادی سائنسوں کی اساس قائم ہوتی جو عضویات، جنینیات قابلہ گرمی وغیرہ کو ترقی دیتیں۔

قرآن کریم میں کیفیت اس سے قطعاً مختلف ہے۔ الکتاب بہت سے مقامات پر صحیح میکانیات کو بتاتی اور افزائش نسل کے واضح مدارج کو بیان کرتی ہے جس میں کسی ایک مقام پر بھی غیر صحیح ہونے کا کوئی امکان نہیں۔ قرآن میں ہر بات آسان لفظوں میں بیان کر دی گئی ہے جو انسان کے آسانی سے سمجھ میں آنے والی ہے اور اُس چیز سے پورے طور پر مطابقت رکھتی ہے جس کی دریافت بہت بعد میں ہونے والی تھی۔

انسان کی افزائش نسل کا واقعہ قرآن مجید کی کئی درجن آیات میں دیا گیا ہے اور مختلف سیاق و سباق کے ساتھ ہے۔ اس کی تشریح ایسے بیانات کے ذریعہ ہوئی ہے جن میں ایک بار زیادہ مخصوص نکات کا تذکرہ ہے۔ تمام آیات کا ایک مجموعی تصور دلانے کے لیے اُن بیانات کو یکجا کرنا پڑے گا اور اس طرح جیسا کہ دوسرے مضامین کے سلسلہ میں پیشتر دیکھا جا چکا ہے اُن پر راتے زنی کرنا آسان ہوگا۔

بعض بنیادی تصورات کی یاد دہانی

بعض اُن بنیادی تصورات کو یاد دلانا قطعاً ضروری ہے جو نزول قرآن کے وقت اور اس

کے بعد کی صدیوں میں نامعلوم تھی۔

انسان کی افزائش نسل ایک ایسے سلسلہ عمل سے ہوتی ہے جو ہمارے اور دودھ پلانے والے جانوروں میں مشترک ہے۔ نقطہ آغاز ایک ایسے بیضہ کا بارور ہونا ہے جو خود کبھی تخم (بیضہ دان) سے الگ ہو جاتا ہے یہ عمل حیض کے دوران نصف مدت میں قنات المبيض میں انجام پاتا ہے۔ بارور کرنے والا عامل مرد کا نطفہ ہے۔ یا زیادہ صحیح کہیں تو حیوان منویہ ہے جس کا محض ایک بارور کرنے والا خلیہ درکار ہوتا ہے۔ لہذا باروری کے عمل کو یقینی بنانے کے لیے مادہ منویہ کی نہایت ہی قلیل مقدار جس میں ایک بڑی تعداد حیوانات منویہ کی (ایک وقت میں کروڑوں) ہو درکار ہوتی ہے۔ یہ مادہ خستہوں سے پیدا ہوتا اور عارضی طور پر منایع اور تالیوں کے ایک نظام میں جمع رہتا ہے اور آخر میں پیشاب کی تالی میں پہنچ جاتا ہے اس موخر الذکر تالی کے ارد گرد دوسرے غدود ہوتے ہیں جو اپنی اضافی رطوبات کو متی کے اندر شامل کر دیتے ہیں۔

اس عمل سے بارور شدہ بیضہ کا استقرار نسوانی نظام تولید میں ایک مخصوص مقام پر انجام پاتا ہے۔ اور ایک قنات المبيض کے ذریعہ رحم میں داخل ہو جاتا اور رحم کے اندر قیام کرتا ہے جہاں وہ عضلہ اور جھلی کی دہانت میں پیوست ہو کر اصطلاحی طور پر استقرار پاتا ہے۔ یہاں تک اس کی مدد سے آنول نال کی تشکیل ہو جاتی ہے۔ مثالی کے طور پر اگر بارور بیضہ کا استقرار بجائے رحم کے قنات المبيض میں ہو گیا تو حمل میں بے ضابطگی پیدا ہو جائے گی۔

جب ایک مرتبہ جنن خالی آنکھ سے نظر آنے لگے تو وہ گوشت کی ایک چھوٹی سی بوٹی کی طرح معلوم ہوتا ہے جس کے مرکز پر شروع شروع میں انسانی شبیہ تا قابل شناخت ہوتی ہے۔ وہاں یہ مختلف اور ترقی یافتہ مدارج سے گزرتی ہے جس کے متعلق آج کل نجومی علم و واقفیت ہے۔ وہ بڑھ کر ہڈیوں کا ڈھانچہ بنتی ہے۔ اس پر عضلات چڑھتے ہیں۔ اعصابی نظام قائم ہوتا ہے۔ پھر دوران خون اور احتشاء وغیرہ کی تخلیق ہوتی ہے۔

یہ تصورات حوالہ کی ان اصطلاحوں کو سمجھنے میں کام دیں گے جن کے ساتھ افزائش نسل سے متعلق قرآن میں دیتے ہوئے بیانات کا مقابلہ کرتا ہے۔

قرآن میں انسانی افزائش نسل

اس بات کا تصور دلانا آسان نہیں ہے کہ قرآن میں اس موضوع سے متعلق کیا دیا ہوا ہے پہلی دقت اس حقیقت کی بنا پر پیش آتی ہے جس کا پیشتر ذکر کر دیا گیا ہے۔ یعنی اس موضوع سے

متعلق بیانات پوری کتاب میں منتشر حالت میں پائے جاتے ہیں۔ تاہم یہ سب سے بڑی وقت و دستاویزی نہیں ہے۔ جو چیز ایک مستحسن قاری کو زیادہ چکر میں ڈال سکتی ہے وہ لغت کا مسئلہ ہے۔

حقیقت میں اس وقت بھی بہت سے ایسے تراجم اور تفاسیر رائج ہیں جن سے کسی سائنس دان کو جو قرآن کا مطالعہ کرے اس موضوع سے متعلق نزول قرآن کا ایک بائبل ہی قلم تصور قائم ہوتا ہے مثال کے طور پر تراجم کی اکثریت انسان کی تشکیل خون کے ایک قطرہ یا ایک سلسلے مادہ سے قرار دیتی ہے۔ اس قسم کا کوئی بیان ان سائنسدانوں کے لیے قطعاً ناقابل قبول ہے جو اس شعبہ میں اختصاص کیے ہوئے ہیں جس پیراگراف میں رحم مادر میں بیضہ کی باروری سے بحث کی گئی ہے اگر اس کی روشنی میں ہم ان اسباب کا جائزہ لیں تو ہمیں پتہ چل جائے گا۔ ان مشہور عربی دانوں نے جو سائنسی معلومات سے عاری ہیں کیوں اس نوع کی فاش غلطیاں کی ہیں۔

یہ مشاہدہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ سائنسی اور سائنسی معلومات کی وابستگی کس قدر اہم ہے جب کہ اس سے انفرانش نسل سے متعلق قرآنی بیانات کے سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ جنین رحم مادر میں اپنی منزل مقصود پر پہنچنے سے پہلے جن متواتر تبدیلیوں سے ہو کر گزرتا ہے قرآن کریم ان پر زور دیتے ہوئے بیان کرتا ہے۔

سورۃ ۸۲، آیات ۶ تا ۸ :-

يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّبَكَ
بَدَيْتَ الْكَرِيمِۙ الَّذِي
خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ ۗ
فِي أَيِّ صُورَةٍ مَّا شَاءَ
رَبُّكَ ۗ

اے انسان، کس چیز نے تجھے اپنے اسی رب
کریم کی طرف سے دھوکے میں ڈال دیا جس
نے تجھے پیدا کیا، تجھے نک سب سے درست
کیا، تجھے مناسب حالت میں بنایا اور جس
صورت میں چاہا تجھ کو جوڑ کر تیار کیا ؟

سورۃ ۷۱، آیت ۱۲ :-

وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَأَسًا ۝
اس عمومی مشاہدہ کے ساتھ، قرآن کریم انفرانش نسل سے متعلق ان متعدد نکات کی
جانب توجہ مبذول کرتا ہے جس کی فہرست ذیل میں درج ہے۔

(۱) باروری کا عمل رقیق مادہ کی صرف نہایت قلیل مقدار سے انجام پاتا ہے۔

(۲) بارور کرنے والے رقیق مادہ کے اجزائے ترکیبی

(۳) بارور شدہ بیضہ کا استقرار

(۴) جنین کا ارتقاء

۱۔ باروری کا عمل رقیق مادہ کی محض نہایت قلیل مقدار سے انجام پاتا ہے

قرآن کریم مندرجہ ذیل عبارت کو استعمال کر کے اس تصور کو گیارہ مرتبہ دہراتا ہے۔

سورۃ ۱۶، آیت ۴۰۔

اَسْ نَعْمَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهُ نَاظِرِينَ

خَاقٍ اِلٰنَّاسَانَ مِنْ

لِنُطْفَةٍ

نُطْفَةٍ

عربی لفظ "نطفہ" کا ترجمہ (منی) کی قلیل مقدار کے الفاظ سے کیا گیا ہے۔ کیونکہ ہمارے پاس ایسی اصطلاحیں موجود ہیں جو مکمل طور پر موزوں ہوں۔ یہ لفظ ایک ایسے مصدر سے مشتق ہے جس کا مفہوم ہے "ٹپکنا"، یا قطرہ قطرہ ہو کر گرتا، یہ لفظ اُس چیز کو بتانے کے لیے مستعمل ہے جو ایک ایسی بالٹی میں تہہ نشین ہوتی ہے جس کو خالی کر لیا گیا ہو۔ لہذا یہ لفظ رقیق مادہ کی نہایت قلیل مقدار کو ظاہر کرتا ہے۔ یہاں اس مادہ سے مراد منی ہے کیونکہ یہ لفظ ایک دوسری آیت سے بھی خود لفظ "منی" کے ساتھ وابستہ ہے

سورۃ ۷۵، آیت ۳۷۔

كَلِمَاتٍ خَالِقَاتٍ لِّلْحَيٰوةِ لَمَّا تُوْحٰى

اَلْحَدِيْكَ نُطْفَةً مِّنْ مَّنِيٍّ يُبْنٰى لَهَا

یہاں عربی کا لفظ "منی"، رقیق مادہ کو ظاہر کرتا ہے۔ ایک دوسری آیت سے ظاہر ہوتا ہے کہ زیر بحث قلیل مقدار "ایک نہایت مستحکم حالت میں ٹھہرتی (قرار) ہے جس کا مفہوم ظاہر طور پر "آلات تناسل" ہے۔

سورۃ ۲۳، آیت ۱۳، ارشاد خداوندی ہے

مِنْ مَّنِيٍّ يُبْنٰى لَهَا

ثُمَّ جَعَلْنٰهُ نُطْفَةً فِىْ قَرَارٍ

مِّنْ مَّنِيٍّ

مَّكِيْنَ

یہاں یہ وضاحت کرنی پڑے گی کہ اس صفت کا جو اس متن میں مستحکم حالت میں ٹھہرنے "مکین" کو ظاہر کرتی ہے۔ میرے نزدیک مشکل ترجمہ کیا جاسکتا ہے۔ یہ لفظ ایک نہایت مستحکم اور لائق احترام جگہ کے تصور کو پیش کرتا ہے۔ معاملہ خواہ کچھ ہو اس لفظ سے ماں کا وہ عضو

مراد ہے جس میں انسان یا لیدگی حاصل کرتا ہے۔ یہ مادہ کی اس انتہائی قلیل مقدار کے تصور پر زور دینے کے معاملہ میں تہایت اہم ہے جو باروری کے عمل کے لیے ضروری ہے۔ یہ چیز اس سے کلی طور پر مطابقت رکھتی ہے جو اس مضمون کے بارے میں آج ہمیں معلوم ہے۔

۲۔ بارور کرنے والے رقیق مادے کے اجزائے ترکیبی

قرآن بارور کرنے والے رقیق مادہ کو جس انداز میں پیش کرتا ہے اس کا جائزہ دلچسپ ہے۔

(ا) ”منیٰ“ جیسا کہ واضح طور پر بیان ہوا ہے (سورۃ ۷۵، آیت ۳۷)

(ب) ”اچھلنے والا پانی“ انسان کو ایک اچھلنے والے پانی سے پیدا کیا گیا (سورۃ ۸۶، آیت ۶)

(ج) ”حقیر پانی“ (سورۃ ۳۲، آیت ۸؛ اور سورۃ ۷۷، آیت ۲۰)

ایسا معلوم ہوتا ہے کہ صفت ”حقیر“ (مکھین) کی اتنی زیادہ خود رقیق مادہ کی اپنی نوعیت کے سبب تشریح نہیں کی جائے گی جتنی کہ اس حقیقت کی وجہ سے کہ یہ اس نالی کو جو پیشاب کے گزرنے کے لیے مخصوص ہے استعمال کے دائرہ پول کے راستہ سے خارج ہوتا ہے۔

(د) مرکب ”یا مخلوط لطفہ“ (امشاج) سورۃ ۷۶، آیت ۲)

إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ

ہم نے انسان کو ایک مخلوط لطفہ سے

آمِشَاجٍ

پیدا کیا ہے۔

بہت سے مفسرین، جیسے پروفیسر حمید اللہ ان رقیق مادوں کو مرد اور عورت کے عوامل خیال کرتے ہیں۔ یہی نظریہ دوسرے مفسرین نے بھی اپنایا تھا جن کو باروری کی عضویات حیوانی خصوصیت سے عورت کے معاملہ میں اس کی حیاتیاتی کیفیات کا کچھ بھی تصور تھا ان کا خیال تھا کہ اس لفظ سے دو عناصر کی صرف یکجائی مراد ہے۔

لیکن جدید مصنفین جیسے منتخب کے مفسرین نے جس کو تاہرہ کی اسلامی امور کی سپریم کونسل نے مرتب کیا ہے۔ اس نظریہ کی تصحیح کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ لطفہ کی تھوڑی سی مقدار بہت اجزائے ترکیبی سے بنی ہے۔ منتخب کا شارح زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا لیکن میری رائے میں یہ تہایت مدبرانہ مشاہدہ ہے۔

لطفہ کے اجزائے ترکیبی کیا ہیں؟

مادہ متویہ مختلف قسم کی رطوبات سے جو مندرجہ ذیل غدودوں سے حاصل ہوتی ہیں مل کر بنتا ہے۔

(الف) حصّے:- مرد کے تناسلی غدہ کی رطوبت میں حیوانات منویہ شامل ہوتے ہیں۔ جو لمبوترے خلیات ہوتے ہیں جن میں پلک کی شکل کا ایک حصّہ ہوتا ہے وہ ایک کیوسسی رقیق مادہ کے اندر ڈویے رہتے ہیں۔

(ب) حوصلہ منویہ (منی کی تھیلیاں):- یہ اعضاء حیوانات منویہ کے مخزن ہوتے ہیں۔ اور غدہ مثانہ کے قریب واقع ہوتے ہیں۔ ان سے اپنی رطوبت بھی رستی ہے۔ لیکن اس میں باروری کے عوامل نہیں ہوتے۔

(ج) غدہ مثانہ:- اس میں سے ایک رطوبت رستی ہے جس سے لطفہ میں ایک چکنی سائت اور مخصوص بو پیدا ہوتی ہے۔

د) دائرہ بول سے ملحق غدود:- غدود ودی سے ایک سدا رقیق مادہ رستا ہے اور غدود بڑے سدا لعاب نکلتا ہے۔

یہ مخلوط مادوں کے مراکز ہیں۔ جن کا حوالہ قرآن سے ملتا ہوا معلوم ہوتا ہے۔ لیکن اس موضوع پر مزید کچھ کہنے کی ضرورت ہے۔ جب قرآن مجید مختلف اجزاء پر مشتمل بارور کرنے والے رقیق مادہ پر گفتگو کرتا ہے۔ تو وہ ہمیں اس امر سے بھی آگاہی بخشتا ہے کہ انسان کی تشکیل کسی ایسی چیز سے قائم رہے گی۔ جو اس رقیق مادہ سے حاصل ہوگی۔ یہ سورۃ ۳۲ آیت ۸ کا مفہوم ہے۔

ثُمَّ جَعَلْنَا نَسْلَهُ مِنْ سُلالَةٍ

پھر اس کی نسل ایک ایسے ست سے

مِنْ مَّاءٍ فَجَّيْنِ

چلائی جو حقیر پانی کی طرح کا ہے۔

عربی کا لفظ جس کا ترجمہ یہاں ”ست“ سے کیا گیا ہے ”سُللہ“ ہے۔ یہ کسی ایسی چیز کو ظاہر کرتا ہے جو کشیدگی گئی ہو، جو کسی دوسری شے میں سے نکلی ہوئی ہو اور جو کسی چیز کا بہترین جزو ہو۔ اس کا خواہ کسی طرح سے ترجمہ کیا جائے یہ کل شے کے ایک جزو پر دلالت کرتا ہے۔

بیضہ کا بارور ہونا اور افزائش نسل ایک خلیہ سے وجود پاتے ہیں۔ جو نہایت لمبوترے ہوتا ہے۔ اس کے البعاد کو ایک ملی میٹر کے دس ہزارویں حصّہ میں تا پایا گیا ہے۔ عام حالات میں ان کروڑوں خلیات میں ہوا انسان کے اندر تخلیق پا کر نکلتے ہیں صرف ایک خلیہ بیضہ دان میں

لے یہ اندازہ لگایا گیا ہے کہ ایک مکعب سنٹی میٹر لطفہ میں $\frac{1}{2}$ کروڑ حیوانات منویہ ہوتے ہیں۔ جبکہ عام حالات میں ایک اخراج میں کئی مکعب سنٹی میٹر کے بقدر منی ہوتی ہے۔

نفوذ پاتا ہے۔ اُن میں سے بڑی تعداد پیچھے رہ جاتی ہے اور اس سفر کو جو یجینا سے بیضہ دان تک ہوتا ہے کبھی پورا نہیں کرتی۔ یہ سفر رحم اور قنات المبین سے ہو کر طے کرنا پڑتا ہے۔ لہذا اُس رقیق مادہ کے ست کا جس کی ترکیب انتہائی پیچیدہ ہوتی ہے۔ ایک نہایت ہی قلیل حصہ الیا ہوتا ہے جو اپنے مقصد کو پورا کرتا ہے۔

نتیجہً اس بات پر حیرت زدہ رہ جانا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ جب قرآن کے متن اور سائنس کی اُس معلومات کے درمیان مطابقت دکھائی دیتی ہے جو ان واقعات کے بارے میں آج ہمیں حاصل ہے۔

۳۔ عورت کے تناسلی اعضا میں بارور شدہ بیضہ کا استقرار

ایک بار جب قنات المبین میں بیضہ بارور ہو جاتا ہے تو وہ رحم کے اندر قرار پکڑتا ہے اس عمل کو بیضہ کا استقرار، کہا جاتا ہے۔ قرآن بارور بیضہ کی جائے قرار کو ”بجہ دانی“ کہا گیا ہے۔

سورة ۲۲، آیت ۱۵:-

وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ
إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى لَّهِ

ہم جس (لفظ) کو چاہتے ہیں ایک وقت
خاص تک رحموں میں ٹھہرائے رکھتے ہیں۔

رحم کے اندر بیضے کا استقرار بالوں کے بڑھنے اور بیضہ کے واقعہ لہا ہونے کا نتیجہ ہوتا ہے جو مٹی کے اندر جڑوں کی طرح رحم کی دبازت سے وہ غذائیت حاصل کرتا ہے جو بیضہ کی پالیدگی کے لیے ضروری ہے۔ اس تشکیل کو لغوی طور پر بیضے کے رحم کے ساتھ جمے ہونے سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہ دور جدید کی ایک دریافت ہے۔

جمے ہونے کے عمل کو قرآن میں پانچ مختلف مواقع پر بیان کیا گیا ہے۔ اول سورة ۹۶

کی آیات ۱، ۲ اور ۳ میں۔

إِنشَاءً بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي
خَلَقَ ۖ خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ
عَلَقٍ ۖ

پڑھو (اے نبی) اپنے رب کے نام کے ساتھ
جس نے پیدا کیا، جمے ہوئے خون کے ایک
لوٹھڑے سے انسان کی تخلیق کی۔

کوئی جمی ہوئی چیز ترجمہ ہے لفظ ”علق“ کا۔ یہ اس لفظ کے اصلی معنی ہیں۔ اس سے جو ایک

لے ارشاد خداوندی

مفہوم اخذ کیا گیا ہے "خون کی مچھلی" وہ اکثر ترجمہ میں نمایاں رہتی ہے۔ یہ ایک غلطی ہے جس میں محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ انسان کبھی بھی اس مرحلہ سے نہیں گزرتا جس کو "خون کی مچھلی" سے تعبیر کیا جائے۔ یہی بات ایک اور ترجمہ کے لیے صحیح ہے۔ وہ اصطلاح ہے "سپیدگی" کی۔ جو مساوی طور پر ناموزوں ہے۔ "کوئی جمی ہوئی چیز" ہی وہ اصلی مفہوم ہے جو آج کل کی مصدقہ دریافت سے پوری طرح مطابقت رکھتا ہے۔

یہ تصور چار اور آیات میں بھی دیا گیا ہے جن میں نطفہ کی قلیل مقدار سے شروع کر کے آخری مرحلہ تک تمام تبدیلیوں کو ظاہر کیا گیا ہے۔

سورۃ ۲۲، آیت ۵ :-

ہم نے تم کو کسی..... جمی ہوئی چیز
لو تھڑے سے پیدا کیا۔

فَاِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ
عَاقِقَةٍ

سورۃ ۲۳، آیت ۱۲ :-

پھر اس بوند کو لو تھڑے کی شکل دی۔

ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً

سورۃ ۴۰، آیت ۶۷ :-

وہی تو ہے جس نے تم کو پیدا کیا..... نطفے
سے پھر خون کے لو تھڑے سے

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِّنْ
نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِّنْ عَلَقَةٍ

سورۃ ۷۵، آیات ۳۷، ۳۸ :-

کیا وہ ایک حقیر بانی کا نطفہ نہ تھا۔ جو رحم
مادر میں (ٹپکایا جاتا ہے۔ پھر وہ ایک لو تھڑا
بنا پھر اللہ نے اس کا جسم بنایا اور اس کے
اعضاد درست کیے۔

اَلَمْ يَكُنْ نُّطْفَةً مِّنْ
مَّيْنِيْ يُمْنِيْ ۗ ثُمَّ كَانَ
عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى ۗ

جس عضو میں حمل قرار پاتا ہے اس کو قرآن کریم میں ایک ایسے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ جو، جیسا کہ ہم دیکھ چکے ہیں، اب بھی عربی میں رحم کے معنی دیتا ہے۔ بعض سورتوں میں اس کو ایک محفوظ جگہ (قَرَارٍ مَّكِيْنٍ) کہا گیا ہے۔ (سورۃ ۲۳، آیت ۱۳) جس کا اوپر حوالہ دیا گیا ہے اور سورۃ ۷۷، آیت ۲۱ لے

لے ایک دوسری آیت میں (سورۃ ۶، آیت ۹۸) قرار مکین کا حوالہ دیا گیا ہے۔ اس کو ایک ایسی اصطلاح سے ظاہر کیا گیا ہے جو سابقہ اصطلاح سے بہت کچھ ملتی جلتی ہے (مستقر) اور وہ رحم مادر کو ظاہر کرتی ہے۔ (باقی صفحہ آئندہ پر)

۴۔ رحم کے اندر جنین کا ارتقاء

جنین کے پڑھنے اور ترقی کرنے کے بعض مدارج کا قرآنی بیان پوری طرح اس معلومات سے مطابقت رکھتا ہے جو اس کے بارے میں آج ہمیں حاصل ہے۔ اور قرآن کریم ایک بھی بیان ایسا نہیں ہے جو جدید سائنس کے لحاظ سے تنقید کی زد میں آسکے۔

”کسی جی ہونی شے، (جو نہایت مستحکم عبارت ہے جیسا کہ ہم دیکھ چکے ہیں) کے بعد قرآن ہمیں اس امر سے واقفیت دلاتا ہے کہ جنین ”گوشت کے لوتھرے“، (مضغہ) کی شکل سے ہو کر گزرتا ہے۔ اس کے بعد استخوانی نیسجیں ظاہر ہوتی ہیں اور ان پر گوشت چڑھتا ہے (اس چیز کو ایک مختلف لفظ سے ظاہر کیا گیا ہے جس کا مفہوم بندھی ہوئی بوٹی ہوتا ہے)

سورۃ ۲۳، آیت ۱۴ :-

فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً
فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْمًا
فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ لَحْمًا۔
پھر ہم نے لوتھرے کو بوٹی بنا دیا۔ پھر بوٹی
کی ہڈیاں بنائیں، پھر ہڈیوں پر گوشت
چڑھایا۔

”گوشت کا لوتھرا“، ترجمہ ہے لفظ ”مضغہ“، کا اور بندھی ہوئی بوٹی (گوشت یا عضلات) کے

گذشتہ صفحہ سے آگے :- ذاتی طور پر میں اس آیت کا یہی مفہوم سمجھتا ہوں۔ لیکن تفصیلی طور پر وضاحت ایک طویل بحث و تشریح کو مستلزم ہوگی جو اس کتاب کی حدود سے ماورا ہے۔

ایک دوسری آیت جو ایک نازک توضیح و تشریح کی متقاضی ہے درج ذیل ہے۔

سورۃ ۳۹، آیت ۶ :-

يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ
خَلْقًا مِّنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي
ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ
وہ اللہ تعالیٰ تمہاری ماؤں کو پیٹوں میں تین تین
تاریک پردوں کے اندر تمہیں ایک کے بعد ایک
شکل دیتا چلا جاتا ہے۔

قرآن کے جدید دور کے مفسرین کو اس آیت میں ان تین تشریحی پرتوں کا خیال پیدا ہوتا ہے۔ جن کے اندر بچہ کی تولیدی وقفہ کے دوران حفاظت ہوتی ہے :- یعنی جدار شکمی، خود رحم اور رحم میں پرورش پاتے ہوئے جنین کا ارد گرد کا حصہ (آئول نال - غشاء - جنین - ماد غشائی)۔

مجھے اس آیت کو تکمیل کی غرض سے نقل کرنا پڑا۔ یہاں جو وضاحت کی گئی وہ مجھے تشریحی نقطہ نظر سے قابل اعتراض نہیں معلوم ہوتی۔ لیکن کیا قرآن کریم کا یہی حقیقتہً یہی مقصود ہے؟

یہ "لحم" ہے۔ اس فرق پر خصوصیت سے توجیہ دینے کی ضرورت ہے۔ جنین ابتداء میں ایک "چھوٹی سی پھٹکی" کی شکل میں تھا۔ پھر وہ خالی آنکھ کو ایک لوتھڑے کی شکل میں دکھائی دیتا ہے۔ بعدہ ہڈیوں کا ڈھانچہ اس لوتھڑے کے اندر ارتقا پاتا ہے جس کو وسطی مغز کہا جاتا ہے۔ جو ہڈیاں تخلیق پا جاتی ہیں ان پر عضلات (گوشت) چڑھ جاتے ہیں۔ ان پر لفظ "لحم" کا اطلاق ہوتا ہے یہ معلوم ہے کہ جنین کی بالیدگی کے دوران بعض اعضاء کس طرح مکمل طور پر غیر متناسب معلوم ہوتے ہیں جس کی وجہ سے بعد میں بعض تو ان میں سے منقرض رہتے ہیں اور دوسرے متناسب ہو جاتے ہیں۔

یہ یقیناً لفظ "فُخِّقَتِ" کے معنی ہیں جس کا مفہوم متناسب میں ہونا ہے۔ جیسا کہ اس واقعہ کو بیان کرنے کے لیے سورہ ۲۲ کی آیت ۵ میں استعمال ہوا ہے۔

فَاِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ عَظْمٍ ... فُخِّقَتِ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ۔
ہم نے تم کو تینا یا ... خون کے لوتھڑے سے ... جو شکل والی بھی ہوتی ہے اور بے شکل بھی۔

قرآن مجید حواس اور اعضاءے رسی کی اشکال کو بھی بیان فرماتا ہے۔

سورہ ۳۲، آیت ۱۹۔

وَجَعَلْ لَكُمْ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْئِدَةَ
اور تم کو کان دیتے، آنکھیں دیں اور دل دیتے۔

اس میں جنسی اعضاء کی تشکیل کا بھی ذکر ہے۔

سورہ ۵۳، آیات ۲۵، ۲۶۔

وَاِنَّهُ خَلَقَ الذَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْاُنْثَىٰ مِنْ لُطْفَةٍ اِذَا تُنْفَخُ
اور اس نے نر اور مادہ کا جوڑا پیدا کیا۔ ایک بوند سے جب وہ ٹپکائی جاتی ہے۔

جنسی اعضاء کی تشکیل کا ذکر قرآن کی دوسو سورتوں میں ہوا۔

سورہ ۳۵، آیت ۱۱۔

وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِّنْ لُّطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ اَزْوَاجًا
اللہ نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر لطفے سے، پھر تمہارے جوڑے بنا دیئے (یعنی مرد اور عورت)۔

سورہ ۷۵، آیت ۳۹۔

فَجَعَلَ مِنْهُ الذَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ
پھر اس سے (اللہ تعالیٰ نے) مرد اور

عورت کی دو قسمیں بنائیں۔

جیسا کہ پیشتر بتایا جا چکا ہے قرآن کے تمام بیانات کا مقابلہ آجکل کے تسلیم شدہ تصورات سے کیا جانا چاہیے۔ ان کے درمیان مطابقت نہایت واضح ہے۔ لیکن یہ نہایت اہم بات ہے کہ اس موضوع پر عام عقائد سے جو نزول قرآن کے وقت رائج تھے ان کا مقابلہ اس غرض سے کیا جاتے کہ اُس زمانہ میں لوگ ان مسائل سے متعلق اس طرح کے نظریات سے کتنی دور تھے جس طرح کے نظریات یہاں قرآن میں بتائے گئے ہیں۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کیا جاسکتا کہ وہ وحی کی تشریح اس طرح کرنے سے قاصر تھے جو آج ہم کر سکتے ہیں کیونکہ ہمیں ان چیزوں سے مدد ملتی جو جدید معلومات ہمارے لیے فراہم کرتی ہیں۔ درحقیقت انیسویں صدی کے دوران ہی یہ ہوا کہ لوگوں کو اس مسئلہ کا کسی قدر زیادہ واضح تصور حاصل ہوا۔

پورے قرون وسطیٰ میں انتہائی متنوع اصول و ضوابط کی ابتداء بنیاد اساطیر اور قیاسات سے ہوتی تھی۔ وہ اس عہد کے بعد کئی صدیوں تک قائم رہے۔ جنینیات کی تاریخ میں انتہائی بنیادی مرحلہ ہاروے کا یہ بیان تھا (۱۶۵۱ء) کہ ”جملہ ہدایات ابتداءً بیضہ سے ظہور پاتی ہے، لیکن اس وقت بھی جب پیدائش سے متعلق سائنس نے (مضمون ہمدست کے لیے) بہت کچھ خوردبین کی ایجاد سے فائدہ اٹھایا تھا۔ لوگ بیضہ اور حیوان منویہ کے انفرادی کردار پر گفتگو کرتے ہوئے نظر آتے تھے۔ عظیم ماہر حیوانات و نباتات لیون ان لوگوں میں سے تھا جو بیضہ کے نظریہ کے حامی تھے۔ لیکن بونے نے تخموں کے باہم ملاپ کے نظریہ کی حمایت کی۔ یہ خیال تھا کہ اماں خواہ کی جو جملہ نسل انسانی کی ماں تھیں، بیضہ دانیوں میں تمام انسانوں کے تخم موجود تھے۔ جو ایک دوسرے کے اندر کھتے ہوئے تھے۔ اس نظریہ کی حمایت اٹھارویں صدی تک ہوتی رہی۔

ہمارے زمانہ سے ایک ہزار سال سے زیادہ قبل جب یہ توہماتی ضوابط ہتوز رائج تھے لوگوں کو قرآن کی معلومات حاصل تھی۔ اس میں جو بیانات شناٹل ہیں ان سے نہایت سادہ الفاظ میں بنیادی اہمیت کے ان حقائق کا اظہار ہوتا ہے جن کی دریافت میں انسان نے صدیاں لگا دی ہیں۔

قرآن اور جنسی تعلیم

ہمارے دور کا یہ عقیدہ ہے کہ اُس نے تمام ممکنہ شعبہ جات میں ہمہ جہتی دریافتیں کی ہیں خیال کیا جاتا ہے کہ جنسی تعلیم کے میدان میں بڑی راہیں نکالی ہیں۔ اور زندگی کے حقائق کی وہ

معلومات جو نوجوانوں کے لیے کھلی کتاب کی طرح ہے جدید دنیا کا ایک کارنامہ سمجھی جاتی ہے پچھلی صدیاں اس نکتہ پر دانستہ طور پر اغماض برتتے میں نہایت نمایاں رہیں اور بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ مذہب — بغیر یہ بتائے کہ کونسا مذہب — اس کا موجب ہے۔

بہر حال مذکورہ بالا معلومات اس بات کا ثبوت ہے کہ چودہ صدی پیشتر انسانی افزائش نسل سے متعلق نظری مسائل (جیسے بھی کچھ تھے) انسان کی توجہ کا مرکز بنے تھے۔ یہ چیز جس حد تک ممکن تھی کی گئی قطع نظر اس کے کہ تشریحی اور عضویاتی معلومات جو مزید وضاحت کے لیے درکار تھیں اس کی کمی تھی۔ یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ سمجھنے کے لیے سادہ زبان جو ان لوگوں کی فہم کی سطح سے مطابقت رکھتی ہو، استعمال کرنا ضروری تھا جو اس تبلیغ کو سننے تھے۔

عملی نوعیت کے امور کو خاموشی سے نظر انداز نہیں کیا گیا ہے۔ قرآن میں زندگی کے عملی پہلو پر عمومیت کے ساتھ بہت سی تفصیلات ہیں۔ اور وہ طریقہ بتایا گیا ہے جو انسان کو اپنی حیات کے مختلف مواقع پر اختیار کرنا چاہیے۔ اس کی جنسی زندگی بھی کوئی استثنا نہیں ہے۔ قرآن کی دو آیتیں خود جنسی تعلقات سے بحث کرتی ہیں۔ وہ جنسی تعلقات ایسے الفاظ میں بیان کئے گئے ہیں جن میں صحت کی ضرورت کو نفاست کے ساتھ ملا دیا گیا ہے۔ لیکن جب تراجم اور تشریحات سے رجوع کیا جاتا ہے تو انسان ان کے درمیان اختلافات کو دیکھ کر ہکا بکا رہ جاتا ہے۔ میں نے اس قسم کی آیات پر طویل عرصہ تک غور کیا ہے اور میں ڈاکٹر طراے کے حیراد، سابق پروفیسر، فیکلٹی آف میڈیسن۔ بیروت کا حسب ذیل تشریح کے لیے ممنون کم ہوں۔

سورۃ ۸۶، آیات ۶، ۷ :-

(انسان) ایک اچھلنے والے پانی سے پیدا کیا گیا ہے جو پیٹھ اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے نکلتا ہے۔ یقیناً وہ اسے دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے (وہ مرد اور عورت کے جنسی مقام کے اتصال سے نکلتا ہے)۔

يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ
الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ
إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ
لَقَادِرٌ

مرد کے جنسی مقام کو قرآن کے متن میں لفظ "صلب" (واحد) سے ظاہر کیا گیا ہے۔ عورت

لہٰذا بین الصلب والترائب کا جو ترجمہ پیٹھ اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان دیا گیا ہے وہ مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی کے ترجمہ قرآن مجید کے مطابق اور قوسین کے درمیان دیا ہوا ترجمہ مصنف کتاب ہذا نے بیان کیا ہے۔

کے جنسی مقام کو قرآن میں لفظ "تراہب" (جمع) سے موسوم کیا گیا ہے۔

یہ وہ ترجمہ ہے جو سب سے زیادہ تشفی بخش معلوم ہوتا ہے۔ یہ اُس ترجمہ سے مختلف ہے جو اکثر انگریزی اور فرانسیسی مترجمین بیان کرتے ہیں یعنی "انسان" ایک اچھلنے والے پانی سے پیدا کیا گیا ہے۔ جو ریڑھ کی ہڈی اور سینہ کی ہڈیوں کے درمیان سے نکلتا ہے۔ یہ ترجمہ سے زیادہ شریعہ معلوم ہوتی ہے۔ اور مشکل قابل فہم کہی جاسکتی ہے۔ مرد کا رویہ اُس کی اپنی بیوی کے ساتھ اُس کے گہرے تعلقات کے سلسلہ میں واضح طور پر بیان کیا گیا ہے۔

حیض کے ایام کے بارے میں جو حکم دیا گیا ہے وہ سورۃ ۲ کی ۲۲۲ اور ۲۲۳ نمبر کی آیتوں میں شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حسب ذیل حکم دیتا ہے۔

سورۃ ۲، آیات ۲۲۲، ۲۲۳ :-

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۖ
قُلْ هُوَ آذَىٰ لَا فَاعِلَةٌ لَّوِ
النِّسَاءِ فِي الْمَحِيضِ وَلَا رَء
تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ
فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ
مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ۗ
إِنَّ اللَّهَ يُمِيطُ الثَّوَابِئِينَ
وَيُمِيطُ الْمُنْتَظِرِينَ ۗ

اے رسول وہ (اہل ایمان) آپ سے المحیض کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ کیونکہ وہ ایک گندگی کی حالت ہے اس میں عورتوں سے الگ رہو اور ان کے قریب نہ جاؤ۔ جب تک کہ وہ پاک صاف نہ ہو جائیں۔ پھر جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس جاؤ اُس طرح جیسا کہ اللہ تم کو حکم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو بدی سے باز رہیں اور پاکیزگی اختیار کریں۔

تمہاری عورتیں تمہاری کھتیاں ہیں۔ تمہیں اختیار ہے جس طرح چاہو اپنی کھتی میں جاؤ۔ مگر اپنے مستقبل کی فکر کرو۔

نِسَاءٌ كُمْ حَرَّتْ لَكُمْ
فَأْتُوا حَرَّتْكُمْ آتَىٰ شِئْتُمْ
وَقَدْ مَوْا لَأَنْفُسِكُمْ ۗ

اس عبارت کی ابتدا اپنے مفہوم کے اعتبار سے بالکل صاف ہے۔ اس میں دستور اور رواج کے مطابق ایک شخص کو ایک عورت کے ساتھ جو ایام ماہواری میں جنسی اختلاط سے منع کیا گیا ہے دوسرے حصہ میں کھتی کے اس عمل کو بیان کیا گیا ہے جو کاشتکار اس بیج کے بونے سے قبل انجام دیتا ہے جو اُبجتا اور ایک نیا پودا پیدا کرتا ہے اس لیے اس مثال سے بالواسطہ طور پر

زور جنسی اختلاط کے آخری مقصد یعنی افزائش نسل کو ذہن میں رکھنے کی اہمیت پر دیا گیا ہے۔
آخری فقرہ کا ترجمہ آر۔ بلاشبہ نے کیا ہے۔ اس میں ایک حکم ہے جو جنسی اختلاط سے پہلے کی
ابتدائی باتوں کا ذکر معلوم ہوتا ہے۔

جو احکام یہاں دیتے گئے ہیں وہ بیحد عمومی نوعیت کے ہیں۔ ان آیات کے سلسلہ
میں مانع عمل شے کے مسئلہ کو اٹھایا گیا ہے۔ اس مضمون سے متعلق نہ یہاں اور نہ کسی دوسری
جگہ کوئی حوالہ دیا گیا ہے۔

نہ ہی اسقاط حمل کی ترغیب کا کوئی ذکر ہے، البتہ جنین کے بچے بعد دیگرے تبدیلیوں سے
متعلق جو متعدد عباراتیں جو اوپر نقل ہوئی ہیں ان سے یہ بات بالکل صاف ہو جاتی ہے کہ مرد کو قانونی
طور پر اُس مرحلہ کے لیے حق دیا گیا ہے جس میں کسی جہمی ہوئی شے، کے وجود کو بیان کیا گیا ہے۔
اس صورت میں کسی فرد بشر کے مکمل احترام میں جس کا حوالہ قرآن میں دیا گیا ہے۔ اسقاط حمل کی
ترغیب کی کلی طور پر مذمت ہو جاتی ہے۔ آجکل اس طرز عمل میں جملہ توحید پرست مذاہب
متفق ہیں۔

رمضان کے مہینہ میں روزے کے دوران جنسی اختلاط کی رات کے وقت اجازت دی
گئی ہے۔ رمضان سے متعلق آیت حسب ذیل ہے :-

سورہ ۲، آیت ۱۸۷ :-

أَجَلَ لَكُمْ كَيْلَةَ الصِّيَامِ
الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ
لِبَاسٍ لَّكُمْ وَ أَنْتُمْ
لِبَاسٍ لَّهُنَّ ط . . . قَالَتِ
بِأَشْرُوهُنَّ وَ ابْتِغُوا مَا كَتَبَ
اللَّهُ لَكُمْ ص

تمہارے لیے روزوں کے زمانہ میں راتوں کو
اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا
ہے۔ وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم
ان کے لیے لباس ہو۔ . . . اب تم اپنی
بیویوں کے ساتھ شب بامشب کرو اور جو لطف اللہ
نے تمہارے لیے جائز کر دیا ہے اسے حاصل کرو۔

اس کے برخلاف ایام حج کے دوران مکہ میں حاجیوں کے قاعدے اور ضابطے میں کوئی
استثناء نہیں برتی گئی ہے۔

سورہ ۲، آیت ۱۹۷ :-

جو شخص ان مقررہ مہینوں میں حج کی نیت کرے،
حج کے دوران میں اس سے کوئی شہوانی فعل،

فَمَنْ قَرَضَ فِيهِنَّ
الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا

کوئی بدکاری سرزد نہ ہو۔

یہ ممانعت ضابطہ کے تحت ہے جیسا کہ یہ واقعہ ہے کہ دوسرے افعال سے بھی منع کیا گیا ہے مثلاً شکار، جدال و قتال وغیرہ سے۔

حیض کا ذکر قرآن میں طلاق کے سلسلہ میں پھر کیا ہے۔ الکتاب میں حسبِ قیل آیت دی گئی ہے

سورۃ ۶۵، آیت ۴ :-

وَالْحَىٰ يَيْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ
مَنْ نَسِيَ لَكُمْ أَنْ تَبْتَلُمْ
فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ
وَالْحَىٰ لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ
الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ
حَمْلَهُنَّ ط

اور تمہاری عورتوں میں سے جو حیض سے مایوس ہو چکی ہوں ان کے معاملہ میں اگر تم لوگوں کو کوئی شک لاحق ہے تو (تمہیں معلوم ہو کہ) ان کی عدت تین مہینے ہے اور یہی حکم ان کا ہے جنہیں ابھی حیض نہ آیا ہو اور حاملہ عورتوں کی عدت کی حد یہ ہے کہ ان کا وضع حمل ہو جائے۔

امید کا زمانہ جس کا یہاں حوالہ دیا گیا ہے طلاق کا اعلان اور وضع حمل کے درمیان کا وقفہ ہے۔ جن خواتین کے متعلق یہ کہا گیا ہے کہ جو حیض سے مایوس ہو چکی ہوں وہ، وہ ہیں جن کو حیض کا آنا بند ہو گیا ہو۔ ان کے لیے تین ماہ کی احتیاطی مدت ملحوظ رکھی گئی ہے۔ جیسے ہی یہ مدت تکمیل کو پہنچ جائے، مطلقہ عورتیں جن کو حیض کا آنا بند ہو گیا ہو عقد ثانی کر سکتی ہیں۔

ان عورتوں کے لیے جنہیں حیض ابھی نہ آیا ہو۔ حمل کے وقت تک انتظار کرنا لازمی ہے۔ حاملہ عورتوں کے لیے طلاق اس وقت ہی رو لعل ہو جاتی ہے جس وقت بچہ پیدا ہو جائے یہ تمام ضابطے اور اصول عضویاتی مقدمات کے ساتھ مکمل طور پر مطابقت رکھتے ہیں۔

اگے چل کر یہی مدبرانہ قانونی دفعہ قرآن حکیم کے متن کے اس حصہ میں ملتی ہے جہاں بیوگی سے بحث کی گئی ہے۔

اس طرح افزائش نسل سے متعلق نظری بیانات اور زوجین کی جنسی زندگی کے بارے میں عملی ہدایات آپس میں متناقض نہیں ہیں۔ اور ان مقدمات کے خلاف نہیں پڑتے جو ہمیں جدید معلومات سے حاصل ہوئے ہیں۔ نہ ہی کسی ایسی چیز کے مخالف پڑتے ہیں جو منطقی طور پر اس سے اخذ کی جاتی ہے۔



قرآن اور بائبل کے بیانات

عام خاکے

بہت سے وہ مضامین جن سے بائبل میں بحث کی گئی ہے وہ قرآن میں بھی دیئے گئے ہیں۔ اولاً وہ بیانات ہیں جن میں پیغمبروں کے تذکرے ہیں جیسے نوح، ابراہیم، یوسف، ایسا، یونس، ایوب اور موسیٰ علیہم السلام؛ بنی اسرائیل کے حکمران جیسے ساؤل، داؤد، سلیمان علیہم السلام۔ صرف چند خاص خاص تذکروں کے جو ان میں مشترک ہیں یہاں نام بتائے گئے ہیں۔ اس کے بعد ان بڑے بڑے واقعات کے زیادہ مخصوص نوعیت کے بیانات ہیں جن کے دوران فوق الفطرت باتیں درآتی ہیں مثلاً ارض و سماوات کی تخلیق، تخلیق آدم، طوفان عالمگیر، خروج۔ آخر میں وہ سب کچھ ہے جو یسوع اور ان کی والدہ حضرت مریم علیہما السلام سے متعلق ہے اور یہ تذکرہ عہد نامہ جدید سے تعلق رکھتا ہے۔

دونوں صحیفوں میں بیان کردہ مضامین کو جب ہم صحائف کے ماخذات سے الگ اپنی جدید معلومات کی روشنی میں دیکھیں تو وہ کیا تاثرات قائم کرتے ہیں۔

مشابہ: قرآن۔ اناجیل اور جدید معلومات

قرآن اور اناجیل کے مشابہ بیانات کا جہاں تک تعلق ہے اس میں سب سے پہلے اس بات پر توجہ کرنی چاہیے کہ اناجیل میں بیان کردہ کوئی سے بھی مضامین جن پر سائنسی نقطہ نظر سے تنقید کی گئی تھی (ملاحظہ کیجئے اس کتاب کا جزء دو) وہ قرآن میں نقل نہیں ہوتے ہیں۔

یسوع کا ذکر قرآن میں متعدد بار ہوا ہے مثلاً میلاد مسیح کے سلسلہ میں حضرت مریم کا ان کے باپ کو اطلاع دینا۔ معجزاتہ میلاد مسیح کی اطلاع حضرت مریم علیہا السلام کو۔ یسوع کا جلیل القدر پیغمبروں میں مقام۔ حضرت عیسیٰ کا کردار مسیح کی حیثیت سے۔ وہ الہام جو انھوں نے آدم کو بتایا جس سے توریت کی توثیق و ترمیم ہوتی ہے۔ ان کے مواعظ، ان کے حواری اور رسول۔

معجزے رفیع مسیح، یوم الحساب میں اُن کا کردار وغیرہ۔

قرآن کی تیسری اور اسیویں سورتوں میں (جن میں سے مؤخر الذکر میں حضرت مریمؑ کا نام لیا گیا ہے) حضرت عیسیٰ (یسوع) کے خاندان سے متعلق لمبی لمبی عبارتیں ہیں۔ اُن عبارتوں میں اُن کی والدہ محترمہ مریم کی ولادت۔ اُن کی جوانی اور اُن کی معجزانہ امویت کے اعلان کا ذکر ہے۔ اُن (حضرت عیسیٰ) کا شجرہ نسب مختص طور پر اُن کی والدہ کے لحاظ سے دیا گیا ہے جو قطعاً منطقی ہے اس لیے کہ حضرت عیسیٰ کے کوئی صلیبی باپ نہیں تھے۔ یہاں قرآن، متی اور لوقا کی انجیلوں سے اختلاف کرتا ہے۔ جیسا کہ ہم پہلے ہی دیکھ چکے ہیں۔ وہ دونوں حضرت عیسیٰ (یسوع) کے ابوی نسب نامے دیتے ہیں جو مزید برآں ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔

قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ کو اُن کے اموی نسب نامہ کے لحاظ سے حضرت نوحؑ حضرت ابراہیمؑ اور حضرت مریمؑ کے والد (قرآن میں اُن کا نام عمران بتایا گیا ہے) کے سلسلہ میں بیان کیا گیا ہے۔

سورۃ ۳، آیات ۳۳، ۳۴، ۳۵:-

اللہ نے آدم اور نوح اور آل ابراہیم اور آل عمران کو تمام دنیا والوں پر ترجیح دے کر اپنی رسالت کے لیے منتخب کیا تھا۔ یہ ایک سلسلہ کے لوگ تھے۔ جو ایک دوسرے کی نسل سے پیدا ہوئے۔ اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔

إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَ
نُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ
عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ ذُرِّيَّةً
بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ وَاللَّهُ
سَمِيعٌ عَلِيمٌ

لہذا حضرت عیسیٰ اپنی والدہ حضرت مریمؑ اور اُن کے والد عمران کی طرف سے حضرت نوحؑ اور حضرت ابراہیمؑ کی اولاد میں ہوتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ کے اجداد کے ناموں کی جو غلطیاں انجیل میں ہوئی ہیں وہ قرآن میں موجود نہیں ہیں۔ نہ ہی حضرت ابراہیمؑ کے اجداد کے سلسلہ کی وہ ناممکن باتیں ہیں جو عہد نامہ قدیم میں شامل ہیں۔ ان دونوں باتوں کا جائزہ اس کتاب کے پہلے اور دوسرے حصوں میں لیا جا چکا ہے۔

اگر کسی کو معروضی نقطہ نظر اختیار کرتا ہے تو اس بات کا ایک بار مہم چارترہ لینا چاہئے۔ اس کی انتہائی اہمیت اُن بے بنیاد بیانات کے مواجہ میں صاف طور پر ظاہر ہو جاتی ہے جن میں یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ قرآن کے مصنف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کچھ بائبل کی نقل کر دی ہے (نعود باللہ) اس بات کو دیکھ کر انسان حیران رہ جاتا

ہے کہ کس شخص یا کس سبب نے ان کو ان عبارتوں کے نقل کرنے سے احتراز کرنے پر مجبور کیا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اجداد کے بارے میں بائبل میں موجود ہیں۔ اور اس جگہ پر قرآن میں ان صحیح باتوں کو شامل کرنے پر کس نے اگسٹیا جن کی بدولت جدید معلومات کے مقابلہ میں ان کا (حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا) متن تنقید سے بالاتر ہو گیا ہے اناجیل اور عہد نامہ قدیم قطعاً ایک دوسرے سے متباہن ہیں اور اس نقطہ نظر سے وہ کلیتہً ناقابل قبول ہیں۔

مشابہ: قرآن - عہد نامہ قدیم اور جدید معلومات

جہاں تک عہد نامہ قدیم کا تعلق ہے اس تشابہ کے بعض پہلوؤں پر پہلے ہی بحث کی جا چکی ہے۔ مثال کے طور پر دتیا کی تخلیق کو اس کتاب کے عہد نامہ جدید والے حصہ میں تنقیدی جائزہ کا موضوع بنایا گیا تھا۔ اسی موضوع کا تنزیل قرآن کے سلسلہ میں جائزہ لیا گیا اور مقابلہ کیا جا چکا ہے اور اب کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اس زمین کو پھر پے سپر کیا جائے۔

سلاطین بنی اسرائیل سے متعلق مسائل جو قرآن اور بائبل دونوں کے بیانات کے موضوع ہیں ان کے بارے میں جدید معلومات کی روشنی میں تشابہات قائم کرنے کے لیے تاریخی معلومات تہایت مبہم اور اثریاتی اکتشافات نہیں قلیل ہیں۔ آیا جدید معلومات کی روشنی میں نبیوں کے مسائل پر گفتگو کی جا سکتی ہے یا نہیں۔ یہ امر اس بات پر منحصر ہے کہ جو واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ انہوں نے کس حد تک اپنے ایسے تشابہات و اثرات چھوڑے ہیں جو ہم تک پہنچے ہوں یا نہ پہنچے ہوں۔ تاہم دو مضامین ایسے ہیں جن سے قرآن اور بائبل دونوں میں اتنا کیا گیا ہے۔ جن کی جانب ہمیں توجہ مبذول کرنی چاہیے اور جن کا جدید معلومات کی روشنی میں جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ وہ مضامین حسب ذیل ہیں۔

_____ طوفان عالمگیر

_____ خروج

پہلا اس لیے کہ اس نے تاریخ تمدن میں کوئی ایسے اثرات نہیں چھوڑے جو بائبل کے بیان کی تائید کرتے ہوں جب کہ جدید معلومات ہمیں اس بیان پر تنقید کرنے کی

اجازت نہیں دیتی جو قرآن میں شامل ہے۔

دوسرا اس لیے کہ بائبل اور قرآن کے بیانات اپنے عام خاکوں کے اعتبار سے واضح طور پر ایک دوسرے کا تکملہ کرتے ہیں اور جدید معلومات اُن کو نہایت نمایاں طور پر تاریخی تائید حاصل ہوتی ہے۔



طوفان عالمگیر

طوفان کے بارے میں عہد نامہ قدیم کا جو جائزہ اس کتاب کے پہلے حصہ میں لیا گیا تھا اس سے

اسے یہ ایک طوفان باراں تھا جو تقریباً پانچ ہزار سال قبل مسیح میں حضرت نوح علیہ السلام کی بددعا سے ان کی امت کی بد اعمالیوں کے سبب بطور سزا اس پر نازل ہوا تھا۔ اگرچہ یہ طوفان دجلہ اور فرات کی وادی تک محدود رہا لیکن چونکہ اس زمانہ کی کل آبادی اسی علاقہ میں بسی ہوئی تھی اس لیے یہ کہتا ہے جاہل ہے کہ سوائے چند افراد کے تمام تہی نوع انسان اس طوفان سے تباہ ہو گئی تھی اور اسی لیے اس کو طوفان عالمگیر کا نام دیا جاتا ہے۔

اس طوفان کا ذکر تمام قدیم مذاہب کی کتابوں میں ملتا ہے۔ اس کے علاوہ سیمیٹی، کلڈانی اور اشوری ادب اور شاعری میں بھی اس کا تفصیلی حال بیان ہوا، موجودہ صدی میں ماہرین حفريات نے میسوپوٹامیہ کے علاقہ میں کھدائیاں کر کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ طوفان عالمگیر کا تذکرہ کوئی طبعفرد افسانہ نہیں ہے جو لوگوں کو خائف کرنے کے لیے گھڑا گیا ہو بلکہ یہ طوفان واقعی آیا تھا اور اس سے ایک بڑا علاقہ غرقاب ہو گیا تھا۔ اس سلسلہ میں سب سے زیادہ اور اہم کام انگلستان کے محکمہ اثاریات کے سابق ڈائریکٹر جنرل سر لیونارڈ وولے نے انجام دیا تھا۔ وہ اپنی کتاب مقام اُپر حفرياتی کام (Excavations at ur) میں لکھتے ہیں۔

”ہم ثابت کر چکے ہیں کہ طوفان واقعی آیا تھا۔ اور اس لیے ان امکانات پر زور دینے کی قطعاً ضرورت نہیں کہ یہ محض سیمیٹی فرات و اڑوں کی فہرست میں شامل ایک داستان ہے۔ یا سیمیٹیوں کا من گھڑت افسانہ ہے یا عہد نامہ عتیقی میں بیان کردہ ایک روایت کا طوفان ہے تاہم اس کا یہ مطلب نہیں کہ واقعہ کی تمام ہی تفصیلات سچی ہوں۔ البتہ اس روایت کا پس منظر ایک تاریخی حقیقت یقیناً ہے۔ جس میں معلمان اخلاق اور شعراء نے اپنے مختلف النوع مقاصد کے حصول کے پیش نظر واقعہ میں پھول پتیاں ضرور پیدا کیں۔ کتاب پیدائش کا بیان ہے کہ پانی کی بلند سیلچسپس فٹ تھی جو صحیح معلوم ہوتا ہے۔ یہ دریائے دجلہ اور دریائے فرات کی وادی میں ایک عظیم سیلاب تھا۔ جس سے پہاڑوں اور صحراؤں کے بیچ کی آبادی سر زمین غرقاب ہو گئی تھی اور جو لوگ اس سر زمین میں رہتے تھے اس وقت کی پوری دنیا وہی تھی ان لوگوں میں سے اکثریت غرق ہو گئی تھی اور نہایت قلیل اور شکستہ دل لوگوں کی ایک جماعت ہو گئی جس نے شہر کی دیواروں سے پانی کو اترتے ہوئے دیکھا ہو گا۔“

(باقی آئندہ صفحہ پر)

حسب ذیل مشاہدات حاصل ہوتے ہیں۔

سابقہ حاشیہ: کلدانیہ اور اشوریہ تہذیبوں کے زمانہ کی تختیوں پر کثرتاً اس طوفان کا حال ملا ہے۔ دونوں کے بیان سے ظاہر ہوتا ہے کہ تمام دنیا میں بد اعمالیاں پھیل گئی تھیں جس کی وجہ سے خدا کا یہ قہر گناہگار بندوں پر نازل ہوا۔ اور وہ سب کیفر کردار کو پہنچ گئے۔ کلدانیہ کے طوفان کی تختی میں مرقوم ہے۔

(۱) اسی آدیوتانے مجھے کہا: اہل دنیا مجھ سے یاغی ہو گئے ہیں۔ میں انھیں سزا دوں گا.... آسمان سے تباہ کن بارش ہوگی..... وقت مقرر آگیا ہے، (۲) میں اپنے ساتھ لایا اور جہاز میں ذخیرہ کر دیا ہر چیز کے تخم کا۔ میں اپنے ساتھ اپنے اہل خاندان، خدمتگاروں اور عورتوں اور عزیز ترین دوستوں کو لے آیا۔ (۳) زمہسی ساورا کو کوئی خاص کام تفویض نہیں ہوا۔ بلکہ اُسے اور اُس کی بیوی دونوں کو حیات ابدی عطا ہوئی۔

سیمی روایات اور جلجمش کی نظم میں جو اشوریہ بتی بال کے کتب خانہ سے تختیوں پر لکھی ہوئی دستیاب ہوئی ہے۔ اس سیلاب کی حسب ذیل تفصیل ملتی ہے۔

”اس علاقہ میں برائیاں بہت پھیل گئی تھیں۔ اس لیے دیوتا انسان سے بہت ناخوش ہو گئے تھے۔ چنانچہ انھوں نے انسانی آبادی کو تباہ کرنے کا ارادہ کیا مگر عذاب بھیجنے سے پہلے زیوس دیا زپوسدو نامی پجاری کو جس کو جلجمش کی نظم میں نفشتیم کے نام سے موسوم کیا گیا ہے ایک کشتی بنانے کا حکم دیا چنانچہ اُس نے کشتی تیار کی اور دیوتاؤں کے حکم کے مطابق اس میں سونا، چاندی، جانور اور اعزہ واقارب کو سوار کیا۔ اس کے بعد ایک طوفان اٹھا اور خوفناک قسم کی کڑک و چمک کے ساتھ موسلا دھار بارش ہونے لگی۔ چھ دن اور چھ رات تک ایک طرح سے پانی برستا رہا۔ یہاں تک کہ پورا علاقہ غرقاب ہو گیا اور اُت نفشتیم کی کشتی بہتی ہوئی جبل نصیر (یہ پہاڑ موصل اور دریائے دجلہ کے مشرق میں دریائے زاب کے قریب واقع ہے) سے جا کر لگی۔ ساتویں دن جب بارش کا سلسلہ ختم ہوا تو اُت نفشتیم نے ایک قافلہ کو کشتی سے اڑایا جو چکر کاٹ کر پھر کشتی میں واپس آگئی۔ اس سے یہ اندازہ کیا گیا کہ پورا علاقہ پانی میں ڈوبا ہوا ہے..... چند دنوں بعد پھر کالے کوے کو اڑایا گیا جو واپس نہیں آیا..... اُت نفشتیم نے کشتی سے اتر کر قربانی چڑھائی۔

توریت کتاب پیدائش میں حالات نہایت تفصیل سے دیئے گئے ہیں جن کا خلاصہ یہ ہے۔

”..... اور خدا نے زمین کی طرف دیکھا اور زمین معصیت سے بھری ہوئی تھی..... اور خدا نے نوح علیہ السلام سے

کہا زمین پر طوفان نازل کروں گا اور زمین پر جو چیزیں ہیں سب مرجائیں گی..... کشتی میں تو بیٹھے گا اور تیرے بیٹے، تیری بیوی اور تیرے بیٹوں کی بیویاں، ہر جاندار چیز کا تو ایک جوڑا کشتی میں رکھ لینا تاکہ اُن کی نسل قائم رہے۔ اور خدا نے نوح علیہ السلام اور اُن کے بیٹوں کو برکت دی اور اُن سے کہا پھلو پھول اور دنیا کو از سر نو آباد کرو“

اہل ہند کی ادبیات میں طوفان کا کئی طریقوں پر ذکر آیا ہے۔ زیادہ تر ضخیم جموعوں یا تصنیفات میں۔ البتہ صرف مسیاں پران (مچھلی کا پران) میں اس کا علیحدہ ذکر ہے۔ ایک چھوٹے پران داگنی پران میں اس کا بالاختصار ذکر ہے مگر طوفان

(باقی اگلے صفحہ پر)

طوفان کا صرف ایک بیان نہیں ہے بلکہ دو بیانات ہیں جو مختلف اوقات میں تحریر ہوئے۔

یہودی بیان جس کا زمانہ نویں صدی قبل مسیح کا ہے۔

مرشدانہ متن (سیسر ڈوٹل و رٹرن) جس کا زمانہ چھٹی صدی قبل مسیح سے شروع ہوتا ہے۔

یہ اس نام سے اس لیے موسوم ہے کہ اس کو اس زمانہ کے مذہبی پیشواؤں نے مرتب کیا تھا۔

یہ دونوں بیانات پہلو پہلو نہیں رکھے گئے بلکہ آپس میں پیوست ہیں۔ چنانچہ ایک کے اجزاء دوسرے کے اجزاء کے بیچ بیچ میں ترتیب دیدیتے گئے ہیں۔ یعنی ایک ماخذ کے پارے یکے بعد دیگرے دوسرے ماخذ کے پاروں کے ساتھ ملے ہوتے ہیں۔ بائبل اسکول یروشلم کے ایک پروفیسر فادر دے وولے کتاب پیدائش کے ترجمہ پر جو تشریحی بیان پیش کیا ہے اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ دونوں ماخذوں کے درمیان پارے کس طرح منقسم ہیں۔ یہ بیان یہودی عبارت سے ہی شروع ہوتا ہے اور یہودی عبارت پر ہی ختم ہوتا ہے۔ یہودی پاروں کی کل تعداد دس ہے اور ہر ایک کے درمیان ایک مرشدانہ متن مٹھوس دیا گیا ہے۔ (مرشدانہ پاروں کی کل تعداد نو ہے) جب اس نقطہ نظر سے مطالعہ کیا جائے کہ واقعات کا تسلسل پیش نظر رہے تو عبارتوں کی یہ سچی کاری مربوط دکھائی دیتی ہے۔ اس لیے کہ دونوں ماخذوں میں زبردست تناقضات ہیں۔ فادر دے وولے ان کو طوفان کے دو بیانات کے طور پر پیش کرتے ہیں جن میں طوفان مختلف عوامل کی بنا پر رونما ہوتا ہے اور مختلف مدتوں تک قائم رہتا ہے۔ کشتی میں جانور مختلف تعداد میں لیے جاتے ہیں۔ جب جدید معلومات کی روشنی میں دیکھا جائے تو طوفان کے بارے میں بائبل کا بیان حسب

ذیل وجوہ کی بنا پر کلیتاً ناقابل قبول ہوتا ہے۔

(الف) عہد نامہ جدید اس کو ایک عالمگیر طوفان کی نوعیت سے بیان کرتا ہے۔

(ب) جہاں یہ ہے کہ یہودی متن سے لیے گئے پاروں سے طوفان کا زمانہ متعین نہیں ہوتا

وہیں مرشدانہ متن اس کا تعین ایک ایسے زمانہ میں کرتا ہے جب اس قسم کا طوفان رونما نہیں

ہو سکتا تھا۔

یقینہ حاشیہ :- کا مفصل اور مکمل ذکر بھاگوت پران اور مہا بھارت میں ہے۔ علاوہ ازیں ست پتھ برہمن میں بھی اس کا ذکر موجود ہے

جس کی تداامت دیدک زمانہ تک پہنچتی ہے۔ واقعہ کا خلاصہ اس طرح ہے۔

”ایک صبح کو ”منو“ تھا رہا تھا ایک مچھلی اس کے ہاتھ میں آئی۔ اس مچھلی کی درخواست پر اس نے اس کی پرورش کی۔ پہلے ایک

برتن میں رکھا۔ پھر تالاب میں۔ پھر گنگا میں پھر سمندر میں۔ مچھلی نے بتایا کہ میں پرچا پتی برہمن ہوں تجھے ایک طوفان کی اطلاع دیتی ہوں۔ تو

ایک جہاز تیار کر۔ میں طوفان کے وقت تیری مدد کروں گی۔ چنانچہ طوفان آیا۔ جہاز کی رسی مچھلی کے سینک سے باز رہی اور ہمالیہ تک پہنچ گئی (مترجم)

اس رائے کی تائید کرنے والے دلائل حسب ذیل ہیں۔

مرشدانہ بیان واضح طور پر بتاتا ہے کہ طوفان اُس وقت آیا تھا جب حضرت نوح علیہ السلام کی عمر ۶۰۰ سال کی تھی۔ کتاب پیدائش کے باب ۵ میں دیتے گئے نسب ناموں کے مطابق (جو مرشدانہ متن سے بھی لیے گئے ہیں اور اس کتاب کے پہلے میں نقل ہوئے ہیں) ہمیں معلوم ہے کہ حضرت نوح کی ولادت حضرت آدم کے ۱۰۵۶ سال بعد بتائی جاتی ہے۔ نتیجتاً طوفان تخلیق آدم کے ۱۶۵۵ سال بعد رونما ہوا ہوگا۔ علاوہ ازیں ابراہیم علیہ السلام کے نسب نامے جو اسی متن سے لیے گئے ہیں۔ اور کتاب پیدائش (۱۱، ۱۰ - ۳۲) میں دیتے گئے ہیں ہمیں یہ حساب لگاتے ہیں مدد دیتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ۲۹۲ سال بعد پیدا ہوئے۔ جیسا کہ ہمیں معلوم ہے (بائبل کے مطابق) حضرت ابراہیم علیہ السلام تقریباً ۱۸۵۰ ق م میں حیات تھے۔ لہذا طوفان اکیسویں یا بائیسویں صدی قبل مسیح میں رونما ہوا ہوگا۔ یہ حساب بائبل کے قدیم نسخے میں دی ہوئی اُس معلومات سے پوری طرح مطابقت رکھتا ہے جو بائبل کے متن کے آغاز میں نہایت نمایاں طور پر دی گئی ہیں۔ یہ بات اُس زمانہ میں تھی جب اس موضوع پر انسانی معلومات ایسی تھی کہ مخالفت میں دلائل کی کمی کے سبب۔ بائبل میں دیتے گئے تاریخی اعداد کو قارئین نے بغیر کسی حل جت کے صحیح تسلیم کر لیا تھا۔

آج یہ بات سمجھ لینا کیسے ممکن ہے کہ اکیسویں یا بائیسویں صدی قبل مسیح میں ایک عالمگیر طوفان ایسا آیا ہوگا جس نے تمام روئے زمین سے حیات کو فنا کر دیا ہوگا (سوائے اُن لوگوں اور جانوروں کے جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار تھے)؟ یہ وہ زمانہ تھا جب تمدن کرۂ ارض کے مختلف حصوں میں پھیل چکا تھا، اور اُس تمدن کے آثار اب اُن قوموں کے اخلاف تک پہنچ چکے ہیں۔ مثال کے طور پر اُس زمانہ میں مصر میں درمیانی دور، سلطنت قدیم کے بعد اپنا جلوہ دکھا چکا تھا اور سلطنت وسطیٰ کی ابتدا سے پہلے رونما ہو چکا تھا۔ اس دور کی تاریخ کے متعلق ہمیں جو معلومات حاصل ہیں اُن کے پیش نظر یہ بات قطعاً نامعقول ہوگی کہ طوفان نے اُس زمانہ میں تمام تمدن کو مٹا دیا ہوگا۔

۱۵ اب کہ ازمنہ قدیم کی تاریخ کے بارے میں بعض مقدمات تسلیم کیے جا چکے ہیں اور مرشدانہ متن کے مصنفین کی دسی ہوئی فرضی تاریخیں اب قابل یقین نہیں رہی ہیں۔ لہذا بائبل میں مندرج وہ تاریخیں تیزی سے دبا دی گئی ہیں تاہم اُن نسب ناموں کے سلسلہ میں جو محفوظ رکھے گئے ہیں اُن کتابوں کی جدید مشروحات جو عوام کے لیے شائع کی جاتی ہیں قارئین کی توجہ کو اُن غلطیوں سے ہٹانے میں ناکام رہتی ہیں جو اُن میں شامل ہیں۔

چنانچہ تاریخی اعتبار سے یہ بات تسلیم کرنی پڑتی ہے کہ طوفان کا ذکر جس طرح بائبل میں کیا گیا ہے وہ جدید معلومات سے قطعی طور پر متناقض ہے۔ ان صحیفوں میں انسان کی کارستانی کا واضح ثبوت یہی ہے کہ اس وقت کتاب کے دو متن موجود ہیں:-

طوفان کا ذکر جو قرآن میں دیا گیا ہے۔

قرآن مجید ایک عام بیان پیش کرتا ہے جو اس سے مختلف ہے جو بائبل میں دیا گیا ہے۔ اور

تاریخی نقطہ نظر سے یہ کوئی اعتراض نہیں پیدا ہونے دیتا۔

اس میں طوفان کا مسلسل بیان نہیں دیا گیا۔ متعدد سورتوں میں اس سزا کا تذکرہ کیا گیا ہے جو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر نازل کی گئی۔ اس کا سب سے زیادہ مکمل ذکر سورۃ ۱۱، آیات ۲۵ تا ۴۹ میں ہے۔ سورۃ ۷۱، جس میں نوح علیہ السلام کا نام بھی دیا گیا ہے سب سے بڑھ کر حضرت کی تعلیمات پیش کرتی ہے۔ یہی بات سورۃ ۲۶ کی آیات ۱۰۵ تا ۱۱۵ میں ہے واقعات نے جو رخ اختیار کیا اس میں جانے سے پہلے ہمیں قرآن مجید میں بیان کردہ طوفان کے اس تذکرہ پر غور کرنا چاہیے جو قرآن میں ان قوموں پر نازل کردہ سزا کے سلسلہ میں پیش کیا گیا ہے جنہوں نے خدا کے احکام کی صریحاً خلاف ورزی کی تھی۔

جبکہ بائبل میں ایک ایسے عالمگیر طوفان کا ذکر ہے جو خدا نا شناس نوع انسانی کو سزا دینے کی غرض سے نازل کیا گیا تھا قرآن مجید اس کے برخلاف ان کئی طرح کی سزاؤں کا حوالہ دیتا ہے جو بعض مخصوص قوموں کو دی گئیں۔

یہ بات سورۃ ۲۵ کی آیات ۳۵ تا ۳۹ میں ملاحظہ کی جاسکتی ہے :-

ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اس کے ساتھ اس کے

بھائی ہارون کو مددگار کے طور پر لگایا اور

ان سے کہا کہ جاؤ اس قوم کی طرف جس نے

ہماری آیات کو جھٹلا دیا ہے۔ آخر کار ان لوگوں

کو ہم نے تباہ کر کے رکھ دیا۔ یہی حال قوم نوح کا

ہو جب انھوں نے رسولوں کی تکذیب کی۔ ہم نے

ان کو فرق کر دیا اور دیتا بھر کے لوگوں کے لیے

ایک نشان عبرت بنا دیا۔ اور ان ظالموں کے لیے

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ

وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ

وَزَيْرًا وَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى

الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ كَذَّبُوا

بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا

وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا

الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَا

لِلنَّاسِ آيَةً وَأَعَدْنَا

ایک دردناک عذاب ہم نے مہیا کر رکھا ہے۔
 اسی طرح عاد اور ثمود اور اصحاب الرس اوزیج کی
 صدیوں کے بہت سے لوگ تباہ کئے گئے۔ ان میں
 سے ہر ایک کو ہم نے (پہلے تباہ ہونے والوں کی)
 مثالیں دے دے کر سمجھایا اور آخر کار ہر ایک
 کو غارت کر دیا۔

لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ۝
 وَعَادًا وَثَمُودًا وَأَصْحَابَ
 الرَّسِّ وَقُرُونًا بَيْنَ
 ذَلِكَ كَثِيرًا ۝ وَكُلًّا ضَرَبْنَا
 لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلًّا تَبَّرْنَا
 تَتْبِيرًا ۝

سورۃ ۷ کی آیات ۵۹ تا ۹۳ میں حضرت نوحؑ کی قوم، عاد، ثمود، لوط اور مدین کی
 قوموں پر ترتیب وار جو عذاب نازل کیے گئے ان کی ایک یادداشت دی گئی ہے۔
 اس طرح قرآن مجید طوفان کے عذاب کو ایک ایسی سزا کے طور پر پیش کرتا ہے جو خاص طور
 پر قوم نوح کے لیے تھی۔ یہ وہ پہلا بنیادی فرق ہے جو دونوں بیانات میں پایا جاتا ہے۔
 دوسرا بنیادی فرق یہ ہے کہ قرآن مجید بابتیل کے برعکس طوفان کے زمانہ کا تعین نہیں کرتا
 اور نہ خود طوفان کے جاری رہنے کی مدت کو بتاتا ہے۔

سیلاب کے اسباب دونوں بیانات کے مطابق وہی ہیں۔ بابتیل کے مرشدانہ متن کے بیان
 (کتاب پیدائش، ۷، ۱۱) سے دو اسباب کا پتہ چلتا ہے جو ساتھ ساتھ روتھا ہوئے "اس دن
 سمندر کے تمام سوتے مچھوٹ نکلے اور آسمان کی کھڑکیاں کھل گئیں۔ قرآن مجید سورۃ ۵۴ کی
 گیارہویں اور بارہویں آیتوں میں حسب ذیل بیان پیش کرتا ہے۔

تب ہم نے موسلا دھار بارش سے آسمان کے
 دروازے کھول دیئے اور زمین کو مچھاڑ کر چشموں
 میں تبدیل کر دیا اور یہ سارا پانی اس کام کو
 پورا کرنے کے لیے مل گیا جو مقدر ہو چکا تھا۔

فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ
 بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ ۖ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ
 عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى
 أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ ۝

قرآن کریم میں ان اشیاء کو نہایت صحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے جو کشتی میں موجود تھیں
 اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو جو حکم دیا تھا اس کو نہایت فرمانبرداری سے بجا
 لایا گیا۔ اور وہ باتیں حسب ذیل تھیں جو کرنے کو کہی گئی تھیں۔

سورۃ ۱۱، آیت ۴۰:-

ہم نے کہا ہر قسم کے جانوروں کا ایک ایک
 جوڑا کشتی میں رکھ لو۔ اپنے گھروالوں کو بھی۔

قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلِّ
 زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ

— سوائے ان اشخاص کے جن کی نشاندہی پہلے کی جا چکی ہے۔ اس میں سوار کرا دو اور ان لوگوں کو بھی بٹھا جو ایمان لائے ہیں۔ اور تھوڑے ہی لوگ تھے جو نوح علیہ السلام کے ساتھ ایمان لائے تھے۔

إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ
الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا
آمَنَ مَعَهُ إِلَّا
قَلِيلٌ ۝

جس فرد کو خاندان سے خارج کیا گیا تھا وہ حضرت نوح علیہ السلام کا گمراہ بیٹا تھا۔ ہم سورۃ ۱۱، آیات ۴۵، ۴۶ میں پڑھتے ہیں کہ کس طرح اس فرد کی جانب سے حضرت نوح علیہ السلام کی بارگاہِ خداوندی میں تضرع و زاری اللہ تعالیٰ سے اس کا فیصلہ تبدیل کرانے میں ناکام رہی حضرت نوح علیہ السلام کے خاندان (نفسی ان کا گمراہ بیٹا کنعان) کے علاوہ قرآن مجید کشتی پر سوار چند دوسرے ایسے مسافروں کا بھی حوالہ دیتا ہے جو خدا پر ایمان لے آئے تھے۔

بائبل کشتی کے سواروں میں مؤخر الذکر کا تذکرہ نہیں کرتی۔ فی الحقیقت اس میں کشتی میں موجود اشیاء کے سلسلہ میں تین مختلف بیانات ملتے ہیں۔

یہودی بیان کے مطابق خالص جانوروں اور پرندوں اور غیر خالص جانوروں کے درمیان امتیاز برتنا گیا ہے۔ (سات جوتے یعنی سات تراورسات ماوا میں خالص اقسام کی کشتی میں رکھی گئیں اور ہر ایک غیر خالص قسم کا محض ایک جوڑا لیا گیا)۔

ایک تبدیل شدہ یہودی آیت کے بموجب (کتاب پیدائش ۷، ۸) خاص وہ خالص

نوح نے اپنے رب کو پکارا، کہا "اے رب میرا بیٹا میرے گھردالوں سے ہے اور تیرا وعدہ سچا ہے اور تو سب حاکموں سے بڑا اور بہتر حاکم ہے" جواب میں ارشاد ہوا "اے نوح وہ تیرے گھردالوں میں سے نہیں ہے۔ وہ تو ایک بگڑا ہوا کام ہے لہذا اس بات کی تو مجھ سے درخواست نہ کر جس کی حقیقت کو تو نہیں جانتا میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو جانوروں کی طرح نہ بنالے۔

لَمْ تَنَادِ نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَكِيمِينَ ۝ قَالَ يُنُوحُ إِنَّكَ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ ۚ إِنَّكَ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْأَلْنِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۗ إِنِّي أَعْطِكَ آتٍ تَكُونُ مِنَ الْجَاهِلِينَ ۝

۱۱ لفظ "سات" یہاں بہت سے کے مفہوم کو ظاہر کرتا ہے جیسا کہ اُس زمانہ کی سامی زبانوں میں اکثر ہوتا ہے۔

قسم تھی یا غیر خالص ہر ایک کا صرف ایک جوڑا تھا۔

مرشدانہ متن کے مطابق، حضرت نوح علیہ السلام تھے، اُن کا خاندان (بغیر کسی استثنا کے) تھا اور ہر قسم میں سے ایک ایک جوڑا لیا گیا تھا۔

قرآن میں خود سیلاب کا تذکرہ سورۃ ۱۱، آیات ۲۵ تا ۴۹، اور سورۃ ۲۳ میں آیات ۲۳ تا ۳۰ میں دیا گیا ہے بائبل کے بیان میں کوئی خاص فرق دکھائی نہیں دیتا۔

بائبل میں وہ مقام جہاں کشتی آکر ٹھہرتی ہے کو ہستان آراظ میں ہے (کتاب پیدائش ۸، ۴) اور قرآن مجید کے نزدیک یہ جگہ جو دی ہے (سورۃ ۱۱، آیت ۴۴) یہ پہاڑ آرمنینیا میں سلسلہ ارارط میں بلند ترین بتایا جاتا ہے۔ لیکن کسی بات سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ دونوں بیانات میں مطابقت ہونے کے لیے ناموں کو لوگوں نے تبدیل نہیں کر دیا ہے۔ اس بات کی تصدیق آریلیٹس نے کر دی ہے۔ اُن کے بموجب عرب میں جو دی نام کی ایک چوٹی ہے۔ ناموں کی مطابقت مصنوعی ہو سکتی ہے۔

القصد یہ بات بتانا صاف طور پر ممکن ہے کہ اس موقع پر بائبل اور قرآن کے بیانات میں پڑے پڑے اختلافات کیا ہیں۔ اُن میں سے بعض ایسے ہیں جو تنقیدی جائزہ سے بچ سکتے ہیں اس لیے کہ معروضی نوعیت کی معلومات کی کمی ہے۔ لیکن جب مصدقہ معلومات کی روشنی میں صحافت کے بیانات کو جانچنا ممکن ہوتا ہے تو بائبل کے بیانات۔ یعنی جو زمانہ کے ساتھ ساتھ اور جغرافیائی حالات کے تحت معلومات حاصل ہوتی رہی ہے۔ اور اُن تحقیقات کے درمیان جنہوں نے جدید معلومات میں اضافہ کیا ہے تناقض واضح ہو جاتا ہے۔ اس کے برخلاف قرآن میں دی گئی معلومات کسی ایسی چیز سے پاک ہے جو معروضی تنقید کو ابھارتی ہو۔ یہاں یہ سوال کیا جاسکتا ہے کہ کیا اُس مدت میں جو بائبل کے بیان کے وقت سے اُس بیان کے جو قرآن میں شامل ہے زمانہ تک ممتد ہے۔ انسان کو کوئی ایسی معلومات حاصل ہو سکی ہے جو اس واقعہ پر روشنی ڈالتی ہو۔ اس کا جواب نفی میں ہے۔ اس لیے کہ عہد نامہ قدیم کے زمانہ سے قرآن تک انسان کو اس قدیم ترین واقعہ کے متعلق جو دستاویز حاصل رہی ہے وہ خود بائبل تھی اگر انسانی عواہل اُن بیانات میں تبدیلی کی وجہ بتانے سے قاصر ہوں جنہوں نے جدید معلومات کے لحاظ سے معنوں کو متاثر کیا ہو تو پھر دوسری تو جیہہ مانتی پڑتی ہے۔ یعنی یہ کہ وہ ایسی وحی ہے جو بائبل میں شامل بیان کے بعد نازل ہوئی ہے۔



خروج

حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں کے مصر سے خروج کے ساتھ (کنعان کی طرف ان کے نقل مکانی کے پہلے مرحلہ میں) ہمیں بے حد اہمیت کا ایک واقعہ ملتا ہے یہ ایک مصدقہ تاریخی واقعہ ہے جو ایک معلوم سیاق کے ساتھ رونما ہوتا ہے۔

عہد نامہ قدیم میں کتاب خروج، اسفار خمسہ یا تورات کی دوسری کتاب ہے جس کے ساتھ صحرا نوردی کی ایک داستان اور جبل سینا پر اللہ تعالیٰ کے ساتھ عہد (میشاق بنی اسرائیل) شامل ہے۔ قرآن کریم کے لیے یہ ایک قدرتی امر تھا کہ وہ بھی اس واقعہ کے بیان کے لیے کافی جگہ وقف کرے: حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کی فرعون کے ساتھ گفتگو اور مصر سے نکلنے کا واقعہ دس سے زیادہ سورتوں میں نہایت طویل بیانات کے ساتھ شامل ہے مثلاً سورۃ ۷، ۱۰، ۲۰، اور ۲۶ میں نسبتاً مختصر بیانات اور سادہ تشبیہات کے ساتھ فرعون کا نام جو مصری فریق کا اہم کردار ہے (میری معلومات کے بموجب) قرآن مجید کی ۲۷ سورتوں میں ۷ مرتبہ دہرایا گیا ہے۔

اس موقع پر قرآن اور بائبل کے بیانات کا مطالعہ خصوصیت سے دلچسپ ہے اس لیے کہ (مثال کے طور پر) طوفان کے بارے میں خصوصیت سے جو اختلاف ملتا ہے اس کے مقابلہ میں یہاں دونوں بیانات میں بہت سی باتیں مشترک ہیں۔ یقیناً بعض انحرافات ملتے ہیں۔ لیکن بائبل کے بیان کی بڑی تاریخی قدر و قیمت ہے۔ جیسا کہ ہمیں معلوم ہوگا۔ یہ بات اس لیے ہے کہ اس سے ہمیں فرعون کا تعین کرنے یا زیر بحث دو فرعونوں کو پہچاننے میں مدد ملتی ہے۔ یہ مفروضہ جو بائبل کے ساتھ شروع ہوتا ہے۔ قرآن میں شامل معلومات سے اس کا کھلم ہو جاتا ہے۔ ان دو صحیفی ذرائع پر جدید معلومات کا اضافہ ہوا ہے اور اس طرح بائبل، قرآن اور آج کل کی معلومات کے مقابلہ سے یہ بات ممکن ہو گئی ہے کہ مقدس صحیفوں کے اس واقعہ کا تعین تاریخی سیاق کے ساتھ کیا جاسکے۔

بائبل کے مطابق واقعہ خروج

بائبل کا بیان، حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ بنی اسرائیل کے مصر میں داخلہ کی یاد ہانی کے طور پر بیان ہوا ہے۔ بعد میں بموجب کتاب خروج ۸، ۱ :

”تب مصر میں ایک نیا بادشاہ ہوا جو یوسف کو نہیں جانتا تھا“

ظلم و زیادتی کا دور شروع ہوا فرعون نے یہودیوں (بنی اسرائیل) کو حکم دیا کہ وہ چوم اور رئیس کے شہر تعمیر کریں (بائبل میں جو نام دیئے گئے ہیں وہ یہاں استعمال کر دیئے گئے ہیں) [کتاب خروج ۱، ۱۱] یہودیوں کی آبادی میں اضافہ سے بچنے کے لیے فرعون نے ہر نوزائیدہ بچے کو دریا میں پھینک دینے کا حکم دیا۔ اس کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ان کی حیات کے ابتدائی تین ماہ تک ان کو محفوظ رکھا۔ پھر ان کو دریا کے کنارے سینٹھ سے بنی ہوئی ایک ٹوکری میں بند کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ فرعون کی بیٹی کو وہ دکھائی دے گئے اس نے ان کو بچا لیا اور ایک دائی کے چو خود ان کی والدہ تھیں، حوالے کر دیا۔ ایسا اس لیے ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن اس جستجو اور ٹوہ میں تھی کہ بچے کو کون نکالتا ہے اس نے کچھ ایسے جیلے سے کام لیا کہ گویا وہ ان کو پہچانتی تھیں ہے اور شہزاد کی خدمت میں ایک دائی کی سفارش کی جو اصل میں بچے کی والدہ تھیں۔ ان کے ساتھ فرعون کے بیٹوں کا سا سلوک کیا گیا اور نام ”موسیٰ“ رکھا گیا۔

جوانی کے عالم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک ملک کی جانب چل دیئے۔ جس کا نام مدین تھا۔ وہاں انھوں نے شادی کی اور ایک طویل عرصہ تک مقیم رہے۔ اس سلسلہ میں ہم کتاب خروج ۲، ۲۳ میں ایک اہم تفصیلی بیان پڑھتے ہیں :-

”ایک مدت کے بعد یوں ہوا کہ مصر کا بادشاہ مر گیا“

اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ مصر جائیں، فرعون سے ملاقات کریں اور اپنے بھائیوں کو مصر سے نکال لائیں (اس حکم کا ذکر آگ کی جھاڑی کے واقعہ میں دیا گیا ہے) حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام نے ان کی اس کام میں مدد کی۔ یہی وجہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب لوٹ کر مدین آئے تو وہ اپنے بھائی کے ہمراہ فرعون کی ملاقات کے لیے گئے جو اس بادشاہ کا جانشین تھا جس کے عہد حکومت میں وہ کافی عرصہ قبل پیدا ہوئے تھے۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جماعت کے یہودیوں کو مصر سے نکل جانے سے منع کر دیا۔

خدا پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ظاہر ہوا۔ اور ان کو حکم دیا کہ وہ فرعون سے اپنی درخواست کو پھر دہرائیں۔ بائبل کے بیان کے مطابق اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عمر اسی سال کی تھی پھر دہرائیں۔ بائبل کے بیان کے مطابق اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عمر اسی سال کی تھی۔ معجزہ کے ذریعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو بتایا کہ مجھے فوق الفطرت قوت حاصل ہے۔ لیکن یہ بات بھی کافی نہ ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے مصر پر مشہور دیانا نزل کی۔ دریاؤں کا پانی خون بن گیا۔ پھر بینڈکوں، جوؤں اور مکھیوں کے جھنڈوں کے حملے ہوئے، جانور مر گئے۔ انسانوں اور جانوروں کے پھوڑے پھنسیاں نکل آئے۔ زالہ باری اور ڈیڑیوں کی بلا میں نازل ہوئیں۔ تاریکی چھا گئی۔ پہوٹی کے بچے مر گئے۔ اس کے باوجود فرعون نے یہودیوں (بنی اسرائیل) کو جانے کی اجازت نہیں دی۔

لہذا وہ شہر ممیس سے نکل پڑے اور یال بچوں کو چھوڑ کر وہ کوئی چھ لاکھ مرد تھے۔ (خروج ۱۲، ۳۷) اس موقع پر فرعون نے "اپنا رتھ تیار کروایا اور اپنی قوم کے لوگوں کو ساتھ لیا اور اس نے چھ سو منتخب رتھ بان بلکہ مصر کے سب رتھ لیے اور ان سبھوں میں سرداروں کو بیٹھایا اور خداوند نے مصر کے بادشاہ فرعون کے دل کو سخت کر دیا اور اس نے بنی اسرائیل کا پیچھا کیا کیونکہ بنی اسرائیل بڑے فخر سے نکلے تھے۔ [خروج ۱۲، ۶ تا ۸] مصریوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جماعت کو سمندر کے قریب جا پکڑا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا اٹھایا۔ سمندر ان کے سامنے سے پھٹ گیا اور ان کے ساتھ اس کو اس طرح پار کر گئے کہ ان کے پاؤں تک نہ بھیکے۔" اور مصریوں نے تعاقب کیا اور فرعون کے سب گھوڑے، رتھ اور سوار ان کے پیچھے پیچھے سمندر کے بیچ میں چلے گئے (خروج ۱۲، ۲۳) پانی پلٹ پڑا اور اس نے رتھوں، سواروں اور فرعون کے سارے لشکر کو جو اسرائیلیوں کا پیچھا کرتا ہوا، سمندر میں گیا تھا، غرق کر دیا اور ایک بھی ان میں سے باقی نہ چھوڑا۔ پر بنی اسرائیل سمندر کے بیچ میں سے خشک زمین پر چل کر نکل گئے اور پانی ان کے


دہسنے اور بائیں ہاتھ دیوار کی طرح رہا (خروج ۱۲، ۲۸-۲۹)۔ وہ بھی غرق خروج کا متن بالکل واضح ہے۔ فرعون تعاقب کرنے والوں کا قائد تھا۔ وہ بھی غرق ہو گیا۔ کیونکہ خروج کا متن بتاتا ہے کہ "ایک بھی ان میں سے باقی نہ چھوٹا، علاوہ ازیں بائبل اس تفصیل کو مناجاتوں میں دہرائی ہے۔ مناجات ۱۰۶، آیت ۱۱ اور مناجات ۱۳۶ آیت ۱۳، ۱۵ جو شکر خداوندی کا ایک نمونہ ہے۔

"کس نے سمندر کے پانی کو بانٹ دیا... اور اسرائیل کو ان کے بیچ سے ہو کر گزر جانے

دیا۔ لیکن فرعون اور اس کے لشکر کو سمندر میں غرق کر دیا۔
لہذا اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ بائبل کے مطابق خروج کے زمانہ کا فرعون
سمندر میں ڈوب مرا تھا۔ بائبل میں اس بات کا کوئی ذکر نہیں ہے کہ اس کے جسم کا کیا بنا۔

بائبل کے مطابق

سلطنت مصر اور بنی اسرائیل کا خروج



قرآن مجید کے مطابق خروج

اپنے وسیع خاکہ کے اعتبار سے خروج کے بارے میں جو تفصیل قرآن میں دی گئی ہے وہ
وہی ہے جیسی بائبل میں تھا ہم اسے یہاں پھر مرتب کیا جاتا ہے کیونکہ یہ سب ان عبارتوں کو

جوڑنے سے ترتیب پاتی ہے جو الکتاب میں ادھر ادھر بکھری ہوئی ہیں۔
 بائبل کے طرح قرآن بھی کوئی ایسا نام فراہم نہیں کرتا جس سے اس فرعون کی شناخت
 کی جاسکے جو خروج کے وقت حکمران تھا۔ جو بات معلوم ہے وہ یہ ہے کہ اس کے مشیروں میں
 سے ایک کا نام ہامان تھا۔ قرآن میں اس کا ذکر چھ مرتبہ آیا۔ (سورۃ ۲۶ میں آیات ۶، ۷، ۸ اور
 ۳۸ اور سورۃ ۲۹ میں آیت ۳۹ اور سورۃ ۲۰ میں آیات ۲۲ اور ۳۶)
 وہ فرعون بنی اسرائیل کو ستانے والا شخص ہے۔

سورۃ ۱۲، آیت ۶ :-

اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کہا "اللہ کے اس
 احسان کو یاد کرو جو اس نے تم پر کیا ہے۔ اس
 نے تم کو فرعون والوں سے چھڑایا جو تم کو سخت
 تکلیفیں دیتے تھے تمہارے لڑکوں کو قتل کر دیتے
 تھے اور تمہاری عورتوں کو چھوڑ دیتے تھے

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا
 نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ
 آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءًا
 الْعَذَابِ يَدَبُّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَ
 يَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ

اسی ظلم کا تذکرہ ان ہی الفاظ میں سورۃ ۱۲ کی آیت ۱۲ میں کیا گیا ہے۔ لیکن قرآن
 ان شہروں کے ناموں کا ذکر نہیں کرتا جو بائبل میں مذکور ہیں کہ بنی اسرائیل نے بیگار میں تعمیر
 کیے تھے۔

وہ واقعہ جب موسیٰ علیہ السلام کو دریا کے کنارے چھوڑ دیا گیا تھا سورۃ ۲۰ آیات
 ۳۹، ۴۰ میں اور سورۃ ۲۸ آیات ۱۸ میں مذکور ہے۔ قرآن کے بیان کے مطابق حضرت
 موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی بیوی لے گئی تھی۔ یہ بات ہمیں سورۃ ۲۸، آیات ۸، ۹ میں
 ملتی ہے۔

آخر کار فرعون کے گھروالوں نے اسے دریا
 میں نکال دیا تاکہ وہ ان کا دشمن اور ان کے لیے
 رنج کا سبب بنے۔ واقعی فرعون اور ہامان اور
 ان کے لشکر (اپنی تدبیر میں) بڑے غلط کار
 تھے۔ فرعون کی بیوی نے اس سے کہا "یہ
 میرے اور تیرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔
 اسے قتل نہ کرو۔ کیا عجب کہ ہمارے لیے مفید

فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ
 لَهُمْ عَدُوًّا وَحَرِيبًا
 فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمْ
 كَانُوا خَاطِبِينَ ۝ وَقَالَتِ
 امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتْ عَيْنِي
 لِي وَكَأَنِّي لَأَتَقْتُلُوهُ عَسَى
 أَنْ يَنْفَعَنَّا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا

ثابت ہو یا ہم اُسے بیٹا ہی بنا لیں، اور وہ (انجام

وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۝

سے) بے خبر تھے۔

مسلمانوں کی روایت کے مطابق یہ فرعون کی بیوی آسیہ تھیں جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی تھی۔ قرآن کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پاتے والی فرعون کی اہلیہ نہیں تھیں۔ بلکہ اُس کے گھر والے (دیگر افراد خاندان) تھے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جوانی اُن کے مدین میں قیام اور اُن کی شادی کا ذکر سورۃ ۲۸ کی آیات ۱۳ تا ۲۸ ہوا ہے۔

خصوصیت سے جلتی ہوئی چھاڑی کا واقعہ سورہ ۲۰ کے پہلے حصہ اور سورۃ ۲۸ کی آیات ۳۰ تا ۳۵ ہوا ہے۔

قرآن میں اُن دس بلاؤں اور وباؤں کا ذکر نہیں ہے جو عذاب خداوندی کے طور سے مصر پر نازل کی گئی تھیں (اور یہ بات بائبل کے طویل تذکرہ کے خلاف ہے) بلکہ نہایت اختصار سے محض پانچ بلاؤں کا ذکر کر دیا گیا ہے (سورۃ ۷، آیت ۱۳۳) سیلاب، ٹڈیاں، جوئیں، پینڈک اور خون۔

مصر سے فرار کا ذکر قرآن میں کیا گیا ہے۔ لیکن بغیر کسی اُن جغرافیائی تفصیلات کے جو بائبل میں دی گئی ہیں۔ نہ ہی اس میں لوگوں کی وہ ناقابل یقین تعداد مذکور ہے جس کا حوالہ بائبل میں ہے۔ یہ تیس کرنا مشکل ہے کہ ۶۰۰۰۰۰ مرد مع اپنے اہل و عیال کے ایک طویل عرصہ تک صحرا میں رہ سکے ہوں گے جیسا کہ بائبل میں ہمیں یقین دلایا گیا ہے۔

بنی اسرائیل کا تعاقب کرنے والے فرعون کی موت کا واقعہ اس طرح بیان ہوا ہے۔

سورۃ ۲۰، آیت ۷۸ :-

پیچھے سے فرعون اپنے لشکر لے کر پہنچا اور پھر سمندر

فَاتَّبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ فَغَشِيَهُمْ

اُن پر چھا گیا جیسا کہ چھا جانے کا حق تھا۔

مِّنَ اللَّيْلِ مَا غَشِيَهُمْ ۝

بنی اسرائیل پیچ کر نکل آگئے۔ فرعون غرق ہو گیا۔ لیکن اُس کا جسم مل گیا۔ یہ ایک نہایت اہم

تفصیل ہے جس کا بائبل کے بیان میں کوئی حوالہ نہیں۔

سورۃ ۱۱۰، آیات ۹۰ تا ۹۲، باری تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

اور ہم بنی اسرائیل کو سمندر سے گزار لے گئے

وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ

پھر فرعون اور اُس کے لشکر ظلم اور زیادتی کی

فَاتَّبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ ۝

غرض سے ان کے پیچھے چلے، حتیٰ کہ جب فرعون
 ڈوبنے لگا تو بول اٹھا، میں نے مان لیا کہ خداوند
 حقیقی اُس کے سوا کوئی نہیں ہے جس پر بنی
 اسرائیل ایمان لاتے اور میں بھی سراطاعت
 بھکا دیتے والوں میں سے ہوں» (جواب دیا گیا)
 اب ایمان لاتا ہے! حالانکہ اس سے پہلے تو
 تو نافرمانی کرتا رہا۔ اور فساد کرنے والوں میں
 سے تھا۔ اب تو ہم صرف تیری لاش ہی کو بچائیں
 گے۔ تاکہ تو بعد کی نسلوں کے لیے نشان عبرت
 بنے۔ اگرچہ بہت سے انسان ایسے ہیں جو ہماری
 نشانیوں سے غفلت برتتے ہیں۔

بَغِيًّا وَعَدَاوًا حَتَّىٰ إِذَا
 أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنْتُ
 أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنْتُ
 بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ
 الْمُسْلِمِينَ ۚ وَاللَّهُ وَقَدْ
 عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ
 الْمُفْسِدِينَ ۚ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ
 بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ
 خَلَقَ آيَةً ۚ وَإِنَّ كَثِيرًا
 مِّنَ النَّاسِ عَنِ آيَتِنَا
 لَغَفُلُونَ ۚ

اس عبارت میں دونوں نکات قابل تشریح ہیں۔

(الف) بغاوت اور دشمنی کا جذبہ جس کا حوالہ دیا گیا ہے اُس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اُس
 کوشش کی روشنی میں سمجھنا چاہیے جو آپ نے فرعون کو ترغیب دینے کے سلسلہ میں کی۔
 (ب) فرعون کی لاش کو بچانے کا ذکر ہے کیونکہ یہ بات سورۃ ۱۱، آیت ۸۹ میں بالکل واضح
 طور پر بتا دی گئی ہے کہ فرعون اور اُس کے ساتھیوں کو مردود قرار دے دیا ہے۔

سورۃ ۱۱، آیت ۹۸:-

(فرعون) قیامت کے روز اپنی قوم کے آگے

آگے ہوگا اور اپنی پشتوانی میں انھیں روزخ

کی طرف لے جائے گا۔

يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ

ۛ

لہذا ان حقائق کے لیے جن کو تاریخی، جغرافیائی اور تاریخی معلومات کی روشنی میں جانچا
 جاسکتا ہے، اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ قرآنی اور بائبل بیانات میں حسب ذیل نکات پر
 اختلاف ہے۔

قرآن میں مقامات کے ناموں کی غیر موجودگی، وہ دونوں شہر جن کی تعمیر حضرت
 موسیٰ علیہ السلام کی جماعت کے بنی اسرائیل نے کی تھی۔ اور جو اس راستہ پر واقع تھے جو خروج
 کے وقت استعمال ہوا۔

_____ جس زمانہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مدین میں قیام تھا اس وقت کسی فرعون کے مرنے کے حوالے کی غیر موجودگی۔

_____ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو اپنا پیغام پہنچایا اس وقت آپ کی عمرے متعلق تفصیلات کی قرآن میں غیر موجودگی۔

_____ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کی تعداد کی قرآن میں غیر موجودگی۔ یہ اعداد صاف طور پر بائبل میں ناقابل یقین حد تک مبالغہ آمیز طریقہ پر بیان کیے گئے ہیں (جن کو چھ لاکھ مرد جمع ان کے اہل و عیال کے کل ملا کر ۲۰ لاکھ سے زیادہ کی ایک قوم بنا کر پیش کیا گیا ہے)۔ فرعون کے مرنے کے بعد اس کے جسم کو بچانے کے تذکرہ کی بائبل میں عدم موجودگی۔ ہمارے موجودہ مقصد کے لیے قابل غور نکات حسب ذیل ہیں کیونکہ ان میں دونوں بیانات شریک ہیں۔

_____ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جماعت کے بنی اسرائیل پر ظلم و ستم کا تذکرہ قرآن میں شامل ہے اور اس سے اس بات کی توثیق و تصدیق ہوتی ہے۔

_____ دونوں بیانات میں شاہ مصر کے کسی تذکرہ کا فقدان۔

_____ خروج کے وقت فرعون کی موت کا ذکر قرآن اور اس سے اس واقعہ کی تصدیق۔

مقدس صحیفوں کی معلومات اور جدید معلومات کے درمیان مقابلہ

جو مدت بنی اسرائیل نے مصر میں گزاری بائبل اور قرآن میں شامل اس سے متعلق بیانات اور جس طرح وہ وہاں سے نکلے اس سے کچھ ایسی باتیں پیدا ہو گئی ہیں جن کا مقابلہ جدید معلومات سے کیا جا سکتا ہے۔ حقیقت میں یہ توازن نہایت غیر مساوی ہے اس لیے کہ کچھ معلومات تو ایسی ہیں جو بہت سے مسائل کو جنم دیتی ہیں جبکہ دیگر معلومات مشکل بحث کا موضوع بن سکتی ہیں۔

۱۔ بیانات میں شامل بعض تفصیلات کا جائزہ

بنی اسرائیل مصر میں

یظاہر یہ کہنا قطعاً ممکن ہے (اور اس میں غلطی ہونے کا بہت کم خطرہ ہے) کہ بائبل کے بموجب (پیدائش ۱۸، ۱۵۔ اور خروج ۱۲، ۴۰) بنی اسرائیل مصر میں ۴۰۰ سال سے لگا کر ۴۳۰ سال تک رہے۔ کتاب پیدائش اور کتاب خروج کے مابین اس فرق کے باوجود جو

نہایت کم اہمیت رکھتا ہے یہ بات کہی جاسکتی ہے کہ وہ مدت حضرت ابراہیم کے بہت بعد میں شروع ہوئی جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کے ساتھ مصر میں منتقل ہوئے۔ یہ استثنائے بائبل جس میں مذکورہ بالا معلومات دی گئی ہیں اور قرآن جس میں مصر کی جانب منتقلی کا حوالہ تو ملتا ہے لیکن تاریخوں کا جو اس سلسلہ میں آتی ہیں کوئی ذکر نہیں ہے۔ ہمارے پاس کوئی ایسی دستاویز نہیں ہے جس سے ہمیں اس بارے میں کوئی روشنی ملتی ہو۔ دور حاضر کے شارحین جن کا سلسلہ پی موتے سے دانیال روپ تک چلا گیا ہے۔ خیال کرتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کی مصر میں آمد، سترہویں صدی قبل مسیح میں ہیکسوس کی مصر میں منتقلی کے ساتھ منطبق ہوتی ہے۔ اور یہ کہ غالباً ایک ہیکسوس فرمانروا نے نیل کے ڈیلٹے میں ایوارس کے مقام پر ان کا نہایت خندہ جبنی سے استقبال کیا۔

بلاشبہ یہ قیاس اس بیان سے مرئی متناقض ہے جو بائبل میں شامل ہے (اسلاطین ۱، ۱۱) اس کے مطابق مصر سے خروج کا زمانہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے معبد کی تعمیر (تقریباً ۹۷۱ ق۔ م) سے ۲۸۰ سال قبل قرار پاتا ہے۔ اس لیے اندازہ کے مطابق خروج کو ۱۲۵۰ ق۔ م کے قریب سمجھنا پڑے گا۔ اور نتیجتاً مصر میں ورود ۱۸۸۰-۱۸۵۰ ق۔ م کے قریب قرار پائے گا۔ لیکن یہ ٹھیک وہی زمانہ ہے جب خیال ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حیات تھے۔ اور دوسری

۱۵ یہ وہ سامی قبائل تھے جو غرہ سے نسیطن، شام، کوہ سینا اور شمالی مغربی ریگستانوں میں آباد تھے۔ ان کا پیشہ گلہ بانی تھا اسی لیے وہ تاریخ میں ہیکسوس (HYKSOS) یعنی گڈریے مشہور ہوئے انہوں نے مصر پر اس وقت سے حملے شروع کر دیئے تھے جب ہاں گیا رہاں خاندان اپنا دور حکمرانی ختم کر رہا تھا۔ لیکن بارہویں خاندان نے ہیکسوس کے حملوں کو پسپا کئے رکھا۔ پھر جب بارہواں خاندان ۱۸۹۸ ق۔ م میں اپنی بساط حکومت کو لپٹنے پر مجبور ہو گیا۔ تو ملک کئی چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں بٹ گیا۔ تیرہویں اور چودہویں خاندانوں کی حکومت ان ہی ریاستوں میں سے دو پر تھی۔ اس کمزوری سے فائدہ اٹھا کر ہیکسوس نے پھر شدت سے حملہ کیا اور ۱۸۵۰ ق۔ م کے قریب وہ مصر کے شمالی ڈیلٹے پر قبضہ جمانے میں کامیاب ہو گئے۔ اور ان کی ایک جداگانہ حکومت قائم ہو گئی جو غیر ملکی حکومت سمجھی جاتی رہی۔ اسی کو پندرھواں خاندان کہا جاتا ہے۔ اس کا دور حکمرانی ۱۸۵۸ ق۔ م سے ۱۷۷۸ ق۔ م تک رہا۔ ہمارے نزدیک اسی خاندان کے زمانہ میں حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی مصر میں آکر مقیم ہوئے اور اس طرح ان کی آمد اٹھارہویں صدی ق۔ م کے بالکل اوائل میں ہوئی نہ کہ سترہویں صدی قبل مسیح میں۔ (مترجم)

۱۶ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ محققین کے نزدیک ۲۱۰۰ اور ۲۰۰۰ ق۔ م کے درمیان کا ہے لیکن چونکہ عہد نامہ قدیم کے مطابق ان کی عمر ۱۷۵ سال ہوئی اس لیے ممکن ہے انہوں نے انیسویں صدی ق۔ م کے شروع میں رحلت کی ہو۔ (مترجم)

تفصیلات جو بائبل میں شامل ہیں۔ اُن سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اُن کے اور حضرت یوسف علیہ السلام کے درمیان کا زمانہ ۲۵۰ سال تھا۔ اس لیے بائبل میں اس سلاطین کی یہ عبارت تاریخی نقطہ نظر سے ناقابل قبول ہو جاتی ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ جو نظریہ یہاں I۔ سلاطین سے لے کر پیش کیا گیا ہے۔ اس میں صرف یہی ایک اعتراض ہے جس کو اس کے مقابلہ میں مسترد کرتا ہے۔ ان تاریخی معلومات کی تہایت صاف و صریح غلطی اس اعتراض کی قدر و قیمت کو موثر طریقہ پر زائل کر دیتی ہے۔

مقدس صحیفوں سے ہٹ کر بنی اسرائیل نے مصر میں اپنے قیام کے جو اثرات چھوڑے ہیں وہ تہایت دھندلے ہیں۔ تاہم کئی ہیر و علفی دستاویزات ایسی ہیں جو مصر میں ایسے مزدوروں کی جماعت کے وجود کا حوالہ دیتی ہیں جو اپیر و اور ہاپرو اور ہابرو کہلاتی تھی جن کو صحیح یا غلط طریقہ سے (عمرانیوں سے مطابقت دی جاتی ہے۔ اس جماعت میں تعمیراتی کام کرنے والے، زراعت سے متعلق مزدور کھیتی کٹنے والے لوگ وغیرہ شامل ہیں۔ لیکن یہ لوگ کہاں سے آئے تھے؟ اس سوال کا جواب پانا مشکل ہے۔ قادر دے ووتے اُن کے بارے میں حسب ذیل تحریر پیش کی ہے

”وہ مقامی آبادی کے افراد نہیں ہیں اور نہ وہ خود کو معاشرہ میں کسی جماعت کی حیثیت سے روشناس کرتے ہیں۔ اُن سب کا نہ ایک پیشہ ہے اور نہ ایک مرتبہ“

تخت سوم کے زیر حکمرانی اُن کا حوالہ ”اصطیل میں کام کرنے والوں کی حیثیت سے ایک پاپیرس پر لکھا ہوا ملتا ہے۔ یہ بات معلوم ہے کہ کس طرح پندرہویں صدی قبل مسیح میں المینوس دوم اُن کے ۳۶۰۰ آدمیوں کو کنعان سے اسیر کر کے لایا تھا۔ اور جیسا کہ قادر دے ووتے کا کہنا ہے ”ان میں ایک بڑی تعداد شامی فلسطینی آبادی کی تھی۔ تقریباً ۱۳۰۰ ق م سینتھوس اول کے تحت اپیرونے کنعان کے علاقہ بیت شین میں بڑا فتنہ و فساد برپا کیا تھا۔ رمیس دوم کے دور حکمرانی میں اُن میں سے کچھ لوگ پتھر کی کانوں میں کام کرنے کے لیے مقرر کیے گئے اور کچھ اُن ستونوں کی نقل و حمل کے کام پر مامور ہوئے۔ جو فرعون کے تعمیراتی کاموں میں استعمال ہوتے تھے (مثلاً رمیس میامون کا عظیم باب ہیکل) ہمیں بائبل سے پتہ چلتا ہے کہ رمیس دوم کے دور حکمرانی میں عبرانی شمالی پایہ تخت رمیس کی تعمیراتی کام انجام دے رہے تھے بصری تحریروں میں بارہویں صدی قبل مسیح کے دوران اپیرو کا پھر ذکر آتا ہے۔ اور آخر میں رمیس سوم کے زمانہ میں بھی اُن کا حوالہ ملتا ہے۔

۱۵ ہم اس موضوع کی جانب بعد میں مراجعت کریں گے۔ جب قادر دے ووتے کا مدد سے ہم اس سلاطین میں اس کا تفصیلی جائزہ لیں گے۔

لیکن "اپیرو" کا مصر میں کوئی مذکور نہیں لہذا اس لفظ کا اطلاق کلیتہً ہیریرویڈ (عبرانی) پر ہوتا ہے۔ غالباً اس بات کی یاد دہانی کرنا بہتر ہوگا کہ اس لفظ کا استعمال شروع میں "زبردستی بیگار لیے جاتے والے مزدوروں" کے لیے ہوگا۔ اس میں اُن کی اصل نسل سے کوئی سروکار نہیں رہا ہوگا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بعد میں ایک ایسی صفت بن گیا جس سے کسی شخص کے پیشہ کا اظہار ہوتا تھا۔ ہم اس سلسلہ میں ایک مماثلت لفظ سوئس (سوئس) کے ساتھ قائم کر سکتے ہیں جس کے فرانسیسی زبان میں کئی مختلف مفاہیم ہیں۔ اس کے معنی سوئٹزرلینڈ کا باشندہ بھی ہو سکتے ہیں اس کو قدیم فرانسیسی بادشاہت کا ایک کرانے کا سپاہی بھی سمجھا جاسکتا ہے جو سوئس نسل کا ہوتا تھا۔

اس سے مراد پاپائی مجلس کا ایک محافظ بھی ہے اور عیسائی گرجا کا ایک ملازم بھی۔۔۔۔۔۔ بہر حال ہو سکتا ہے کہ رئیس دوم کے زمانہ میں عبرانی (بائبل کے مطابق) یا اپیرو ہیریو غلیفی تین کے بموجب) نے اُن کاموں میں حصہ لیا ہو جن کا حکم فرعون نے دیا تھا اور حقیقتاً زبردستی کی بیگار تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ رئیس دوم ہی بنی اسرائیل کو ستانے اور اُن پر ظلم کرنے والا فرعون تھا۔ رئیس اور پتھون جن کا ذکر کتاب خروج میں آیا ہے۔ دریائے نیل کے ڈیلٹا کے مشرقی حصہ میں واقع ہیں۔ آج کے شہر تینیس اور فنطر جن کے درمیان تقریباً پندرہ میل کا فاصلہ ہے اسی علاقہ میں واقع ہیں جہاں یہ دونوں شہر آباد تھے۔ شمالی صدر مقام جس کی تعمیر رئیس دوم نے کی تھی وہیں واقع تھا۔ لہذا رئیس دوم ہی ظلم کرتے والا فرعون تھا۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام ایسے ماحول میں پیدا ہوئے۔ دریا کے پانی سے اُن کے پچ کر نکل جانے کے حال کو مختصراً اوپر بیان کر دیا گیا ہے۔ اُن کا ایک مصری نام پی۔ مانتے نے اپنی کتاب مصر اور بائبل (لے تریٹ اے لابیبل) میں بتایا ہے کہ یسیلویامیسی وہ اعلام ہیں جو ہیریو غلیفی زبان کی لغت میں جس کو رینیک نے مرتب کیا ہے درج ہے۔ موسیٰ اسی لفظ کی نقل ہے جو قرآن میں دی گئی ہے۔

مصر میں جو بلائیں نازل ہوئیں

اس عنوان کے تحت بائبل میں دس سزاؤں کا ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئیں۔ اور ان "بلاؤں" میں سے ہر ایک کے متعلق متعدد تفصیلات دی گئی ہیں۔ بہت سی کمیٹیاں اور

سے شائع کردہ دیلاشا اور نیٹلے، نیوٹن ٹائیل ۱۹۵۹ء۔

کیفیت کے لحاظ سے فوق الفطرت ہیں۔ قرآن میں محض پانچ بلاؤں کا ذکر ہے جو بڑی حد تک قدرتی حوادث کی صورت میں واقعہ آمیز شکل ہے۔

بائبل میں ٹڈیوں اور مینڈکوں کے نہایت تیز رفتار سے اضافہ کا ذکر ہوا ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ دریا کا پانی خون میں تبدیل ہو جاتا ہے اور تمام سرزمین میں سیلاب آجاتا ہے قرآن میں بھی خون کا تذکرہ ہے لیکن بغیر کسی اضافی تفصیلات کے خون کے اس ذکر کے موضوع پر انواع و اقسام کے مفروضے اختراع کرنا ممکن ہے۔ طوفان - جراد - قمل اور ضفادع اور مہلک دیگر بلائیں جن کا ذکر بائبل میں ہے (مچھر - مکھیوں کے کچھے - پھوڑے پھنسیاں، زلزلہ باری تاریکی، پہلوٹی کے بچوں اور مویشیوں کا مرنا) ان کے متعدد ماخذات ہیں۔ جیسا کہ طوفان کی حالت میں ہم دیکھ چکے ہیں اور مختلف منابع کی عبارتوں کو باہم ملا کر ان کو تشکیل دی گئی ہے۔

خروج کا راستہ

قرآن مجید میں اس کی نشاندہی نہیں کی گئی ہے جبکہ بائبل میں اس کو بڑی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ (خروج باب ۱۲ تا باب ۱۷) فادر دے و اور پی۔ مانتے تے اس کا تفصیلی جائزہ لیا ہے۔ نقطہ آغاز غالباً ٹینس قنطیر کا علاقہ تھا لیکن باقی راستہ کے کوئی ایسے نشانات نہیں ملے جو بائبل کے بیان کی توثیق کرتے۔ نہ اب یہ بات بتانا ممکن ہے کہ وہ مقام ٹھیک ٹھیک کہاں تھا۔ جہاں پانی کے پھٹنے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ہمراہیوں کے لیے راستہ بنا تھا۔

پانی کا معجزانہ طور پر پھینا

بعض شارحین نے اس کو غالباً فلکیاتی اسباب کی بنا پر ایک مذہبزر کا واقعہ خیال کیا بعض نے اس کو کسی دور افتادہ مقام پر ہونے والے آتش فشاں کے عمل سے متعلق ایک زلزلہ سمجھا۔ یہی اسرائیل اترتے ہوئے پانی سے فائدہ اٹھا سکتے تھے اور مصری ان کے تعاقب کے جوش میں دری لہر کے سبب بہہ سکتے تھے۔ لیکن یہ سب کچھ ایک خالص مفروضہ ہے۔

۲۔ فرعون کی تاریخ میں خروج کا زمانہ وقوع

زمانہ کے لحاظ سے خروج کا واقعہ جس وقت ہوا اس کے سلسلے میں زیادہ مثبت شہادت تک

رسائی ہوتا ممکن ہے۔

ایک طویل عرصہ تک، عیس دوم کے جانشین منفتح کو خروج کے وقت کافر عوں
گروانا جاتا رہا۔ اس صدی کے شروع کے مشہور ماہر مصریات ماسپیرون نے اپنی کتاب 'رہمائے
عجائب گھر قاہرہ برائے سیاح سنہ ۱۹۰۰ء (گبیرودوژتورڈوموسے ڈوکیرو) میں لکھا تھا کہ
"غالباً اسکندری روایت کے بموجب منفتح خروج کے زمانہ کافر عوں تھا جس کے بارے میں کہا
جاتا ہے کہ وہ بحیرہ احمر (بحیرہ قلزم) میں ڈوب مرا تھا۔ میں ان دستاویزات کے حصول میں ناکام
رہا جن کی بنیاد پر ماسپیرون نے یہ ادعا قائم کیا تھا۔ لیکن اس شارح کی عظمت و برتری ہم سے
اس بات کی مقتضی ہے کہ اس کے دعویٰ کو زیادہ سے زیادہ اہمیت دیں۔

پنی یا تے کے علاوہ بہت کم ماہرین مصریات یا بائبل کے ماہر مفسرین ایسے ہیں جنہوں
نے اس مفروضہ کی موافقت یا مخالفت میں جانے والے دلائل کے سلسلہ میں تحقیقات کی ہو
لیکن پچھلے چند سالوں میں مختلف مفروضوں کا ایک سیلاب اُمتڈ آیا ہے جن کا واحد مقصد کتاب
مقدس میں بیان کردہ کسی ایک تفصیل پر مبنی شہادت کو حق بجانب ثابت کرنا ہے حالانکہ ان
مفروضوں کے خالق کتب مقدسہ کے دیگر پہلوؤں سے کوئی تعارض نہیں کرتے اس طرح ممکن
ہے کہ یکا یک کوئی ایسا مفروضہ نمودار ہو جائے جو کسی بیان کے ایک پہلو سے مطابقت رکھتا
ہو باوجودیکہ اس کے موجودتے کتب مقدسہ میں وہی ہوئی (اور نتیجتاً بائبل میں پیش کردہ دیگر
معلومات) جمع تاریخ، اثریات وغیرہ کے ذریعہ فراہم شدہ نتائج سے اس کا موازنہ و مقابلہ
کرنے کی زحمت نہ کی ہو۔

ایک عجیب ترین مفروضہ جو ابھی تک منظر عام پر آیا ہے وہ ہے۔ وی۔ مائیکلی (۱۹۶۰ء)
کا ہے جنہوں نے خروج کی تاریخ کا پوری طرح تعین دن کی حد تک کر دیا ہے۔ یعنی ۹ ویں اپریل
۱۲۹۵ ق۔ م۔ وہ اپنی معلومات کے لیے کلی طور سے ان حسابات پر بھروسہ کرتے ہیں جو انہوں نے
تقوم سے حاصل کی ہیں اور ان کا دعویٰ ہے کہ اس وقت مصر میں تھوٹس دوم حکومت کر رہا تھا۔
لہذا وہی خروج کے زمانہ کافر عوں ہے۔ اس مفروضہ کی توثیق اس واقعہ سے کی گئی ہے کہ
تھوٹس دوم کی ممی میں جسم کا کھال پر کچھ داغ دھبے نظر آتے ہیں۔ یہ شارح صاحب (یہ صفحات
کیے بغیر کہ ایسا کیوں ہے) ہمیں اطلاع دیتے ہیں کہ وہ برص کے مرض کے سبب ہیں اور مصر میں
نازل ہونے والی بلاؤں میں سے جن کا بائبل میں تذکرہ ہے یہ بلا جسم کے اوپر پھوٹے مھسیوں کی
شکل میں آتی تھی۔ اس تردد و آمیز اختراع کی بائبل کے بیان میں شامل دیگر حقائق کی طرف کوئی

توجہ نہیں ہے خصوصیت سے شہر عَمَس کا تذکرہ جو بابل میں ہے اور جو ہر اُس مفروضہ کو جس میں خروج کے واقعہ کو عَمَس کے عہد سے پہلے بتایا گیا ہو مسترد کر دیتا ہے۔

جہاں تک تھومس دوم کے حیم پر داغ دھبوں کا تعلق ہے وہ اس نظریہ کی تائید میں نہیں جاتے جو مہر کے اس بادشاہ کو خروج کے وقت کا فرعون ثابت کرتا ہے۔ اس لیے کہ اُس کے بیٹے تھومس سوم اور اُس کے پوتے ایمینوفس دوم کے جسموں پر بھی جلدی پھوڑوں کے نشانات موجود ہیں۔ لہذا بعض شارحین نے یہ خیال پیش کیا ہے کہ یہ ایک خاندانی مرض تھا۔ بنا بریں تھومس دوم کا نظریہ قابل قبول نہیں ہے۔

یہ بات وائیل روپس کے نظریہ کے لیے صحیح ہے جو انھوں نے کتاب "بابل کے لوگ" (لوپوپل وے لا بابل) میں پیش کیا ہے۔ وہ ایمینوفس دوم کو خروج کے وقت کا فرعون قرار دیتے ہیں۔ اس کی بنیاد بھی سابقہ نظریہ کے مقابلہ میں کچھ زیادہ مضبوط نہیں معلوم ہوتی۔ یہ عذر پیش کر کے کہ ایمینوفس دوم کا باپ (تھومس سوم) بڑا قوم پرست تھا، وائیل روپس، ایمینوفس دوم کو بنی اسرائیل کو باندھے رکھنے والا شخص قرار دے دیتے ہیں جبکہ اُس کی سوتیلی ماں، مشہور ملکہ عطشپ ست کو وہ کہہ کر دار بنا کر پیش کرتے ہیں جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اندر داخل کیا تھا (حالانکہ ہماری سمجھ میں اس کی وجہ کبھی نہ آتی)۔

فادر وے و و کا نظریہ کہ یہ شخص عَمَس کا تھا کسی قدر زیادہ مضبوط بنیادوں پر قائم ہے۔ وہ اپنی کتاب "اسرائیل کی قدیم تاریخ" (ہستوار آئین اسرائیل) میں ان بنیادوں پر اپنے نظریہ کی وضاحت کرتے ہیں۔ اگرچہ ان کا نظریہ بابل کے بیان کے ہر نکتہ کی تائید نہیں کرتا۔ تب بھی کم از کم وہ ایک نہایت اہم شہادت کو تو منظر عام پر لاتا ہے۔ عَمَس اور سچوں کے شہروں کی تعمیر جو عَمَس کے عہد حکمرانی میں ہوئی تھی اُس کا ذکر بابل کے متن میں ملتا ہے اس لیے یہ خیال کہ ناممکن نہیں کہ خروج کا واقعہ عَمَس دوم کی تخت نشینی سے پہلے ہوا ہو۔ ڈریوٹن اور وینڈریس کی توجیہ کے مطابق یہ اسلہ قیم کا وقوع ہے اور روٹن کے بموجب اس کا سنہ ۱۲۹۰ ق۔ م قرار پاتا ہے۔ باقی دو مفروضے جن کا اوپر ذکر کیا گیا ہے حسب ذیل ضروری واقعہ کی بنا پر ناقابل قبول ہیں، عَمَس دوم ظہم دستم کرنے والا وہ فرعون ہے جس کا حوالہ بابل میں دیا گیا ہے۔ فادر وے و و کا خیال ہے کہ خروج کا واقعہ عَمَس دوم کے عہد حکومت کے پہلے نصف حصہ میں یا اُس کے وسط میں رونما ہوا۔ اس اعتبار سے اس واقعہ کی تاریخیں غیر متعین ہیں۔ وہ یہ زمانہ اس لیے تجویز کرتے ہیں تاکہ حضرت موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کو کنعان میں آباد ہونے کا

موقع نکال لیں اور عرس دوم کے جانشین فرعون منفتح کو، جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اُس نے اپنے باپ کے مرنے کے بعد سرحدوں پر امن و امان قائم کیا، بنی اسرائیل کو متفق کرنے کے لیے وقت مل جائے جو اُس کے دور حکومت کے پانچویں سال کے واقعات میں ریشمی کپڑے کے ایک ٹکڑے پر لکھا ہوا ملا ہے۔

اس نظریے کے خلاف دو دلائل پیش کیے جاسکتے ہیں۔

(الف) بائبل سے ظاہر ہوتا ہے (خروج ۲، ۲۳) کہ مصر کا بادشاہ اُس زمانہ میں مر گیا تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین میں تھے۔ اس بادشاہ کو کتاب خروج میں وہ بادشاہ بتایا گیا ہے جس نے بنی اسرائیل سے بیگار میں عرس اور تپھوم کے شہر تعمیر کرائے تھے۔ یہ بادشاہ عرس تھا۔ لہذا خروج کا واقعہ مؤخر الذکر کے جانشین کے دور حکمرانی میں ظہور پذیر ہو سکتا تھا لہذا فاروے ووبائیل کی کتاب خروج آیت ۲۳، باب ۲ کے ذریعہ پر شبہ کا اظہار کرتے ہیں۔

(ب) اس سے بھی زیادہ حیران کن بات یہ ہے کہ فاروے ووبائیل اسکول یروشلم سے بھی زیادہ حیران کن بات یہ ہے کہ فاروے ووبائیل اسکول یروشلم کے ڈائریکٹر کی حیثیت کے باوجود اپنے خروج کے نظریہ میں بائبل کی ان دو ضروری عبارتوں کا حوالہ نہیں دیتے جو دونوں کی دونوں اس حقیقت کو بیان کرتی ہیں کہ بنی اسرائیل کے فرار کی وقت تعاقب کرنے کے دوران یہ بادشاہ مر گیا تھا۔ یہ تفصیل اس امر کو ناممکن بنا دیتی ہے کہ خروج کا واقعہ کسی دور حکومت کے ختم ہونے کے علاوہ کسی اور وقت پر رونما ہوا ہو۔

یہ چیز دہرائی پڑے گی کہ اس بات میں بہت کم شبہ کیا جاسکتا ہے کہ اس کے نتیجے میں فرعون کو اپنی زندگی سے ہاتھ دھونے پڑے تھے۔ خروج کے ابواب ۱۳ اور ۱۴ اس مسئلہ سے متعلق قطعاً واضح ہیں: ”تب اُس نے اپنا رتھ تیار کروایا اور اپنی قوم کے لوگوں کو ساتھ لیا۔۔۔۔۔ (خروج ۱۴، ۴ اور ۱۴، ۸)۔۔۔۔۔“ اور پانی پلٹ کر آیا اور اُس کے رتھوں اور سواروں اور فرعون کے سارے لشکر کو جو اسرائیلیوں کا پیچھا کرتا ہوا سمندر میں گیا تھا غرق کر دیا اور ایک بھی ان میں سے باقی نہ چھوڑا“ (خروج ۱۴، ۲۸ اور ۱۴، ۲۹) ان آیات کے علاوہ مناجات ۶، ۳۱ سے بھی فرعون کی موت کی تصدیق ہوتی ہے اس میں اس بات کا ذکر ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ ہی تھا جس نے فرعون اور اُس کے لشکر کو سینٹھوں کے سمندر میں غرق کر دیا“ (مناجات ۶، ۱۵)

اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ حیات میں ایک فرعون تو اُس وقت مراجب وہ مدین میں تھے اور دوسرا خروج کے دوران مراجب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں ایک نہیں بلکہ دو فرعون تھے۔ ایک ظلم و زیادتی کے وقت اور دوسرا مصر سے خروج کے دوران۔ صرف ایک فرعون د یعنی

رُمس دوم) کا نظریہ جو قارڈے دوتے پیش کیا تشفی بخش نہیں ہے۔ کیونکہ اس سے ہر بات کی توجیہ و تاویل نہیں ہوتی۔ حسب ذیل مشاہدات اس نظریہ کے خلاف مزید دلائل ہیں۔

۳۔ رُمس دوم۔ ظلم و ستم کرنے والا فرعون

مرنفتاح — خروج کے وقت کا فرعون

پی۔ مانتے نے نہایت فراست کے ساتھ اس ابتدائی سکندری روایت کو دہرایا ہے جس کا ذکر ما سپرو نے کیا ہے۔ یہ اسلامی روایت میں کافی بعد میں ملتی ہے نیز کلاسیکی عیسائی روایت میں بھی یہ بہت بعد میں ملتی ہے۔ یہ نظریہ مانتے کی کتاب مصر اور بائبل (لاثریت اے لوئیل) میں ظاہر کیا گیا اور اضافی دلائل کے ساتھ اس کی حمایت کی گئی ہے۔ یہ دلائل بالخصوص اس بیان پر مبنی ہیں جو قرآن کیم میں دیا گیا ہے اور جس کا مشہور ماہر اثریات کوئی حوالہ نہیں دیتا لیکن ان کا جائزہ لینے سے قبل ہم بائبل سے رجوع کریں گے۔

کتاب الخروج میں لفظ رُمس کا ایک حوالہ ملتا ہے اگرچہ فرعون کے نام کا ذکر نہیں کیا گیا۔ بائبل میں رُمس ان شہروں میں سے ایک کا نام بتایا گیا ہے جو بیگار کے طور پر بنی اسرائیل نے تعمیر کیے تھے۔ آج ہمیں معلوم ہے کہ یہ شہر تینس قنطر کے علاقہ کا ایک حصہ ہے جو نیل کے مشرقی ڈیلٹے میں ہے۔ اس علاقہ میں جہاں رُمس دوم نے اپنا شمالی پایہ تخت بنایا تھا اس سے پہلے کی دوسری تعمیرات بھی تھیں۔ لیکن وہ شخص رُمس دوم ہی تھا جس نے اس کو ایک اہم مقام بنایا جیسا کہ ان اثریاتی کھدائیوں سے بخوبی ظاہر ہوا ہے جو گذشتہ چند دہ سالوں میں کی گئی ہیں۔ اس کی تعمیر میں اس نے بنی اسرائیل کو جو غلام بنالیے گئے تھے مزدوری میں پکڑا۔

آج جب کوئی شخص بائبل میں لفظ رُمس پڑھتا ہے تو اس کو خصوصیت سے کوئی حیرت نہیں ہوتی۔ ۱۶۰ سال کا عرصہ ہوا جب سے شپولین نے ان نشانات کا جائزہ لے کر جو اس لفظ کو ظاہر کرتے تھے۔ ہیر و غلیفی رسم الخط کی کینجی دریافت کی ہے اس وقت سے یہ لفظ ہمارے لیے بہت عام ہو گیا ہے۔ اسی لیے ہم آج اس کو بڑھنے اور اس کا تلفظ کرنے کے عادی ہو گئے ہیں اور یہ بھی جان گئے ہیں کہ اس کا مفہوم کیا ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ ہیر و غلیفی رسم الخط کا مفہوم تقریباً تیسری صدی قبل مسیح میں گم ہو گیا تھا اور یہ کہ رُمس کا نام سوائے بائبل اور چند اور کتابوں کے جو یونانی اور لاطینی زبانوں میں لکھی گئیں۔ مشکل سے ہی کہیں اور محفوظ رہ گیا تھا۔ اور ان تحریروں میں بھی اس لفظ کو کم یا زیادہ حد تک بگاڑ دیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ

ٹاسی ٹس اپنے ”واقع“ میں ”رہا مس“ کا ذکر کرتا ہے لیکن بائبل نے اس نام کو جوں کا توں رکھا ہے۔ اس کا تذکرہ اسفار خمسہ یا توریت میں چار جگہ ہوا ہے (پیدائش ۴، ۱۱، خروج ۱۱، ۱ اور ۱۲، ۳۳ گنتی ۳، ۳۳ اور ۳، ۳۳)۔

رعمس کے لیے عبرانی لفظ بائیل میں دو طرح سے لکھا جاتا ہے۔ رعمس، یا رعمیس۔ بائیل کے یونانی متن میں جو ”ہفتادوی ترجمہ“ کے نام سے موسوم ہے یہ لفظ ”رعمیس“ ہے۔ لاطینی متن (دولگیٹ) میں یہ لفظ ”رعمیس“ لکھا ہوا ہے۔ بائیل کے کلینتی ”متن“ میں جو فرانسیسی میں ہے (اشاعت اول، ۱۹۲۱ء) یہ لفظ اسی طرح ہے یعنی ”رعمیس“ جس زمانہ میں شاہ پولین نے اس شعبہ میں کام کیا اس وقت فرانسیسی اشاعت ہی راجح تھی۔ اپنی کتاب قدیم مصر لوہوں کے ہیرو تلیفی طرز کے خلاصہ“ (برسی ڈوسٹم بیر یوگلیفک دے آئیسیان ایترپسین، اشاعت ثانی ۱۸۲۵ء صفحہ ۸، ۱۲) میں شاہ پولین نے اس لفظ کے بائیل کے جوں کو اختیار کیا۔ اس طرح بائیل نے معجزانہ طور پر رعمس کے نام کو اپنے عبرانی، یونانی اور لاطینی متون میں قائم و برقرار رکھا۔

صرف گذشتہ معلومات ہی حسب ذیل باتوں کو قائم رکھنے کے لیے کافی ہیں۔
(الف) خروج کا کسی رعمس کی مصر میں تخت نشینی سے قبل کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔

(یہ نام مصر کے ۱۱ بادشاہوں کا ہوا ہے)

(ب) حضرت موسیٰ علیہ السلام اس فرعون کے دور حکومت میں پیدا ہوئے جس نے رعمس اور پتھوں کے شہر تعمیر کیے تھے یعنی رعمس دوم۔

(ج) جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین میں تھے اس وقت حکمران فرما نروا یعنی رعمس دوم) مرگیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سرگزشت کا سلسلہ رعمس دوم کے جانشین، مرتفاح کے دور حکومت میں جاری رہا۔

جو بات اس سے بھی بڑھ کر ہے وہ یہ کہ بائیل میں اور بھی انتہائی اہم معلومات ایسی موجود ہیں جو خروج کو فرعون کی تاریخ میں متعین کرنے میں مدد دیتی ہیں۔ یہ وہ بیان ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عمر اس وقت اسی سال تھی جب حکم ربی انھوں نے فرعون کو ترغیب دیا کہ وہ ان کے بھائی بندوں کو رہائی دے۔ اور موسیٰ اسی برس اور ہارون تیرا اسی سال کا تھا جب وہ فرعون سے ہم کلام ہوئے، (خروج ۱۷، ۱۷)۔ لیکن دوسری جگہ بائیل سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے (خروج ۲، ۲۳) کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت کا حکمران فرعون مرگیا

جبکہ مؤخر الذکر کا قیام مدین میں تھا۔ اگرچہ بائبل کا بیان حکمران کے نام میں کسی تبدیلی کا ذکر کیے بغیر جاری رہتا ہے بائبل کے یہ دونوں بیانات اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ کا قیام مصر میں تھا اس وقت دونوں فرعونوں کے دور حکومت کے سالوں کی مجموعی تعداد کم از کم اسی ہی ہوگی کہا جاتا ہے کہ عیس دومتے ۶۷ سال تک حکومت کی ۱۳۰۱ تا ۱۳۵۳ ق م ڈریوٹن اور وینڈیر کی توقیت کے بموجب اور ۱۲۹۰ تا ۱۲۲۴ ق م راؤٹن کے مطابق) لیکن جہاں تک کہ اس کے جانشین مرنفتاح کا تعلق ہے ماہرین مصریات اس کے دور حکومت کی صحیح تاریخوں کا تعین نہیں کر سکے۔ تاہم اس کا دور کم از کم دس سال رہا اس لیے کہ جیسا کہ فاروے ووتبتے میں دستاویزات اس کے دور کے دسویں سال کی شہادت پیش کرتی ہیں مرنفتاح کے لیے ڈریوٹن اور وینڈیر دو مکانات پیش کرتے ہیں یا تو دس سالہ دور ۱۲۳۴ لغایت ۱۲۲۴ ق م یا بیس سالہ دور حکومت ۱۲۲۴ تا ۱۲۰۴ ق م ماہرین مصریات کے پاس کوئی صحیح وضاحتیں ایسی نہیں ہیں جن سے پتہ چل سکے کہ مرنفتاح کا دور حکومت کیسے اختتام کو پہنچا۔ زیادہ سے زیادہ جو بات کہی جاسکتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کا خاتمہ اس کی موت سے ہوا۔ مصر میں انتہائی داخلی انتشار کا دور رہا جو تقریباً ۲۵ سال چلا۔

اگرچہ ان ادوار پر تاریخی توقیت زیادہ صحیح نہیں ہے تاہم نئی حکومت کے دوران کوئی اور دور ایسا نہیں ہے جو بائبل کے اس بیان کے مطابق ہو جس میں دو متواتر دور سولہ عیس دوم۔ مرنفتاح کے) اسی سال کے برابر یا اس سے بڑھے ہوئے ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام

۱۵ مصنف موصوف نے کھینچ تان کر کے ۸۰ کی تعداد کو پورا کرنے کی کوشش کی ہے۔ حالانکہ اس میں بھی پوری کامیابی نہیں ہوئی۔ جب عیس دوم کے دور حکومت کے ۶۷ سال میں مرنفتاح کے دور کے دس سال میں جمع کیے جاتے ہیں تو کل مدت ۷۷ سال ہوتی ہے۔ پھر وہ بھی اس صورت میں جب پورے پورے دور حکومت شامل کیے جائیں۔ لیکن جب کہا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام عیس دوم کے دور حکومت میں پیدا ہوئے تو اس سے یہ سمجھنا پڑے گا کہ اس کو حکومت کرتے ہوئے کچھ عرصہ گزر چکا تھا۔ نیز دوسرے فرعون سے ہمکلامی خروج کے واقع کو کچھ پہلے مانتی پڑے گی اس طرح کل مدت زیادہ سے زیادہ ۷۰ سال ہو سکے گی۔ ۸۰ سال کا حساب کسی طرح صحیح نہیں بیٹھا۔ ہمارے نزدیک تو فرعون سے طاقات کے وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عمر ۴۰ اور ۵۰ سال کے درمیان تھی کیونکہ جب وہ مصر سے نکل کر مدین گئے اس وقت نوجوان تھے۔ وہاں پندرہ بیس سال سے زیادہ قیام نہیں رہا۔ اسی صورت میں ۸۰ سال کا سن کسی طرح نہیں ہو سکتا۔ (مترجم)

۱۵ مؤخر الذکر سنیں ہی صحیح ہیں اس لیے کہ اکثر ماہرین مصریات اور مورخین نے ان ہی کو اختیار کیا ہے اور ان ہی کے مطابق فراغ مہر کے واقعات کا سلسلہ مرتب کیا ہے۔ (مترجم)

کی عمر سے متعلق بائبل کی فراہم کردہ معلومات جب انھوں نے اپنے بھائیوں کو آزادی دلائی صرف عیس
دوم اور مرتفتح کے متواتر دور حکومت کے دوران کے وقت سے ہی صحیح ہو سکتی ہیں۔ اس حقیقت
کے لیے مکمل شہادت ملتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام عیس دوم کے عہد حکومت
کے اوائل میں پیدا ہوئے۔ ان کا قیام اس وقت مدین میں تھا جب عیس دوم اپنے سرسٹھ
سالہ دور حکومت کے بعد مرا اور انجام کار مرتفتح کے آگے مصر میں مقیم بنی اسرائیل
کے معاملہ کے وکیل بنے۔ یہ واقعہ مرتفتح کے دور حکومت کے دوسرے نصف حصہ میں
رونا ہوا۔ یہ اس مفروضہ کی بنیاد پر ہے کہ اس نے بیس سال یا بیس سال کے لگ بھگ حکومت
کی۔ راؤٹن اس مفروضہ کو قطعاً معقول سمجھتے ہیں۔ اس صورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے
مرتفتح کے دور حکومت کے اختتام پر خروج کے موقع پر قیادت کی ہوگی۔ حقیقت اس کے
خلاف نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ بائبل اور قرآن دونوں سے ہمیں یہی اطلاع ملتی ہے کہ فرعون
اس وقت مر گیا تھا جب وہ بنی اسرائیل کا تعاقب کر رہا تھا جو ملک کو چھوڑ کر جا رہے تھے۔

اس دور کا مدت جو سیتی اول اور عیس دوم کے عہد حکومت پر مشتمل ہے قریب قریب اسی سال بتائی جاتی ہے۔
لیکن یہ خارج از بحث ہے۔ سیتی اول کے عہد حکومت کا۔ جو اس مقصد کے لیے نہایت مختصر ہے۔ — مدین کے اس طویل
قیام کے ساتھ معاملہ نہیں بنتا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے سن بلوغت کے دوران کیا اور جو ان دونوں میں
سے جن سے ان کی واقفیت تھی پہلے فرعون کے زمانہ میں رہا۔

۱۱ لائق مصنف نے اس موضوع سے متعلق نہایت مدلل طریقہ سے بحث کی ہے لیکن بعض وجوہ کی بنا پر اس نظریہ کو قبول
کرنا ممکن نہیں ہے۔ جدید تحقیقات کی بنیاد پر یہ بات دریافت ہوئی ہے کہ مرتفتح کے دور میں بنی اسرائیل فلسطین میں مقیم
تھے، انھوں نے اس کے خلاف بغاوت کی جس کو اس نے دبا دیا۔ اس چیز کا ذکر مصنف موصوفتے بھی کیا ہے۔ لیکن وہ
اس کو روکنے بغیر دوسرے دلائل پیش کرنے کی طرف مائل ہو گئے۔ پھر اگر خروج کا واقعہ مرتفتح کے دور حکومت کے
اختتام پر (۱۲۱۵ ق۔ م یا ۱۲۰۴ ق۔ م میں) ہوا اور اس کے پچاس سال بعد بنی اسرائیل فلسطین میں داخل ہوئے
تو ان کی فلسطین میں آمد سے حضرت داؤد علیہ السلام کے دور حکومت کے آغاز تک زیادہ سے زیادہ ڈیڑھ سو سال کی
مدت ہوتی ہے جو نہایت قلیل ہے۔ واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مدت کسی سو سال تھی۔ لہذا بنی اسرائیل کا مصر سے
خروج مرتفتح کے دور حکومت سے بہت پہلے ہو چکا تھا۔ خروج کے زمانہ کا تعین کرنے کے لیے ضروری ہے کہ حضرت
ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ سے واقعات کا جائزہ لیا جائے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام سلطنت اُر کے تیسرے شاہی خاندان کے پہلے فرمانروا ارنویا نرود کے زمانہ میں تھے
جو تقریباً ۲۱۱۲ ق۔ م میں موجود تھا۔ مصر میں وہ بارہویں خاندان کے دور حکومت میں پہنچے۔ یہ زمانہ ۲۱۱۱ ق۔ م سے ۱۸۹۸ ق۔ م
(بقیہ اگلے صفحہ پر)

یہ خاکہ اس بیان کے ساتھ مکمل طور پر مطابقت رکھتا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شیر خوارگی اور اس طریقہ سے متعلق صحائف میں مذکور ہے جس طریقہ سے ان کو فرعون کے گھرانہ میں داخل کیا گیا تھا۔ یہ ایک معلوم حقیقت ہے کہ موت کے وقت عیس دو م بہت یوڑھا ہو چکا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کا سن نوے تین سو سال ہوا ہے۔ اس نظریہ کے مطابق دور حکومت کے آغاز کے وقت اس کی عمر تیس یا تیس رہی ہوگی اس لیے کہ اس کا دور حکومت پندرہ سال رہا۔ یہ عمر ایسی تھی جب وہ شادی کرنے کے قابل تھا اور کسی بات سے اس چیز کی مخالفت نہیں ہوتی کہ فرعون کے گھرانے کے کسی رکن کو حضرت موسیٰ علیہ السلام ملے تھے۔ (قرآن مجید کے بیان کے مطابق) یا اس واقعہ کی تردید نہیں ہوتی کہ فرعون کی بیوی نے اس سے کہا کہ ”کیوں نہ ہم اس توڑا بندہ بچے کو پال لیں جو ہمیں دریائے نیل کے کنارے پر ملا ہے“ بائبل کا بیان ہے کہ بچے کو پالتے والی فرعون کی بیٹی تھی۔ عیس دو م کی عمر کے پیش نظر یہ امر کلی طور پر ممکن ہے کہ اس دور حکومت کے ابتدائی ایام میں اس کے اتنی بڑھی لڑکی ہو جس کو وہاں

بقیہ حاشیہ: تک پھیلا ہوا ہے لہذا اگر ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بعثت کا زمانہ ۲۱۰۰ اور ۲۰۰۰ ق م کے درمیان سمجھ لیں۔ تو حضرت یوسف کے بھائیوں کی مصر آمد ۸۰۰ ق م کے قریب قرار پاتی ہے۔ اگر خروج کا واقعہ ان کے مصر میں داخلہ کے ۴۳ سال بعد ہوا تو ان کی آمد ۸۱۰ ق م میں ہوئی ہوگی اور اگر ۲۱۰ سال بعد ہوا تو ان کے مصر میں داخلہ کا سنہ ۹۱۰ ق م کو قرار دینا پڑے گا۔ اس کے لیے قومی شہادت موجود ہے کہ خروج کا واقعہ ۱۳۸۱ ق م میں ہوا۔ اس وقت مصر میں اٹھارہویں خاندان کا فرمانروا آمن جو طوف سوم پر سمر اقتدار تھا۔ اس کا دور حکومت ۱۴۱۱ ق م سے ۱۳۸۱ ق م تک ممتد ہے۔ خیال ہے کہ اسی کے زمانہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک قبیلے کو مارنے کے بعد مصر سے نکلے تھے۔ اور مدین تشریف لے گئے تھے کئی سال وہاں قیام فرمانے کے بعد مع اپنی اہلیہ حضرت صفورہ کے لوٹے تو منصب نبوت سے سرفراز ہوئے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے مصر میں واپس آ کر فرعون پر تبلیغ کی اور بنی اسرائیل کے مہر سے نکل جانے کے لیے اجازت چاہی۔ جب وہ کسی طرح تیار نہ ہوا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ۱۳۸۱ ق م میں بنی اسرائیل کو لے کر مہر سے روانہ ہوئے۔ فرعون نے بیچھا کیا اور پھر وہ اس کا لشکر سمندر میں ڈوب گیا۔ اس وقت اس کا لڑکا آمن جو طوف چہارم صرف ۷ سال کا تھا۔ اس لیے ملکہ طائی نگران کی حیثیت سے حکومت کرنے لگی۔ چھ سال بعد ۱۳۷۵ ق م میں آمن جو طوف چہارم نے انتظام اپنے ہاتھ میں لیا اور احتاطوں کے لقب سے ۷ سال تک حکومت کرتا رہا اور آخر کار ۱۳۵۸ ق م میں مر گیا۔ اپنی والدہ ملکہ طائی یا حضرت آسیہ کی تعلیم و تربیت کے سبب وہ مصر کا موحد بادشاہ ہوا جس نے سب دیوتاؤں کی پرستش بند کر کے خدائے واحد کی عبادت کا حکم دیا۔ اسی وجہ سے پروہت اور بیجاری اس کے خلاف ہو گئے۔ لیکن اس نے کسی مخالفت کی پروانہ کی اور آخری وقت تک اپنے مسلک پر قائم رہا۔ واللہ اعلم بالصواب (مترجم)

چھوڑا ہوا ایک بچہ مل جائے۔ اس نکتہ پر قرآن اور بائبل کے بیانات ایک دوسرے کے متناقض نہیں ہیں۔

جو نظریہ یہاں پیش کیا گیا ہے۔ وہ قرآن سے مطلقاً مطابقت رکھتا ہے علاوہ ازیں بائبل کے صرف ایک بیان سے مختلف ہے۔ یہ بیان (جیسا کہ ہم دیکھ چکے ہیں) سلاطین ۱، ۶ I میں ہے (واضح رہے کہ یہ کتاب توریت میں شامل نہیں ہے) یہ عبارت نہایت تنازعہ فیہ ہے اور فادر دے وو عہد نامہ قدیم کے اس حصہ میں شامل ان تاریخی معلومات کو مسترد کر دیتے ہیں جو ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے تعلق سے خروج کے واقعہ کا تعین کرتی ہیں۔ اس حقیقت کی بنا پر کہ یہ نظریہ مشکوک و مشتبہ ہے۔ یہ بات ناممکن ہو جاتی ہے کہ جس نظریہ کا خاکہ یہاں پیش کیا گیا ہے اس کے خلاف اس چیز کو ایک حتمی دلیل بنا کر قائم رکھا جائے۔

مرنفتاح کے دور حکومت کے پانچویں سال سے

تاریخوں کا تعین کرنے والے سنگی کتبوں کا مسئلہ

مرنفتاح کے دور کے پانچویں سال سے تاریخوں کا تعین کرنے والی مشہور سل (پتھر کے وہ تختے جن پر کوئی تحریر کنندہ ہو) کے متن کو دیکھ کر ناقدین خیال کرنے لگے ہیں کہ انھیں اس نظریہ کے خلاف جو یہاں پیش کیا گیا ہے ایک اعتراض مل گیا ہے اس نظریہ میں نبی اسرائیل کا تعاقب اس کے دور حکومت کا آخری کام بتایا گیا ہے۔

یہ تحریر شدہ سل بڑی دلچسپی کی چیز ہے کیونکہ ہیر و نلفی میں صرف یہی ایک معلوم دستاویز ہے جس میں لفظ "اسرائیل" آیا ہے۔ جس کتبہ میں مرنفتاح کے دور کے پہلے حصہ کی تاریخیں درج ہیں وہ تیبہ کے مقام پر فرعونوں کے ماتم کردہ سے دستیاب ہوئی تھی اس میں ان فتوحات کے ایک سلسلہ کا حوالہ ہے جو اس نے ہمسایہ حکومتوں پر حاصل کی تھیں خصوصاً ایک ایسی فتح کا اس دستاویز کے اختتام پر تذکرہ ہے جو ایک پر باد شدہ اسرائیل پر جس کا اب تخم بھی باقی نہیں رہا۔

..... حاصل کی۔ اس واقعہ سے یہ سمجھ لیا گیا ہے کہ اسرائیل کے لفظ کا وجود اس امر پر دلالت کرتا ہے کہ یہودی مرنفتاح کے دور کے پانچویں سال تک کنعان میں آباد ہو چکے تھے۔ اور نتیجتاً مہر

یہ لفظ ایک نسلی شخص کے اظہار کے لیے آیا ہے جس کے بعد اس حقیقت کو تسلیم کرنے میں کوئی شبہ نہیں رہتا کہ یہ اصطلاح ایک "انسانی جماعت یا گروہ" کو ظاہر کرتی ہے۔

سے بنی اسرائیل کا خروج بھی پہلے ہو چکا تھا۔

یہ اعتراض قابل قبول معلوم نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اس تمام عرصہ میں جب یہودی مہر میں آباد تھے اس وقت کنعان میں کوئی یہودی آباد نہیں تھا۔ جو ایک ایسا مفروضہ ہے جس کو ماننا ناممکن ہے۔ لیکن فادر وے و و اس حقیقت کے با وصف کہ وہ اس نظریہ کے حامی ہیں جس سے عیس دوم خروج کے وقت کا فرعون قرار پاتا ہے۔ یہودیوں کے کنعان میں آباد ہونے کے بارے میں حسب ذیل بیان دیتے ہیں جنہیں جنوب میں وہ وقت جب وہ فراتے جن کا تعلق اسرائیلیوں سے قائم کیا جاتا ہے قدیش میں آباد تھے غیر واضح ہے اور خروج سے قبل کے زمانہ کو ظاہر کرتا ہے۔ لہذا وہ اس امکان کو جائز رکھتے ہیں کہ بعض گروہ اس وقت سے پہلے ہی مہر سے نکل گئے تھے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے خروج کیا۔ ایپرو یا ہیر و جن کی مطابقت بعض اوقات اسرائیلیوں سے کی جاتی ہے۔ عیس دوم اور خروج سے بہت پہلے سے شامی فلسطینی علاقہ میں رہ رہے تھے۔ ہمارے پاس دستاویزی ثبوت موجود ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایمنوس دوم ۳۶۰۰ قیدی بیگار میں کام کرنے کے لیے مہر لے کر آیا تھا مزید لوگ سیتی اول کے زمانہ میں کنعان میں موجود تھے جہاں انہوں نے بیت شین کے علاقہ میں گڑ بڑ کی تھی۔ پی مانتے اپنی کتاب مہر اور بائبل (لیزیت اے لاسیل) میں اس بات کی یاد دہانی کرتے ہیں۔ اس لیے یہ امر ممکن ہے کہ مرنفاح ان شورہ پشت عنامر سے جو اسی کی سرحدوں پر گڑ بڑ کر رہے تھے سختی سے نمٹنے پر مجبور ہوا ہو۔ جبکہ اندرونی طور پر وہ لوگ تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے گرد مہر سے فرار ہونے کے لیے مجتمع ہو رہے تھے کتبہ کی رسل کا وجود جس میں مرنفاح کے دور کے پانچویں سال سے تاریخیں دی گئی ہیں کسی طرح بھی موجودہ نظریہ سے انحراف کرتے نہیں دیتا۔

علاوہ ازیں یہ حقیقت کہ لفظ اسرائیل، یہودی قوم کی تاریخ میں استعمال ہوا ہے۔ اس تصور سے کلیتہً غیر متعلق ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے تبعین کنعان میں مقیم تھے۔ اس کا مبداء حسب ذیل ہے :-

۱۵ اپنی کتاب "اسرائیل کی قدیم تاریخ" (استوار آنیان دزائیل) میں - ۱۵ یہ سب باتیں قیاسات کی بنیاد پر کی گئی ہیں۔ ان کے لیے کوئی تاریخی شواہد پیش کئے گئے۔ بجائے اس کے کہ اسرائیل کے چند گروہ خروج سے پہلے مہر سے نکل کر فلسطین میں جا بے ہوں گے اور انہوں نے ہی بنفاح کی ہوگی جس کو مرنفاح نے دیا ہوگا۔ یہ بات کیوں نہ مان لی جائے کہ خروج کا واقعہ ہی مرنفاح سے بہت پہلے ہو چکا ہوگا۔ اور بنی اسرائیل کے کسی سرحدی قبیلہ نے مرنفاح کے زمانہ میں بنفاح کی ہوگی جسکو لستے دیا۔

کتاب پیدائش (۲۹، ۸۲) کے مطابق اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام بن حضرت اسحاق علیہ السلام ونبیرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دوسرا نام ہے۔ بائبل عہد نامہ قدیم کے عالمگیر ترجمہ کے شارحین (تراڈکیاں ایومنگ وے لائبل۔ آنیاس تیتاماں ۱۹۷۵ء) کا خیال ہے کہ اس کے معنی غالباً یہ ہیں کہ "خدا خود کو اپنی قوت و عظمت میں ظاہر کرتا ہے" چونکہ یہ نام ایک فرد واحد کو دیا گیا ہے لہذا یہ امر تعجب خیز نہیں ہے کہ بعد میں ایک ممتاز مورت اعلیٰ کی یاد میں ایک قوم یا لوگوں کی ایک جماعت کو بھی یہ نام دے دیا گیا ہو۔

اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بہت پہلے ہی یہ نام مشہور و معروف تھا۔ زیادہ صحت کو کام میں لایا جائے تو کہا جاسکتا ہے کہ کئی سو سال پہلے اس کی شہرت تھی لہذا یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے کہ مرنفحاح کے دور حکومت کے ایک سنگی کتبہ پر یہ دکھائی دیتا ہے۔ یہ واقعہ کہ اس کا اظہار اُس وقت سے ہوتا ہے قطعاً اُس نظریہ کی حمایت نہیں کرتا جس کے مطابق خروج مرنفحاح کے دور حکومت کے پانچویں سال سے پہلے ہو گیا تھا۔

جو بات اس سے ظاہر ہوتی ہے وہ اس قدر ہے کہ یہ ایک ایسے گروہ کا حوالہ دیتا ہے۔ جس کو یہ اسرائیل کے نام سے موسوم کرتا ہے۔ لیکن مرنفحاح کا سنگی کتبہ کسی سیاسی طور پر مستحکم و متعین جماعت کو ظاہر نہیں کر سکتا کیونکہ یہ کتبہ تیسری صدی قبل مسیح کے اختتام کی تاریخوں سے متعلق ہے۔ اور اسرائیل کی حکومت دسویں صدی قبل مسیح تک قائم نہیں ہوئی تھی۔ لہذا یہ انتہائی واجبی تعداد کی ایک انسانی جماعت کو ظاہر کرتا ہے۔

اس وقت ہمیں علم ہے کہ اسرائیل کے تاریخی میدان میں آنے سے قبل اس کا آٹھ یا نو صدیوں کا ایک طویل تعمیری دور ہے۔ یہ دور بہت سے نیم وحشی قبائل کی آبادی سے عمیر و ممتاز کیا جاسکتا ہے جن میں بالخصوص اموری اور آرامی قبائل تمام علاقہ پر پھیلے ہوئے تھے۔ اسی دور میں پیر کیبر اور بزرگ خاندان حضرات کا اپنے قبائل میں ظہور ہونا شروع ہو گیا تھا جن میں حضرت ابراہیم

سے جب یہ بات مان لی گئی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد بنی اسرائیل کہلاتی۔ اور وہ سب حضرت یوسف علیہ السلام کی وجہ سے اٹھارہویں صدی کے ق۔ م کے شروع میں مصر میں آ بسی تھی تو اس کا کسی بعد کے زمانہ میں فلسطین میں آباد ہونا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ خروج کا واقعہ ہو چکا تھا۔ اسرائیل کا نام (جو سنگی کتبہ پر ہے) جنسی تشخیص کے طور پر ایک قوم کے لیے استعمال ہوا ہے نہ کہ کسی ملک کی تشخیص کے لیے جیسا کہ سنگی کتبہ میں مرقوم دیگر اسماء کا معاملہ ہے۔ یہ بات فاور پی۔ کور و پر، پروفیسر بائیبلیکل اسکول یروشلم نے کتاب الخروج کے ترجمہ پر اپنی تشریح و تفسیر میں تحریر کی ہے۔ مطبوعہ ایڈیشنز ڈوسرف پیرس ۱۹۶۸ء صفحہ ۱۲

حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب معروف بہ اسرائیل علیہم السلام کو شمار کیا جاسکتا ہے۔ آخری بزرگ خاندان کا دوسرا نام ابتدائی قبیلہ کے شخص کے لیے استعمال کیا گیا جو آئندہ زمانہ کی ایک سیاسی انفرادیت کا مرکز و محور بنا اور جو مرنفتاح کے دور حکومت کے بہت بعد میں ظہور پذیر ہوا اس لیے کہ اسرائیل کی حکومت ۹۳۱ یا ۹۳۰ سے ۷۲۱ ق۔م تک رہی۔

خروج کے دوران فرعون کی موت کا ذکر مقدس صحائف میں

یہ واقعہ جو بائبل اور قرآن کے بیانات میں شامل ہے انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ ان متون میں یہ صاف طور پر بیان ہوا ہے۔ بائبل میں اس کا تذکرہ نہ صرف اسفار خمسہ یا توریت میں ہے بلکہ متاجاتوں میں بھی ہے۔ چنانچہ اس کے حوالجات پیش کئے جا چکے ہیں۔ یہ بات نہایت عجیب و غریب ہے کہ عیسائی شارحین نے اس کو کلی طور پر نظر انداز کر دیا ہے چنانچہ فادر وے و ویہ نظریہ پیش کرتے ہیں کہ مہر سے خروج کا واقعہ ۱۲۵۰ ق۔م کے عہد حکومت کے پہلے نصف یا وسط میں رونما ہوا۔ ان کے نظریہ کے مطابق اس حقیقت کو قطعاً ملحوظ نہیں رکھا گیا ہے کہ خروج کے دوران فرعون کی موت واقع ہو گئی تھی۔ حالانکہ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس سے ہر نظریہ کے بموجب یہ واقعہ ایک دور حکومت کے اختتام پر ہونا چاہیے اپنی کتاب "اسرائیل کی قدیم تاریخ" (استوار انسیان در اسرائیل) میں بائبلیکل اسکول یروشلم کے صدر اس تضاد و تناقض سے قطعاً کوئی پریشانی محسوس کرتے دکھائی نہیں دیتے جو ان کے اپنے قائم کردہ نظریہ اور بائبل کی دو کتابوں یعنی توریت اور مناجات میں شامل معلومات کے درمیان رونما ہو رہا ہے۔

پی۔ نانتے اپنی کتاب "مہر اور بائبل" (لاٹریٹ اے لابیبل) میں خروج کے واقعہ کو مرنفتاح کے دور حکومت میں بتاتے ہیں لیکن فرعون کی موت کا کوئی ذکر نہیں کرتے جو فرار ہونے والی عبرانی قوم کا تعاقب کرتے والی فوج کا سرغنہ تھا۔

یہ انتہائی حیرت نغیز طرز عمل یہودیوں کے نظریہ سے متناقض ہے: مناجات ۱۳۶ - آیت میں خداوند کا شکر ادا کیا گیا ہے جس نے "فرعون اور اس کے لشکر کو سینٹھے کے سمندر میں

۱۵ مصنف موصوف نے تمام تاریخوں کو گھٹا کر رکھا ہے۔ چنانچہ وہ اسرائیل کی حکومت کی ابتداء ۹۳۱ یا ۹۳۰ ق۔م سے بتاتے ہیں۔ حالانکہ حضرت داؤد ہی کا زمانہ ۱۰۱۳ ق۔م سے ۹۷۳ ق۔م تک قرار دیا جاتا ہے ان سے پہلے ساؤل کا دور

حکومت ۱۰۲۵ ق۔م سے شروع ہوا تھا۔ اس لیے اسرائیل کی حکومت کا آغاز اسی آخری ستہ کو قرار دینا چاہیے۔

عزق کر دیا اور یہ آیت اکثر ان کی عبادت کے دوران پڑھی جاتی ہے۔ وہ اس آیت اور خروج (۲۸، ۲۹) کی عبارت کے درمیان مطابقت کو جانتے ہیں۔

”اور پانی پلٹ کر آیا اور اس نے رتھوں اور سواروں اور فرعون کے سارے لشکر کو جو اسرائیلیوں کا پیچھا کرتا ہوا سمندر میں گیا تھا عزق کر دیا اور ایک بھون میں سے باقی نہ چھوٹا۔“

ان کے لیے اس بات میں شبہ کا قطعاً کوئی پر تو نہیں ہے کہ فرعون اور اس کی فوج کے دستے سب صاف ہو گئے تھے ”یہی متون عیسائیوں کی بائبلوں میں بھی موجود ہے۔ عیسائی شارحین بالکل دیدہ و دانستہ طور پر اور تمام شہادت کے برخلاف فرعون کی موت کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ لیکن اس سے بھی زیادہ جو بات ہے وہ یہ کہ ان میں سے بعض حضرات اس حوالہ کا جو قرآن میں اس کے متعلق دیا گیا ہے ذکر کرتے ہیں اور اپنے قارئین کی اس معاملہ میں ہمت افزائی کرتے ہیں کہ وہ عجیب طریقہ پر مقابلہ کریں۔ بائبل کے ترجمہ میں جو بائبلک اسکول۔ یروشلم کے ایما سے کیا گیا ہمیں فرعون پر فادر کو رویر کی حسب ذیل تشریح ملتی ہے۔

”قرآن اس چیز (فرعون کی موت) کا ذکر کرتا ہے (سورۃ ۱۰، آیات ۹۰-۹۲) اور عام روایت یہ ہے کہ جو فرعون اپنے لشکر کے ساتھ ڈوب گیا تھا یہ ایک ایسا واقعہ ہے جو مقدس صحیفہ میں مذکور نہیں ہے (وہ سمندر کے نیچے رہتا ہے اور سمندری مخلوق یعنی سیل مچھلیوں کے اوپر حکومت کرتا ہے۔

یہ بات بالکل واضح ہے کہ جس قاری کو قرآن کی کوئی واقفیت نہیں ہے وہ اس کے ایک بیان کے درمیان تعلق پیدا کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے جو شارح کے لفظ نظر سے بائبل کے متن اور اس بیہودہ داستان کی تنقیض کرتا ہے جو ایک ایسی نام تہاد مشہور روایت سے آئی ہے جس کا قرآن کے حوالہ کے بعد تشریح کے اندر مذکور ہے۔

اس موضوع پر قرآن کے اندر جو بیان دیا گیا ہے اس کا اس بیان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے جو شارح صاحب تجویز کر رہے ہیں۔ سورۃ ۱۰ کی آیات ۹۰ تا ۹۲ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بنی اسرائیل نے سمندر کو پار کر لیا اور اس کے لشکر ان کا تعاقب کر رہے تھے اس وقت جب فرعون عزق ہونے کو ہوا تو وہ چلا یا۔

۱۵ یگزوڈ (ایگزوڈس یعنی خروج) ۱۹۶۸ء صفحہ ۷۳ شائع کردہ لے ایڈیسیوں دوسرف۔ باری (پیرس)

۱۶ اس امر میں کوئی شبہ نہیں کہ یہ شارح بائبل کا حوالہ دے رہا ہے۔

قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنْتُ بِهِ
بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿١٠﴾

میں اس بات پر ایمان لایا کہ خداوند حقیقی اس کے
سوا کوئی نہیں جس پر نبی اسرائیل ایمان
لائے اور میں بھی میرا طاعت جھکا دینے
والوں میں سے ہوں۔

خداوند کریم نے جواب دیا۔

أَلَمْ نَكُنْ وَوَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ﴿١١﴾
فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً
وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَفْلُونَ ﴿١٢﴾

یونس ۱۰

اب ایمان لاتا ہے حالانکہ اس سے پہلے
تک تو نافرمانی کرتا رہا اور فساد کرنے والوں
میں سے تھا۔ اب تو ہم صرف تیری لاش ہی
کو بچائیں گے تاکہ تو بعد کی نسلوں کے لیے
نشان عبرت بنے اگرچہ بہت سے انسان ایسے
ہیں جو ہماری نشانیوں سے غفلت برتتے ہیں۔

یہ وہ کل بیان ہے جو فرعون کی موت کے بارے میں قرآن میں دیا گیا ہے۔ اس تو ہم
کا کوئی سوال نہ اس جگہ ہے اور نہ کہیں اور جو بائبل کے شارح صاحب نے درج فرمایا
ہے۔ قرآن کے متن میں صاف طور پر محض اس قدر بیان کیا گیا ہے کہ فرعون کا جسم بچا لیا
جائے گا اور یہ اس اطلاع کا اہم جز ہے۔

جب نبی کریم (صلی اللہ علیہ وسلم) نے قرآن کو لوگوں تک پہنچایا اس وقت ان تمام
فرعونوں کے جن کا آج تعلق (صحیح یا غلط) خروج سے بتایا جاتا ہے وہ تیسہ کے گورستان
میں اپنے اپنے مقبروں میں تھے جو القصر کے لحاظ سے دریائے نیل کے دوسری طرف واقع ہے۔
لہذا اس وقت اس حقیقت کا مطلقاً کسی کو کوئی علم نہیں تھا۔ اور کہیں انیسویں صدی کے اختتام
پر جا کر وہ دریافت ہوئے۔ جیسا کہ قرآن میں بیان ہوا ہے۔ حقیقتاً خروج کے فرعون کی خواہ
وہ کوئی بھی تھا لاش بچالی گئی۔ سیاح اس کو مصری عجائب گھر قاہرہ کے شاہی مہی خانہ میں ملاحظہ
کر سکتے ہیں۔ لہذا حقیقت اس مضحک و مہمل داستان سے بالکل مختلف ہے جو قادر
کوہ نے قرآن سے منسوب کی ہے۔

۵۔ فرعون مرنفحاح کی مہی

مرنفحاح کا جوڑس دوم کا بیٹا اور خروج کے زمانہ کا فرعون تھا۔ جملہ شواہد

اس کی حمایت میں ہیں۔ مومی شدہ جسم ۱۸۹۸ء میں تبسیہ کے مقام پر شاہوں کی واوی میں اوریت نے دریافت کی تھی۔ وہاں سے اس کو قاہرہ منتقل کر دیا گیا۔ ایلٹ اسمتھ نے ۸ جولائی ۱۹۰۷ء کو اس کے جسم سے علاقوں کو اتارا۔ اس نے اس عمل کا تفصیلی تذکرہ اور جسم کے جائزہ کا حال اپنی کتاب 'شاہی میاں' (۱۹۱۲ء) میں درج کیا ہے۔ اس وقت یہ مومی محفوظ رکھنے کے لیے تسلی بخش حالت میں تھی باوجودیکہ اس کے کئی حصے شکستہ ہو گئے تھے۔ اس وقت سے یہ مومی قاہرہ کے عجائب گھر میں سیاحوں کے لیے سچی ہوئی ہے اس کا سر اور گردن کھلے ہوئے ہیں اور باقی جسم کو ایک کپڑے میں چھپا رکھا ہے۔ حقیقتاً اس کو اس خوبی سے چھپایا گیا ہے کہ اب سے بہت کم عرصہ پہلے تک مومی کے عام فوٹو گراف جو عجائب گھر میں تھے وہ وہی تھے جو ۱۹۱۲ء میں اسی اسمتھ نے لیے تھے۔

جون ۱۹۷۶ء میں مصر کے مقتدر حضرات نے بڑی مہربانی سے مجھے فرعون کے جسم کے ان حصوں کا جائزہ لینے کی اجازت دے دی جو اس وقت تک ڈھکے ہوئے تھے انہوں نے مجھے فوٹو لینے کی بھی اجازت مرحمت فرمائی۔ جب مومی کی موجودہ حالت کا موازنہ اس کیفیت سے کیا گیا جو ساٹھ سال سے زیادہ عرصہ پہلے تھی تو یہ بات بڑی حد تک واضح ہو گئی کہ وہ بہت بوسیدہ ہو چکی تھی اور اس کے کچھ حصے غائب ہو چکے تھے۔ مومی شدہ لسیجیں بڑی بُری طرح سے متاثر ہوئی تھیں۔ یہ کیفیت بعض جگہ انسان کے ہاتھوں ہوئی تھی اور دوسری جگہ امتداد زمانہ سے۔

اس قدر تخیستگی کی جو اس کی دریافت بعد انیسویں صدی کے اختتام سے اس میں ہوئی وضاحت اس کے محفوظ رکھنے کی حالتوں کی تبدیلیوں کی روشنی میں کی جاسکتی ہے۔ اس کی دریافت تبسیہ کے گورستان کے مقبرہ میں ہوئی تھی جہاں یہ مومی تین ہزار سال سے زیادہ مدت سے رکھی ہوئی تھی۔ اس وقت یہ مومی ایک سادہ سے ٹیشے کے کیس میں سچی ہوئی ہے جس میں باہر کے اثرات سے محفوظ ہوا ستم ماحول نہیں پیدا کیا گیا تھا نہ ہی ننھے ننھے جانداروں کی آلودگی سے اس کی کوئی حفاظت کی گئی تھی۔ مومی درجہ حرارت کے اتار چڑھاؤ اور موسمی اعتبار سے ہوا کی نمی میں تبدیلی کی زد میں بھی رہی عرض یہ ان حالات سے بہت دور رہی جنہوں نے تقریباً تین ہزار سال تک اس کو کسی نوع کی فرسودگی سے محفوظ رکھا۔ اس کے لیے وہ حفاظت بھی نہ رہی جو علاقوں میں لپٹے ہونے کی بنا پر تھی۔ نہ مقبرہ کے بند ماحول میں رہنے کا فائدہ، نہ جہاں کا درجہ حرارت زیادہ یکساں تھا اور جہاں سال کے بعض حصوں میں قاہرہ کے مقابلہ میں نمی کم

رہتی تھی۔ بیشک جب یہ مہمی گورستان میں تھی اس وقت اس کو لیٹروں کا (غالباً بہت ہی ابتدائی زمانہ سے) خطرہ تھا۔ نیز کترنے والے جانوروں کا بھی سامنا تھا اور ان چیزوں نے اس کو کچھ نقصان پہنچایا بھی اس کے باوجود (ایسا معلوم ہوتا ہے کہ) آجکل کی یہ نسبت زمانہ کے سرد و گرم کا مقابلہ کرنے کے لیے حالات کہیں زیادہ سازگار تھے۔

میرے مشورہ سے اس مہمی کی جون ۱۹۴۵ء میں جاپنچ پڑتال کے دوران خصوصی تحقیقات عمل میں لائی گئیں۔ ایک اعلیٰ درجہ کی شعاعی مصوری کے ذریعہ ڈاکٹر ایل میلچی اور اس نے مطالعہ کیا اور ڈاکٹر مصطفیٰ سنیا لوی نے ہڈی حیداء کے ایک رخنہ سے سینہ کے اندرونی حصہ کا جائزہ لیا۔ علاوہ ازیں جو ف شکم پر تحقیقات کی گئی۔ اندرونی جائزہ کی یہ پہلی مثال تھی کہ معلوم کر سکے اور ان کی تصویر لے سکے۔ پروفیسر سیکال دی نے ایک عمومی نوعیت کا طبی قانونی مطالعہ کیا جو ان چند ننھے ننھے اجزاء کے خوردبینی مشاہدہ کے بعد مکمل ہو گا جو مہمی کے جسم سے خود بخود جدا ہو گئے ہیں۔ یہ مشاہدہ پروفیسر مگنو اور ڈاکٹر دوریگون کریں گے۔ لیکن مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس کتاب کے طبع ہونے کے وقت تک منہم طور پر اتکشافات و اطلاعات نہیں ہو سکتے۔

اس مشاہدہ سے جو کچھ پہلے ہی اخذ کیا جا سکتا ہے وہ چوڑے چوڑے رخنوں کے ساتھ ہڈیوں کے متعدد صدموں کی دریافت ہے جس میں سے بعض مہلک ثابت ہوئے ہوں گے۔ حالانکہ ابھی تک اس بات کا پتہ چلانا ناممکن نہیں ہے کہ ان میں سے بعض فرعون کی موت کے پہلے ہوئے یا بعد میں۔ غالب گمان ہے کہ اس کی موت یا تو ڈوبنے سے ہوئی جیسا کہ صحیفہ کے بیانات سے پتہ چلتا ہے یا ڈوبنے سے قبل کے سخت صدموں سے یا بیک وقت دونوں سے۔

ان صدمات کے اس فرسودگی کے ساتھ تعلق نے جس کے ماخذات کا اوپر حوالہ دیا جا چکا ہے فرعون کی مہمی کے صحیح طور پر محفوظ رکھنے کو ایک مسئلہ بنا دیا ہے جب تک کہ بہت جلد حفاظتی اور صحت بخش ذرائع اختیار نہ کیے جائیں۔ ان ذرائع سے یہ یقین دہانی ہوتی چاہیے کہ خروج کے زمانہ کے فرعون کی موت اور خدا کی مرضی کے مطابق اس کے جسم کے پچنے کی واضح شہادت امتداد زمانہ کے ساتھ ختم نہیں ہو جاتی۔

ہمیشہ سے انسان کا دلپستہ مشغلہ رہا ہے کہ وہ اپنی تاریخ کے آثار کو باقی رکھے۔ لیکن

۱۵ اپریل فرانسس اشاعت۔ نومبر ۱۹۴۵ء

یہاں ہمارے لیے ایک ایسی بات پیدا ہو گئی ہے جو اس سے بھی کچھ بڑھی ہوئی ہے یہ اس شخص کے مہی شدہ جسم کی مادی طور پر موجودگی ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے واقفیت رکھتا تھا جس نے ان کے دلائل کو روک دیا، جو اس وقت جیب انھوں نے خروج کیا ان کے تعاقب میں گیا اور جس نے اسی عمل میں اپنی جان سے ہاتھ دھوئے۔ اس کا دنیاوی وجود خدا کی مرضی سے تباہ ہونے سے بچا یا گیا تاکہ وہ لوگوں کے لیے نشان عبرت بنے جیسا کہ قرآن کریم میں تحریر ہے۔

جو لوگ صحف مقدس کی صداقت کے لیے جدید معلومات میں ثبوت تلاش کرتے ہیں وہ مصری عجائب گھر، قاہرہ کے شاہی مہی خانہ کا معائنہ کر کے فرعون کے جسم سے متعلق آیات قرآنی کی ایک شاندار مثال کا مشاہدہ کر سکتے ہیں۔



۱۹۶۵ء میں دوم کی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ کا ایک دوسرا شاہد ہے مہی اس قسم کے مطالعہ کا ایک موضوع رہی ہے جس قسم کا مطالعہ منقح کی مہی کا کیا گیا ہے اسی نوع کا تجدیدی کام اس کے لیے بھی درکار ہے۔
مترجم کے حواشی :-

اس طبی مطالعہ کے جو قاہرہ میں ۱۹۶۵ء میں کیا گیا تھا تاج مصنف نے کئی فرانسیسی علمی انجمنوں کے سامنے ۱۹۶۶ء کے ابتدائی حصہ کے دوران پڑھے جنہیں "اکادمی ناسیونال دے میدے سین (قومی طبی اکیڈمی) بھی تھی۔ ان نتائج کا علم جیب مصری عہدہ داروں کو ہوا تو انھوں نے ۱۹۶۶ء میں دوم کی مہی کو فرانس منتقل کرنے کا فیصلہ کیا۔ پینانچہ ۲۶ ستمبر ۱۹۶۶ء کو یہ مہی اس عمل کے لیے پیرس پہنچی۔

قرآن، حدیث اور جدید سائنس



اسلام میں ضوابط و قوانین کا واحد ذریعہ قرآن ہی نہیں ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے دوران اور آپ کی رحلت کے بعد قانون شریعت کی نوعیت کی زائد معلومات فی الحقیقت نہیں تھیں۔

اگرچہ روایت حدیث کے لیے تحریر کے ذریعہ کو بالکل ابتداء سے اختیار کیا گیا۔ مین اس کا بہت سا حصہ زبانی روایت سے حاصل ہوا۔ جن حضرات نے ان کو جمع کرنے کا کام کیا۔ انہوں نے ایسی تحقیقات کیں جو ماضی کے واقعات کا تذکرہ مرتب کرنے سے پہلے نہایت مشقت طلب ہوتی ہیں۔ اس کے باوجود انہوں نے معلومات کی فراہمی کے کٹھن کام میں صحت کا بڑا خیال رکھا۔ یہ بات اس حقیقت سے واضح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جملہ احادیث کے لیے انتہائی مستند و مقدس مجموعوں میں ہمیشہ ان حضرات کے نام شامل ہوتے ہیں جو ان احادیث کو روایت کرنے کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ یہ نام پیچھے کی طرف اس شخص تک پہنچ جاتے ہیں جس نے سب سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار یا اصحاب کرام سے یہ معلومات حاصل کی تھیں۔

اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال ایک بہت بڑا ذخیرہ حدیث کے عنوان کے تحت حاصل ہوا۔ اس لفظ کے اصلی معنی "الفاظ میں اطہار یا تقاریر" کے ہیں لیکن دستور کے مطابق افعال کے تذکرے کے لیے بھی اس لفظ کو استعمال کیا جاتا ہے۔

بعض مجموعے ان وہ سالوں میں ہی منظر عام پر لے آئے گئے تھے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد تھے۔ لیکن دو سو سال سے زیادہ عرصہ گزرنے کے بعد نہایت اہم مجموعے ظہور پذیر ہوئے۔ واقعات کا سب سے زیادہ مستند تذکرہ البخاری اور مسلم کے مجموعوں میں ہے جن کا زمانہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دو سو سال سے زیادہ عرصہ بعد کا ہے اور جن میں زیادہ قابل اعتماد مواد پیش کیا گیا ہے۔ چند سال پہلے ایک دو لسانی عربی / انگریزی ایڈیشن اسلامی یونیورسٹی مدنیہ کے ڈاکٹر محمد حسن خاں نے مرتب کیا ہے۔ البخاری کو عام طور پر قرآن کے بعد سب سے مستند کتاب سمجھا جاتا ہے۔ اس کو فرانسس میں ۱۹۰۸ء تا ۱۹۱۲ء میں پڑا اور مرکاس نے

نے تراویسیوں اسلامیک (اسلامی روایات) کے عنوان سے ترجمہ کیا تھا۔ لہذا جو لوگ عربی زبان نہیں یوں سکتے حدیثیں ان کی بھی دسترس میں ہیں۔ تاہم بعض ان ترجموں کے معاملہ میں محتاط رہنے کی ضرورت ہے جو یورپی لوگوں نے کیے ہیں۔ ان میں فرانسیسی ترجمے بھی شامل ہیں۔ ان میں غیر صحیح باتیں اور غلط بیابانیاں شامل ہیں جو اکثر حقیقی ترجمہ کی جگہ تشریحات ہیں۔ بعض اوقات ان میں حدیث کا صحیح مفہوم بڑی حد تک بدل دیا گیا ہے اور حقیقتہً اس حد تک بدلا گیا ہے کہ جو مفہوم اس کا کسی طرح بھی نہیں ہو سکتا وہ بیان کر دیا گیا ہے۔

جہاں تک کہ ان کے ماخذ کا تعلق ہے بعض احادیث و مواظپیں ایک بات مشترک ہے۔ کہ ان کو کسی ایسے مصنف نے مرتب نہیں کیا جو اپنے بیان کردہ واقعات کا عینی گواہ ہو۔ نہ ہی وہ اس وقت تک ضبط تحریر میں آئیں جب تک کہ ان واقعات کو ظہور میں آئے کچھ عرصہ نہیں گزرا تھا۔ اتنا جیل کی طرح احادیث بھی سب کی سب مستند نہیں سمجھی جاتیں۔ ان میں سے تھوڑی تعداد ایسی ہے جن کو اسلامی روایت کے ماہرین متفقہ طور پر تسلیم کرتے ہوں۔ چنانچہ سوائے موطاء، صحیح مسلم اور صحیح بخاری کے ایک ہی کتاب میں ایسی حدیثوں کے ساتھ ساتھ جن کو مستند سمجھا جاتا ہے ایسی حدیثیں بھی ہیں جو مشکوک و مشتبہ ہیں اور ایسی بھی ہیں جن کو کلیتہً مسترد کر دینا چاہیے۔

تسلیم شدہ اتنا جیل کے برخلاف جن پر بعض جدید دور کے فضلا اعتراض کرتے ہیں۔ لیکن جو عیسائیوں کے مقتدر حضرات میں کبھی مایہ النزاع نہیں رہیں، وہ حدیثیں بھی جو انتہا درجے کی مستند سمجھی جاتی ہیں نقد و تبصرہ کا موضوع رہی ہیں۔ تاریخ اسلام کے بالکل ابتدائی دور میں اسلامی ذہن رکھنے والے حضرات نے حدیثوں کا تہایت گہری نظر سے جائزہ لیا۔ حالانکہ بنیادی کتاب (قرآن کریم) ہمیشہ حوالے کی کتاب سمجھی جاتی رہی اور اس پر کبھی کوئی اعتراض نہیں کیا گیا۔

میں اس چیز کو دلچسپی کا ایک موضوع سمجھتا ہوں کہ حدیث کے ادب کا یہ معلوم کرنے کے لیے جائزہ لوں کہ کس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وحی سے ہٹ کر ان موضوعات پر گفتگو کرتے تھے جن کی توضیح و تشریح سائنسی ترقی کے مطابق آئندہ صدیوں میں کی جاتی تھی۔ اگر صحیح مسلم بھی ایک مستند مجموعہ ہے لیکن اس مطالعہ کے لیے میں نے خود کو ان احادیث کے متن تک محدود رکھا ہے جو عموماً سب سے زیادہ مستند سمجھی جاتی ہیں یعنی البخاری کی احادیث میں ہمیشہ اس حقیقت کو ذہن میں رکھنے کی کوشش کی ہے کہ ان متون کو جن لوگوں نے مرتب کیا ہے ان کی ترتیب اس معلومات کے مطابق تھی جس میں روایت جزوی طور پر زبانی تھی اور یہ کہ انھوں نے بعض حقائق کو

زیادہ یا کم درجہ میں صحت کے ساتھ بیان کیا ہے اور ان انفرادی غلطیوں پر مہر و سہ کیا ہے جو ان لوگوں سے سرزد ہوئیں جنہوں نے ان روایتوں کو منتقل کیا تھا۔ یہ متون ان دوسری احادیث سے مختلف ہیں جو کثیر تعداد میں لوگوں نے روایت کیں اور جو مسلمہ طور پر مستند ہیں یہ

میں نے ان معلومات کا جو ان احادیث کے جائزہ کے دوران حاصل ہوئیں ان معلومات سے مقابلہ کیا ہے جو قرآن اور جدید سائنس کے حصہ میں پہلے ہی پیش کی جا چکی ہیں۔ اس مقابلہ کے نتائج آپ اپنے نشا ہد میں حقیقتاً جدید سائنسی معلومات سے مقابلہ کرتے وقت قرآن میں شامل معلومات میں جو صحت دکھائی دیتی ہے اور ان موضوعات پر جو بنیادی طور پر سائنسی رنگ میں رنگے ہوئے ہیں احادیث میں انتہائی قابل اعتراض توہمیت کے جو بیانات دیئے ہوئے ہیں دونوں میں فرق تہایت حیران کن اور شش و پنج میں مبتلا کرنے والے ہیں صرف ایسی ہی حدیثیں ہیں جن سے اس مطالعہ میں بحث کی گئی ہے۔

جو حدیثیں اپنے موضوع کے لحاظ سے قرآن کی بعض آیات کی توضیح و تفسیر ہیں وہ بعض اوقات ایسی تاویلات کی جانب لے جاتی ہیں جو اس وقت مشکل سے قابل قبول ہیں۔

ہم نے ایک آیت کی انتہائی اہمیت کا پہلے ہی جائزہ لیا ہے (سورہ ۱۸۸، آیت ۸۶) جس میں سورج کے متعلق کہا گیا ہے کہ والشمس تجری لمستقلها (اور سورج وہ اپنے ٹھکانے کی طرف چلا جا رہا ہے) اس کی تشریح ایک حدیث میں اس طرح کی گئی ہے ”عروب آفتاب پر سورج عرش کے نیچے سجدہ ریز ہوتا ہے اور دوبارہ طلوع ہونے کی اجازت چاہتا ہے۔ اجازت مل جاتی ہے اور پھر (ایک وقت ایسا آئے گا جب) وہ سجدہ ریز ہونے کے قریب ہوگا۔۔۔۔۔ وہ اپنے سفر کو جاری رکھنے کی اجازت چاہے گا۔۔۔۔۔ اسی کو حکم ہو گا کہ پھر اسی جگہ لوٹ جاؤ جہاں سے آئے ہو۔ چنانچہ وہ مغرب میں طلوع ہوگا۔۔۔۔۔“ (صحیح البخاری)۔ ابتدائی متن (کتاب آفرینش جلد چہارم صفحہ ۲۸۸، جز ۵۴ باب چہارم شمار ۲۲۱) مبہم اور ناقابل ترجمہ ہے۔ اس کے باوجود اس عبارت میں ایک تمثیل ہے جو سورج کے اس دور کے تصور کو پیش کرتی ہے جس میں سورج زمین کے اختیار سے حرکت کرتا ہے سائنس اس چیز کے برعکس تصور پیش کرتی ہے اس حدیث کا استناد مشتبه (ظنی) ہے۔

اسی کتاب کی ایک دوسری عبارت (کتاب آفرینش جلد چہارم صفحہ ۲۸۸، جز ۵۴ باب ششم - شمار ۲۳۰) میں وقت کے لحاظ سے بڑے عجیب طریقہ پر جنین کے ارتقاء کے ابتدائی

۱۰ مسلم ماہرین پہلی قسم کو لفظ ”ظنی“ سے تعبیر کرتے ہیں اور دوسری کو لفظ ”قوی“ سے۔

مدارج کا حساب پیش کیا گیا ہے ان عناصر کے جو وجود بشری کی تشکیل کرتے ہیں باہم ملتے میں چالیس دن کی مدت صرف ہوتی ہے۔ مزید چالیس دن اس بات میں لگتے ہیں جب جنین اس پیریز میں تبدیل ہوتا ہے جو ایک مھٹکی کی شکل میں ہوتی ہے اور تیسرے چالیس دن کی مدت وہ ہوتی ہے جب جنین کو بتدھی یوٹی سے تعبیر کیا جاتا ہے پھر یہ فرشتے یہ تعین کرنے کے لیے دخل انداز ہو جاتے ہیں کہ اس فرد کا مستقبل کیا ہوگا اس وقت اس میں روح پھونکی جاتی ہے۔ جنینی ارتقاء کا یہ بیان جدید معلومات سے مطابقت نہیں رکھتا۔

جبکہ قرآن فن طب پر قطعاً کوئی عمل مشورہ سوائے ایک اشارہ (سورہ ۱۱۶، آیت ۷۹) کے نہیں دیتا جس میں شہد کو معالجاتی امداد کے امکان کے طور پر بیان کیا گیا ہے (بغیر اس اشارہ کے کہ یہ کونسی بیماری کا علاج ہے) حدیث اس موضوع پر نہایت تفصیلی بحث کرتی ہے البخاری کے مجموعہ کا ایک پورا جز (جز ۷۶) ادویہ سے متعلق ہے۔ فرانسسی ترجمہ میں جو ہو اس اور مرکائیس نے کیا ہے یہ موضوع جلد ۴ کے صفحہ ۶۲ سے صفحہ ۹۱ تک چلایا گیا ہے۔ اور ڈاکٹر محمد حسن خاں کے دو لسانی عربی رانگریزی ایڈیشن میں جلد سات کے صفحہ ۳۹۵ سے صفحہ ۴۵۲ تک ہے۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ ان صفحات میں کچھ ایسی حدیثیں شامل ہیں جو قیاسی (ظنی) ہیں۔ لیکن بحیثیت مجموعی وہ اس لحاظ سے دلچسپ ہیں کہ ان میں مختلف طبی مضامین پر جن کے متعلق اس وقت بحث کرنا ممکن تھا آراء کا ایک خاکہ پیش کیا گیا ہے۔ ان میں کئی اور حدیثیں جو البخاری کے دوسرے اجزاء میں شامل کی گئی ہیں اور طبی رنگ اختیار کیے ہوئے ہیں ملائی جاسکتی ہیں۔

اس طرح ہمیں ان میں ایسے بیانات بھی ملتے ہیں جن میں نظر بد کے اثرات، جادو، سحر اور جھاڑ پھونک کے اثرات بتائے گئے ہیں۔ اگرچہ پیسے لے کر قرآن کو اس کام کے لیے استعمال کرنے پر پابندی عائد کی گئی ہے۔ ایک حدیث ایسی ہے جس میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ بعض تارخیں ایسی ہوتی ہیں جو جادو کے اثرات کے خلاف بطور حفاظت کے کام میں لائی جاسکتی ہیں۔ اور جادو منتر کو زہریلے سانپ کے کاٹے کے خلاف استعمال کیا جاسکتا ہے۔ لیکن ہمیں یہ بات جان کر تعجب نہ کرنا چاہیے کہ ایسے زمانہ میں جب ادویہ کے سائنسی استعمال کے امکانات بہت محدود تھے۔ لوگوں کو معمولی ترکیبوں پر بھروسہ کرنے کا مشورہ دیا جاتا تھا۔ قدرتی معالجات جیسے خون نکالنا، پچھنے لگوانا، گرم لوہے داغنا، جوؤں سے بچنے کے لیے سر منڈانا، اونٹ کے دودھ، بعض بیجوں مثلاً سیاہ زیرہ اور ہندی قسط (ہندی کٹ) جیسے

پلو دوں کا استعمال کرنا بتایا جاتا تھا۔ یہ مشورہ بھی دیا جاتا تھا کہ خون کو روکنے کے لیے کھجور کی پتیوں سے بنی ہوئی چٹائی کو جلا کر زخم میں اُس کی راکھ بھر دی جائے۔ ضرورت کے وقت تمام قابل حصول ذرائع جو واقعی مفید ہو سکتے تھے کام میں لائے جاتے تھے۔ لیکن لوگوں کو اونٹ کا پیشاب پینے کا مشورہ دینا بیاہری طور پر کوئی زیادہ اچھا خیال نہیں ہے۔

اس وقت اُن موضوعات سے متعلق جو بعض بیماریوں کے بارے میں ہیں۔ تاویلات و تشریحات پیش کرتا مشکل ہے۔ اُن میں سے مندرجہ ذیل کا ذکر کیا جاتا ہے۔

_____ بخار کے اسباب:۔ اس واقعہ کی شہادت کے طور پر چار بیانات ہیں بخار دوزخ کی گرمی سے ہوتا ہے، (البخاری کتاب الدوا۔ جلد ہفتم باب ۲۸ صفحہ ۴۱۶)

_____ ہر بیماری کے لیے ایک دوا ہے "خدا نے کوئی ایسی بیماری نہیں پیدا کی جس کا اُس نے علاج نہ پیدا کیا ہو" (ایضاً باب اول صفحہ ۸۹۶) اس تصور کو حدیث ذباب (مکھی کی حدیث) سے واضح کیا گیا ہے "اگر تم میں سے کسی شخص کے برتن میں مکھی گر جائے تو اُس پوری مکھی کو اُس برتن میں ڈلو وادو پھر اس کو پھینک دو کیونکہ اُس کے ایک پر میں بیماری ہے اور دوسرے میں شفا ہے (اُس کا تریاق) یعنی اُس بیماری کا علاج (ایضاً ابواب ۱۵-۱۶، صفحات ۴۵۲-۴۵۳ نیز کتاب آفرینش جزء ۴، ابواب ۱۵ اور ۱۶)

_____ سانپ کو دیکھنے سے اسقاط حمل (جس سے اندھا بھی ہو سکتا ہے) یہ بات کتاب فریش جلد چہارم (باب ۱۳ اور ۱۴، صفحات ۸۸ تا ۸۸) میں مذکور ہے۔

_____ ایام کے دوران سیلان خون۔ کتاب الحیض (ایام حیض) جلد چہارم، جزء ۶ صفحات ۲۹۰ اور ۲۹۵ پر ایام کے دوران سیلان خون کے سبب پر دو حدیثیں دی گئی ہیں (ابواب ۲۱ اور ۲۸) اُن میں دو عورتوں کا حوالہ دیا گیا ہے۔ پہلی عورت کے سلسلہ میں علامات کا دیگر تفصیلی بیان ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ سیلان خون، خون کی ایک تالی سے ہوتا ہے۔ دوسری میں بتایا گیا ہے کہ کسی عورت کو سات سال تک ایام کے دوران سیلان خون ہوتا رہا اور اس کا سبب بھی وہی تالی سے خون کا اتراج بتایا گیا ہے۔ مذکورہ بالا کے اصل اسباب کے لیے مفروضے قائم کیے جا سکتے تھے۔ تاہم یہ بات بالکل صحیح ہو سکتی ہے۔

_____ یہ بیان کہ بیماریاں متعدی نہیں ہوتیں۔ البخاری کے مجموعہ حدیث میں کئی جگہ (ابواب ۲۵، ۳۰، ۳۱، ۵۳، ۵۴، جلد چہارم جزء ۶ کتاب الدوا) بعض مخصوص حالتوں کا ذکر

۱۵ کہاؤ کہ جہاں میں نہیں کوئی ایسا کہ جس کی دوا حق نے کی ہو نہ پیدا (مدرس حالی)

ہے مثلاً جدام (صفحہ ۴۰۸) طاعون (صفحات ۴۱۸ اور ۴۲۲) خارش (صفحہ ۴۲۷) اور عمومی بیانات بھی پیش کیے گئے ہیں لیکن موخر الذکر نہایت نمایاں متضاد بیانات کے پہلو پہ پہلو رکھے گئے ہیں۔ مثلاً یہ مشورہ دیا گیا ہے کہ ان علاقوں میں نہ جاؤ جہاں طاعون پھیلا ہوا ہو اور جزامی شخص سے دور رہو۔

لہذا یہ نتیجہ نکالنا ممکن ہے کہ بعض حدیثیں ایسی موجود ہیں جو سائنسی اعتبار سے ناقابل قبول ہیں۔ ان کے مستند ہونے میں شبہ ہے۔ ان کا حوالہ دینے کا مقصد صرف اس مقابلہ کی وجہ سے ہے کہ وہ قرآن مجید کی ان آیات کے ساتھ آتی ہیں جن کا حوالہ اوپر دیا گیا ہے حالانکہ ان آیات میں ایک بیان بھی غیر صحیح نہیں ہے ظاہر ہے کہ یہ جائزہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ یہ بات یقیناً یاد رکھنی پڑے گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت پر وہ تعلیمات جو اس ذریعہ سے آئیں دو گروہوں میں بٹ گئیں۔

اولاً مومنین کی ایک جماعت کو قرآن مجید حفظ یاد تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح انہوں نے بھی متعدد بار پڑھا تھا۔ علاوہ ازیں قرآن کریم کے متن کی تحریر پہلے سے موجود تھی۔ یہ تحریر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں اور ہجرت سے قبل بھی محفوظ کر لی گئی تھی۔

ثانیاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابہ جو آپ سے قریب ترین تھے اور مومنین جنہوں نے آپ کے اقوال اور افعال سے اور دیکھے تھے انہوں نے ان باتوں کو یاد رکھا اور جب اصول و ضوابط اخذ کر کے مرتب کیے جانے لگے تو قرآن کریم کے علاوہ تائید کے لیے ان پر بھی بھروسہ کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد کے سالوں میں وہ متون جمع کیے گئے جن میں اس تعلیم کی جو آپ نے چھوڑی تھی دو قسمیں موجود تھیں۔ حدیثوں کے جمع کرنے کا کام ہجرت کے تقریباً چالیس سال بعد شروع کیا گیا۔ لیکن قرآنی سورتوں کے جمع کرنے کا کام حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زیر نگرانی پہلے ہی شروع ہو چکا تھا خصوصیت سے حضرت عثمان کے دور میں یہ کام ہوا۔ موخر الذکر نے اپنے زمانہ خلافت میں ایک مخصوص متن ۳۰ کی اشاعت کی یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بارہویں اور چوبیسویں سال کے درمیان یہ کام انجام پایا۔

جس بات پر نہایت کراہت کے ساتھ زور دیا پڑتا ہے وہ ان دونوں متون کے درمیان ناموافق

۱۵ ہجرت کا واقعہ ۶۲۲ میں یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت سے دس سال قبل ہوا تھا۔

۱۶ یہ توجیہ معقول نہیں ہے۔ ہمارے نزدیک قرآن سے متضاد احادیث کو موضوع قرار دینا مناسب ہوگا (مترجم)

۱۷ حضرت عثمان کے دور خلافت میں صرف قریش کی قرأت پر سب کو جمع کیا گیا (مترجم)

اور غیر یکسانیت ہے۔ ادبی نقطہ نظر سے بھی اور مضمون کے اعتبار سے بھی۔ قرآن کریم کے طرز کا حدیث کے طرز سے مقابلہ کرنا حقیقتاً ناقابل تصور ہے۔ جو بات اس سے بھی بڑھ کر ہے وہ یہ ہے کہ جب دونوں متون کا مقابلہ جدید سائنسی معلومات سے کیا جائے تو دونوں میں تباہی و تخالفت کو دیکھ کر انسان حیران و ششدر رہ جاتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ جو بات اس سے نکلتی ہے اس کے اظہار میں کامیاب ہو گیا ہوں۔

————— ایک طرف قرآن مجید کے بیانات ہیں جو اکثر عام باتیں معلوم ہوتے ہیں۔ لیکن ان میں وہ معلومات پرتہا ہیں جو آئندہ چل کر سائنس منصفہ شہود پر لانے والی تھی۔

————— دوسری طرف احادیث کے بعض بیانات ہیں جو اپنے زمانہ کے خیالات سے مکمل طور پر مطابقت رکھتے ہوئے معلوم ہوتے ہیں لیکن جن میں وہ رائیں شامل ہیں جو آج سائنسی اعتبار سے ناقابل قبول معلوم ہوتی ہیں۔ یہ ان بیانات کے مجموعہ میں پیش آتی ہیں جن کا تعلق ان اسلامی ضوابط و قوانین سے ہے جن کا استناد بغیر شک و شبہ کے تسلیم کر لیا گیا ہے۔

بالآخر یہ بات بتانی پڑے گی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ قرآن مجید کے بارے میں اپنی ذاتی احادیث سے بالکل مختلف تھا۔ قرآن کے متعلق آپ نے فرما دیا تھا کہ وہ وحی آسمانی ہے بیس سال سے زیادہ عرصہ تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تہایت توجہ سے اس صورت میں جیسی کہ ہم اُسے دیکھ رہے ہیں سورتوں کے اعتبار سے اُس کو ترتیب دلایا۔ قرآن کریم وہ چیز تھی جس کو آپ کی حیات طیبہ میں تحریری شکل میں لایا گیا اور نمازوں میں پڑھنے کے لیے اس کو حفظ یاد کیا گیا۔ حدیثوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اصولی طور پر آپ کے افعال اور ذاتی غور و فکر کا ایک تذکرہ ہیں۔ لیکن آپ نے ان کو دوسروں پر چھوڑ دیا کہ وہ اپنے طرز زندگی میں ان کو اپنے لیے نمونہ سمجھیں اور اگر چاہیں تو ان کو عوام میں پھیلائیں۔ اس سلسلہ میں آپ نے کوئی ہدایات جاری نہیں کیں۔

لے یہ سب قیاسات ہیں۔ ورنہ آپ کا یہ ارشاد حدیث کی اہمیت و ضرورت پر پوری طرح دلالت کرتا ہے "میں تمہارے پاس دو چیزیں چھوڑے جاتا ہوں ایک کتاب اللہ اور دوسرا اپنی سنت جب تک اس دونوں کو پکڑے رہو گے گمراہ نہیں ہو گے، حقیقت میں مضیقہ علام نے یہ مفروضہ اس بنیاد پر قائم کر لیا کہ ان کے نزدیک تمام احادیث آپ کے اقوال و افعال ہیں" یہ مفروضہ ہی سرے سے غلط ہے دراصل جو باتیں قرآن کریم سے متصادم نہیں ہیں صرف وہ آپ کی احادیث ہیں اور جو قرآن کی تعلیمات کے خلاف پڑتی ہیں وہ موضوعات میں شامل کی جانی چاہیے کیونکہ قرآن کریم میں صاف طور پر بتا دیا گیا ہے "وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ"، آپ کوئی بات بھی اپنی طرف سے نہیں کہتے بلکہ وہ وہی بات ہوتی ہے جو آپ پر وحی کی جاتی ہے (ایسی صورت میں یہ کہہ دینا کچھ باتیں آپ کی قرآنی حقائق کے خلاف بھی ہوتی تھیں قطعاً خلاف واقعہ ہے۔ آپ جو کچھ فرماتے یا عمل کرتے وہ سراسر قرآن کی توضیح و تشریح ہوتا تھا اس لیے اس کے قرآن سے تباہی نہیں ہوتے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔

اس حقیقت کے پیش نظر کہ ایک محدود تعداد میں حدیثیں ایسی ہیں جو یقینی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خیالات کی ترجمانی کرتی ہیں۔ باقی احادیث کے متعلق یہ خیالات کرنا پڑے گا کہ وہ آپ کے زمانہ کے دوسرے لوگوں کے خیالات ہیں خصوصیت سے ان مضامین سے متعلق جن کا یہاں حوالہ دیا گیا ہے۔ جب ان مشتبہ اور غیر مستند احادیث کا مقابلہ قرآن کے متن سے کیا جاتا ہے تو ہمیں ان میں زبردست اختلاف دکھائی دیتا ہے۔ یہ موازنہ اس دور کی ان تحریروں کے جو سائنسی طور پر غیر صحیح بیانات کی وجہ سے چستان بن گئی ہیں اور قرآن کے جو تحریریں آئی ہوئی وحی کی کتاب اور اس قسم کی غلطیوں سے پاک ہے۔ درمیان زبردست فرق کو نمایاں کرتا ہے۔

(اگر اب بھی اس کی کوئی ضرورت ہے)



۱۰ مذہبی نقطہ نظر سے احادیث کی سچائی شک و شبہ سے یا لاتر ہے۔ لیکن جب ان میں دنیاوی زندگی سے متعلق معاملات بیان ہوتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے انسانوں میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ ایک حدیث ایسی ہے جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک گفتگو کا بیان ہے اس میں آپ نے فرمایا: "جب کبھی میں تمہیں دین سے متعلق کوئی حکم دیتا ہوں تو تمہارے لیے لازمی ہے کہ اس کی تعمیل کرو۔ اور اگر میں اپنی ذاتی رائے سے کوئی بات کہوں (اس بات کو یاد رکھئے) تو میں بھی ایک بشر ہوں"۔ اس شخص نے اپنی کتاب "الاسوسی" میں اس بیان کو حسب ذیل طریقہ پر بیان کیا ہے اگر میں تمہارے دین کے بارے میں کوئی چیز تمہارے پاس لاؤں تو اس کے مطابق عمل کرو اور اگر میں کوئی بات اس دنیا سے متعلق لاؤں تو تم اپنے دنیاوی معاملات کو مجھ سے بہتر جانتے ہو"۔ لیکن یہ باتیں وہ ہیں جو ہماری روزانہ زندگی میں رونما ہوتی رہیں۔ ایسی باتیں آپ سے منسوب نہیں کی جاسکتیں جو قرآن کے مضمون سے متصادم ہوں اور جو چستان بن کر رہ جائیں جیسے بخار دوزخ کی گرمی سے ہوتا ہے ایسی حدیثوں کو موضوع قرار دینا پڑے گا مترجم)

عام نتائج

اس مطالعہ کے اختتام پر ایک حقیقت جو نہایت واضح طور پر سامنے آتی ہے یہ ہے کہ صحف مقدسہ کے متون پر مغرب میں جو غالب رائے اس وقت دکھائی دیتی ہے وہ مشکل سے حقیقت پر مبنی قرار دی جاسکتی ہے۔ ہم نے ان حالات، ان زمانوں اور ان طریقوں کا جائزہ لیا ہے جن میں عہد نامہ قدیم اناجیل اور قرآن کے عناصر کو جمع کیا گیا اور تحریر میں لایا گیا۔ وہ حالات جو ان الہامی صحیفوں کے وجود میں آنے کی وقت تھے آپس میں ایک دوسرے سے بڑی حد تک مختلف تھے جو ایک ایسی حقیقت ہے کہ ان متون اور ان کے مضامین کے بعض پہلوؤں کے استناد سے متعلق بے انتہا اہمیت کی حامل ہے۔

عہد نامہ قدیم ایسی متعدد ادبی تحریروں پر مشتمل ہے جو تقریباً نو سو سال کی مدت میں لکھی گئیں۔ یہ ایک انتہائی غیر یکساں اور مختلف النوع پچھکاری کا کام ہے جس کو ٹکڑوں کو صدیوں کے دوران انسان نے بدل دیا ہے۔ جو چیز پہلے سے موجود تھی اس میں کچھ حصوں کا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ چنانچہ آج یہ بتانا بعض اوقات نہایت مشکل ہو جاتا ہے کہ ابتداءً وہ کہاں سے آئے تھے۔

اناجیل کا مقصد حضرت یسوع مسیح کے اقوال و افعال کے ذریعہ لوگوں کو وہ تعلیمات پہنچانا تھا جو وہ اپنی حیات دنیوی کے مشن کی تکمیل کے وقت لوگوں کو دینا چاہتے تھے۔ بد قسمتی سے اناجیل کے مصنفین ان معلومات کے جو انہوں نے درج کیں عینی شاہد نہیں تھے وہ صرف ترجمان تھے جنہوں نے ان معلومات کا اظہار کیا جو سیدھے طریقے پر ایسی خبریں تھیں جن کو مختلف یہودی، عیسائی فرقوں نے حضرت یسوع مسیح کی قومی زندگی سے متعلق محفوظ کیا تھا اور جو زبانی روایات اور ایسی تحریروں کے ذریعہ منتقل ہوئی تھیں جن کا آج کوئی وجود نہیں ہے۔ اور جو زبانی روایت اور قطعی متون کے بیچ میں ایک درمیانہ درجہ تھا۔

آج اس روشنی میں یہودی۔ عیسائی صحف کا جائزہ لینا چاہیے اور — معروضی طریقہ اختیار کرنے کے لیے — وہ کلاسیکی تصور ترک کر دینا چاہیے جو ماہرین نے تقاسیر میں پیش کیا ہے۔

ذرائع کی کثرت کا تاگزیر نتیجہ یہ ہے کہ تناقضات اور اختلافات پیدا ہو گئے ہیں ان کی بہت سی مثالیں پیش کی جا چکی ہیں۔ اناجیل کے مصنفین کا رجب وہ یسوع مسیح کے متعلق گفتگو کرتے ہیں (بعض واقعات کو بڑھا چڑھا کر بیان کرنے میں وہی رویہ ہوتا تھا جو اپنی بیانیہ نظموں میں قرآنی متون میں)

دور کے ادب کے شعر کا ہوتا تھا نتیجہ اس کا یہ تھا کہ واقعات ہر انفرادی بیان کرنے والے کے نقطہ نظر کو ظاہر کرتے تھے اور اس لیے اکثر حالتوں میں جو واقعات بیان کیے جاتے تھے ان کا استناد بے انتہا مشکوک و مشتبہ ہو گیا ہے اس چیز کے پیش نظر یہودی عیسائی صحیفوں میں سے ان چند بیانات کا جو جدید معلومات سے کچھ علاقہ رکھتے ہیں جائزہ ہمیشہ اس حزم و احتیاط سے لینا چاہیے جو ان کے استناد کی مشتبہ نوعیت کا اقتضا ہے۔

تفادات، ناممکنات اور تناقضات جو جدید سائنسی معلومات سے ہوتے ہیں ان کو ان الفاظ میں یہ آسانی بیان کیا جاسکتا ہے جن کے بارے میں صدر میں بتایا جا چکا ہے۔ لیکن عیسائیوں کو زیادہ حیرت اس وقت ہوتی ہے جب وہ اس بات کو محسوس کرتے ہیں کہ جدید مطالعہ کے بہت سے بدیہی نتائج میں دھوکہ دینے کی غرض سے متعدد سرکاری شارحین کی ایسی مسلسل اور دور رس کوششیں رہی ہیں کہ انھوں نے عذر خواہانہ ترمیم ریزی سے نعمہ کے سروں کو ترتیب دے کر بڑی چالاک کی کے ساتھ منطقی نوعیت کے مداریوں کا کردار ادا کیا ہے۔ اس کی واضح مثال حضرت یسوع مسیح کے وہ نسبتاً مے ہیں جو تھی اور لوگانے دیئے ہیں جن میں باہم تضاد ہے اور جو سائنسی اعتبار سے ناقابل قبول ہیں بعض ایسی مثالیں پیش کی گئی ہیں جن سے اس رویہ کا صاف طور پر اظہار ہوتا ہے۔ یوحنا کی انجیل پر خصوصی توجہ دی جانی چاہیے اس لیے کہ اس میں اور باقی تین انجیلوں کے درمیان بڑے اہم اختلافات ہیں۔ بالخصوص یہ حقیقت سامنے ہے کہ اس انجیل میں مقدس عشاءے ربانی کا تذکرہ نہیں ہے۔ اور یہ بات عام طور پر لوگوں کے علم میں نہیں ہے۔

نزول قرآن کی ایک تاریخ ہے جو بنیادی طور پر ان دونوں مختلف ہے۔ اسکا پھیلاؤ لگ بھگ بیس سال کی مدت پر ہے۔ جیسے ہی یہ حضرت جبریل کے ذریعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تھا ویسے ہی اہل ایمان اس کو حفظ کر لیتے تھے۔ پھر اس کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے دوران ضبط تحریر میں بھی لے آیا گیا تھا۔ قرآن کریم کی آخری تہذیبات خلیفۃ الرسول حضرت عثمان کے زمانہ میں کی گئیں جس کی ابتداء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بارہ سال بعد اور اتہا چوبیس سال بعد ہوئی اس وقت یہ فائدہ حاصل تھا کہ جن لوگوں کو قرآن پہلے ہی سے حفظ یاد تھا ان سے اس کا موازنہ کر لیا جاتا تھا۔ کیونکہ انھوں نے بوقت نزول ہی اس کو یاد کر لیا تھا اور بعد میں برابر اس کی تلاوت کرتے رہے تھے۔ ہمیں معلوم ہے کہ تن کو اسی وقت سے پوری دیانت داری سے محفوظ کیا گیا ہے اس کی وجہ استناد کا کوئی مسئلہ ہی پیدا نہیں ہوتا۔

قرآن مجید ان دونوں صحیفوں سے جو اس سے قبل نازل ہوئے تھے بڑھ چڑھ کر اپنا کام جاری رکھے۔

ہوتے ہے۔ اور اپنے بیانات کے لحاظ سے تضادات و تناقضات سے پاک ہے۔ جبکہ اناجیل میں انسان کی کارگزاریوں کی علامت پائی جاتی ہے۔ قرآن کی ان لوگوں کے لیے جو معروضی طور پر اور سائنسی اعتبار سے اس کا جائزہ لیتے ہیں ایک الگ خوبی ہے۔ وہ خوبی جدید سائنسی معلومات سے اس کی کلی طور پر مطابقت ہے۔ اس سے بھی بڑھ کر جو بات ہے وہ یہ کہ اس میں ایسے بیانات موجود ہیں (جیسا کہ بتایا جا چکا ہے) جو سائنس سے مربوط ہیں۔ ایسی صورت میں یہ بات ناقابل تصور ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کا کوئی شخص اس کی مصنف ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ جدید سائنسی معلومات ہی نے ہمیں قرآن کریم کی بعض آیات کو سمجھنے کا موقع دیا ہے جن کی توضیح کرنا اس زمانہ میں ممکن نہ تھا۔

بائبل اور قرآن کے ایک ہی مضمون کے کسی بیانات کے موازنہ سے وہ بنیادی اختلافات ظاہر ہوتے ہیں جو اول الذکر کے بیانات کے جو سائنسی اعتبار سے ناقابل قبول ہیں اور مؤخر الذکر کے بیانات کے جو جدید معلومات سے ہم آہنگی رکھتے ہیں۔ درمیان دکھائی دیتے ہیں مثلاً تخلیق اور طوفان عالمگیر کے واقعات ہیں! البتہ بائبل کا ایک انتہائی ضروری تکرار جو قرآن مجید کے متن میں خروج کی تاریخ کے موضوع پر ہے۔ اثریاتی تحقیقات کے ساتھ بے انتہا مطابقت رکھتا ہے۔ یہ تحقیقات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ کی تعیین سے متعلق ہے علاوہ ازیں دیگر موضوعات پر قرآن اور بائبل میں بڑے اختلافات ہیں۔ یہ اختلافات اس دعویٰ کو عطا ثابت کر دیتے ہیں جس میں بغیر ذرا سی شہادت کے یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کا متن پیش کرنے کے لیے بائبل کی نقل کر ڈالی۔

جب سائنس سے متعلق بیانات کا جو ان احادیث کے مجموعہ میں پائے جاتے ہیں جن کا انتساب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا جاتا ہے لیکن جن میں سے اکثر مشتبہ ہیں (حالانکہ وہ اس دور کے عقائد کی عکاسی کرتی ہیں) قرآن میں شامل اسی قسم کی معلومات سے تقابلی موازنہ کیا جاتا ہے تو غیر یکسانیت اس قدر واضح ہوتی ہے کہ ان دونوں کے ایک ہی ماخذ ہونے کا تصور خارج از بحث ہو جاتا ہے۔

حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کی معلومات کی نوعیت کو دیکھتے ہوئے یہ بات ناقابل تصور معلوم ہوتی ہے کہ قرآن کے بہت سے وہ بیانات جو سائنس سے متعلق ہیں کسی بشر کا کام ہو سکتے ہیں لہذا یہ بات مکمل طور پر صحیح ہے کہ قرآن کو وحی آسمانی کا اظہار سمجھا جائے۔ لیکن ساتھ ہی اس استناد کے سبب جو اس سے فراہم ہوتی ہے تیرا ان سائنسی بیانات کی وجہ سے جن کا آج بھی مطالعہ کرنا ہی نوع انسان کے لیے ایک چیلنج ہے اس کو ایک انتہائی خصوصی مقام حاصل ہے۔ **تمت**

اے مصنف علام کا مقصد یہ بتانا ہے کہ جب قرآن میں اس زمانہ کے خیالات سے مختلف خیالات ملتے ہیں تو لازمی طور پر یہ ایک الہامی کتاب ہے اور اس کو کسی انسان نے خود تصنیف نہیں کیا۔


فہرست مضامین بائبل قرآن سائنس

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۸۵	مرقس کی انجیل	۳	تعارف از مورس بوکائیے
۸۸	لوقا کی انجیل	۱۷	عرض مترجم
۹۲	یوحنا کی انجیل	۱۹	باب اول عہد نامہ قدیم عمومی خاکہ
۹۵	انجیلوں کے ماخذ	۲۲	بائبل کے ماخذ
۱۰۱	متون کی تاریخ	۲۶	باب دوم عہد نامہ قدیم کی کتابیں
۱۰۴	باب چہارم اناجیل اور سائنس	۲۹	توریت یا اسفار خمسہ
۱۰۸	یسوع کے نسب نامے	۳۶	نارنجی کتب متون کی تقسیم کی جدول
۱۱۴	متون کا باریک بینی سے جائزہ	۳۸	الہامی کتب
۱۱۷	تفسیر میں جدید { ماہرین کی تشریحات {	۴۰	شاعری اور حکمت کی کتابیں
۱۲۰	باب پنجم بیانات میں { تضادات اور ناممکنات {	۴۲	عہد نامہ قدیم اور سائنس (نتائج تحقیقات)
۱۲۵	یسوع کے مردوں میں سے { اٹھنے کی وہی صورتیں {	۴۳	دنیا کی تخلیق
۱۲۷	رفع مسیح	۵۴	طوفان عالمگیر
۱۲۸	قرآن اور { جدید سائنس {	۵۸	ایک تنقیدی جائزہ
۱۵۷	قرآن کی صداقت کس { طرح یہ تحریری شکل میں آیا {	۶۴	اختتامیہ
		۶۶	باب اول اناجیل (اول) ابتدائیہ
		۷۱	باب دوم تاریخی یا دہائی { یہودی عیسائیت اور سینٹ پال {
		۷۶	باب سوم اناجیل اربعہ ماخذ اور تاریخ
		۸۰	متی کی انجیل

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۲۰۷	خلا کی تسخیر		ارض و سماوات کی تخلیق
۲۱۱	باب پنجم - زمین	۱۶۵	بائبل کے بیانات سے
۲۱۵	پانی کا دور اور سمندر		اختلافات و اتفاقات
	زمین کا ابھار	۱۷۷	نظام شمسی - کہکشائیں
۲۲۶	{ (نشب و فراز)	۱۸۰	عالمین کے تعدد کا تصور
۲۲۹	کرۃ باد میں بجلی	۱۸۱	بین کوہکی مادہ
۲۳۱	پرچھائیاں (سائے)		تخلیق سے متعلق قرآن میں دی
	باب ششم - عالم حیوانی اور	۱۸۲	{ ہوتی معلومات کے ساتھ مقابلہ
۲۳۳	{ عالم نباتات حیات کی ابتداء	۱۸۴	بعض اعتراضات کے جوابات
۲۳۵	عالم نباتات	۱۸۷	آسمان سے متعلق عام تصورات
	متعدد غذاؤں کی مختلف مقادیر	۱۹۱	اجرام سماوی کی نوعیت
۲۳۷	{ عالم نباتات میں افزائش نسل	۱۹۴	آسمان دنیا
۲۴۰	عالم حیوانی	۱۹۵	نظام سماوی
۲۴۱	عالم حیوانی میں افزائش نسل	۱۹۶	چاند سورج کے مداروں کا وجود
۲۴۲	حیوانی برادری کے وجود کا ذکر	۱۹۷	چاند کا مدار
	شہد کی مکھیوں مکرپیوں	۱۹۸	سورج
۲۴۳	{ اور پرندوں سے متعلق بیانات		خلا میں چاند اور سورج
	باروری کا عمل رفیق مادہ کی	۱۹۹	{ کی حرکتوں کا ان کی اپنی
۲۵۳	{ نہایت قلیل مقدار سے انجام پانا		{ گردشوں کے لحاظ سے حوالہ
	عورت کے تناسلی اعضاء میں	۲۰۳	آسمانوں کا ارتقار
۲۵۶	{ بارور شدہ بیضہ کا استقرار	۲۰۶	کائنات کا پھیلاؤ

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۲۸۸	پانی کا معجزانہ طور پر پھینا	۲۵۸	رحم کے اندر جنین کا ارتقار
۲۹۲	رعیسیس دوم ظلم و ستم کرنے والا فرعون	۲۶۰	قرآن اور جنسی تعلیم
۳۰۰	خروج کے دوران فرعون کی موت کا ذکر مقدس صحائف میں	۲۶۵	قرآن اور بائبل کے بیانات
۳۰۶	قرآن حدیث اور جدید سائنس	۲۶۹	جزر دوم - طوفان عالمگیر
۳۱۲	عام نتائج	۲۷۷	جزر سوم - خروج
		۲۸۷	مصر میں جو بلائیں نازل ہوئیں

ادارة القرآن والعلوم الاسلامیہ
 علمائے قرآن و سنت و ماہرین رسم قرآنی کا گہری نظر و توجہ سے تصحیح کردہ
 اغلاط سے پاک قرآن مجید مختلف سائزوں میں، دیدہ زیب طباعت، جلی و خوشنما کتابت،
 اعلیٰ کاغذ اور بانڈنگ کے ساتھ اس دور گرانی میں سب سے زیادہ رعایتی ہدیہ پر
 طلب فرمائیں۔
 ادارة القرآن والعلوم الاسلامیہ۔ اشرف منزل ۵/۴۳۷۔ گارڈن ایسٹ۔ ویب سٹریٹ۔ نزد سبیلہ چوک۔ کراچی ۵



بائبل

قُرْآن

سائینس

مترجم
ثناء الحق صدیقی

مصنّف
مورس بوکائیے

ناشر

إدارة القرآن
والعلوم الإسلامیة

۲۳۷/ڈی۔ گارڈن ایسٹ۔ نزد لسبیلہ چوک۔ کراچی ۷

۷۶۴۸۸

فون